




# البصيرة

مقتطفات من القرآن الكريم

## THE VISION

SELECTIONS FROM THE HOLY QUR'AN



# بصيرة

قرآن حکیم سے انتخابات

LIEUTENANT COLONEL (RETD)  
SHAIKH ABDUL RAUF

المقدم المقاعد  
شيخ عبد الرؤوف

86/61

68661

American Library of Congress  
Card Number: 87-931497

All rights reserved.

No part of this book may be used or reproduced in any form whatsoever without written permission except in case of brief quotations embodied in an article or a review. Permission may be granted to reprint the book in any other language by replacing the Urdu column subject to an undertaking that all profits will be spent on the propagation of Islamic teachings, as it is the firm intention of the compiler not to use any profits accruing from this book for any personal gains.

Produced and Distributed  
By  
ALFEM Publications  
133-C, Westridge 1  
Rawalpindi, PAKISTAN  
Phone : 862629

First Edition : March, 1987

Price.  
In Pakistan  
Abroad. US \$ 18  
EQUIVALENT  
Printed at  
Hafeez Printing Corporation  
Gawalmandi, Rawalpindi

Excluding  
Postage

جميع الحقوق بحق مؤلف كتاب هذا محفوظه باسم المؤلف  
ولا يسمح باستعمال هذا الكتاب جزئياً  
او كلياً بدون الإذن التحريري من المؤلف  
إلا لغرض الاقتباس القليل في مقال أو تعليق.  
ولا يسمح كذلك بترجمة الكتاب إلى لغة أخرى  
إلا بشرط إحلالها محل الترجمة الأردوية  
في العمود الخامس بهام في الكتاب وبشرط تعهد  
المهتم بها أنه سينفق جميع الربح الحاصل  
بعد بيع الكتاب على اشاعة وترويج التعاليم الإسلامية  
لأن المؤلف قد صمم على عدم استعمال  
الربح الحاصل نتيجة بيع الكتاب لمصالح  
ذاتية أو شخصية.

نشر وتوزيع :

مكتبة سليم

۱۳۳ سی۔ ویسٹ ریج رقم ۱

راولپنڈی۔ پاکستان

رقم الهاتف : ۸۶۲۶۲۹

الطبعة الأولى : رجب ۱۴۰۷

التمن :

داخل البلاد :  
خارج البلاد :  
علاوة على  
طابع بريدية  
الطبعة :

حفیظ برنیج کاربوریشن

جوالمنڈی۔ راولپنڈی

مجملة حقوق بحق مؤلف كتاب هذا محفوظه ہیں  
بغیر تحریری اجازت لئے اس کتاب کو کئی یا  
جزوی طور پر کسی صورت میں استعمال کرنے کی اجازت  
نہیں۔ سوائے اس کے کہ کسی مقالہ یا تبصرہ میں مختصر  
اقتباسات سے استفاہ کیا گیا ہو۔ اس کتاب کو کسی  
دوسری زبان میں شائع کرنے کی اجازت صرف اس صورت  
میں ہی جاسکتی ہے کہ اردو کے کلام میں زبان مطلوبہ کو جبکہ  
دیئے جانے بشرطیکہ اس امر کی یقین دہانی کرائی جائے  
کہ کتاب کی ذرخت سے حاصل شدہ تمام منافع اسلامی  
تعلیمات کے فروغ اور ترویج پر صرف کیا جائیگا۔ مؤلف کا قطعی  
ارادہ ہے کہ اس کتاب سے حاصل شدہ منافع ذاتی  
یا شخصی مصرف میں نہیں لایا جائے گا۔

پبلشر :

مکتبہ سلیم

۱۳۳ سی۔ ویسٹ ریج ۱

راولپنڈی۔ پاکستان

ٹیلیفون : ۸۶۲۶۲۹

اشاعت اول : مارچ ۱۹۸۷

قیمت :

اندرون ملک :  
بیرون ملک :  
علاوہ  
ڈاک چارج

مطبوعہ :

حفیظ برنیج کاربوریشن

جوالمنڈی۔ راولپنڈی

3055

الحمد لله الذي هداني ووفقني لسطاعة آيات  
القرآنية المذكورة في الكتاب "البصيرة" وأشهد  
بأنني لم أجد أي تحريف أو خطأ فيها -

محمد عبد الرحمن قریشی

محمد عبد الرحمن قریشی

نائب المدير (الجناح القرآني)  
وزارة الشؤون الدينية  
اسلام آباد

Praise be to Allah! I certify  
that I have gone through all the  
Qur'anic Verses in "The Vision"  
and have found it devoid of any  
verbal mistakes, omission or  
commission.

M. Abdul Rehman

M. Abdul Rehman Qureshi,  
Deputy Director: (Al-Qur'an)  
Ministry of Religious Affairs,  
Islamabad

الحمد لله في من كتاب بصيرت میں درج  
تمام قرآنی آیات کا مطالعہ کیا ہے۔ آیات میں  
کسی قسم کی اعرابی یا تحریفی اغلاط نہیں ہیں۔

محمد عبد الرحمن قریشی

محمد عبد الرحمن قریشی

ڈپٹی ڈائریکٹر (شعبہ القرآن)  
وزارت مذہبی امور  
اسلام آباد

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful)

		المقدمة	مقدمہ
PREFACE		التقديم	پیش لفظ
FOREWORD		توطئة	تعارف
INTRODUCTION		كيف يستخذم البصيرة	'بصیرت' سے استفادہ کا طریقہ
HOW TO CONSULT "THE VISION"		كلمة الشكر	اظہارِ شکر
ACKNOWLEDGEMENTS		العناوين	عنوانات
CONTENTS			
	Page	الصفحة	صفحہ
1. INTRODUCTION TO THE QUR'AN	1	٢٧	٥١
2. MONOTHEISM - Oneness of Allah	2	٢٨	٥٢
3. PROPHETHOOD - Muhammad, Peace and Blessing of Allah be upon him (P B U H)	2	٢٨	٥٢
4. WORSHIP OF ALLAH	4	٢٩	٥٣
Prayer	4	٢٩	٥٣
Fasting	4	٣٠	٥٣
Mandatory Alms (Zakat and Ushr)	4	٣٠	٥٣
Pilgrimage (Major and Minor)	5	٣٠	٥٣
Remembrance of Allah (Zikr)	5	٣٠	٥٣
Voluntary Alms (Sadqaat); refer to 'Economic Provisions'	5	٣٨	٦٢
Repentance (Tauba)	5	٣١	٥٥
Supplication (Du'a)	6	٣١	٥٥

5. RELIGION OF ISLAM	6	۳۲	۵- دینِ اسلام	۵۶	۵- دینِ اسلام
Al Islam	6	۳۲	الإسلام	۵۶	الإسلام
People whom Allah Likes	7	۳۲	من يحبهم الله	۵۷	اللہ تعالیٰ کو پسند فرماتا ہے
People whom Allah Dislikes	7	۳۳	من لا يحبهم الله	۵۷	اللہ تعالیٰ کو ناپسند فرماتا ہے
Who are the Believers	8	۳۳	من المؤمنون	۵۷	مومن کون ہیں
Facts of Life	8	۳۴	حقائق الحياة	۵۸	حقائق زندگی
6. MATRIMONIAL LAWS AND IN- FUNCTIONS ON VEILING	10	۳۵	۶- القوانين الزوجية وأحكام الحجاب	۵۹	۶- عائلی قوانین و پردہ کے احکام
Muslim Male and Female	10	۳۵	المسلم والمسلمة	۵۹	مسلم مرد اور عورت
Marriage (Nikah)	10	۳۵	النكاح	۶۰	نکاح
Dissensions between Husband and Wife	10	۳۶	الاختلاف بين المرأة وزوجها	۶۰	میاں بیوی کے درمیان نا اتفاق
Dower money (Mehr)	10	۳۶	المهر	۶۰	حق مہر
Divorce (Talaq)	11	۳۶	الطلاق	۶۰	طلاق
Prescribed period for women (Iddat)	11	۳۶	عدة المرأة	۶۱	عورت کے لئے عدت
Miscellaneous	11	۳۶	المترقات	۶۱	متفرقات
Injunctions on Veiling	11	۳۷	احكام الحجاب	۶۱	پردہ کے احکام
7. ECONOMIC PROVISIONS	11	۳۷	۷- الاقصاديات	۶۱	۷- معاشیات
Economy	11	۳۷	المعيشة	۶۱	معیشت
Mandatory Alms (Zakat and Ushr), refer to 'Worship of Allah'	12	۳۸	الزكاة والعشر (لاحظ عنوان عبادة الله)	۵۳	زکوٰۃ و عشر (ملاحظہ فرمائیں عبادت)
Voluntary Alms (Sadaqat)	13	۳۸	الصدقات	۶۲	صدقات
Bequest and Inheritance	13	۳۸	أحكام الوصية والوراثة	۶۳	احکام وصیت و وراثت
8. SOCIAL LIFE	13	۳۹	۸- الحياة الاجتماعية	۶۳	۸- سماجی زندگی
Social Mores (Conventions)	13	۳۹	آداب المجلس	۶۳	آداب مجلس
Social Relations	14	۳۹	العلاقات الاجتماعية	۶۴	سماجی تعلقات
Social Evils	15	۴۰	السيئات الاجتماعية	۶۴	سماجی برائیاں

Dealings with the non-Muslims	15	٤٠	العلاقات بغير المسلمين	٦٥	غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات
Lawful and Unlawful	16	٤١	المحلال والحرام	٦٥	حلال و حرام
9. PERSONAL BEHAVIOUR	17	٤٢	٩- المعاشرة	٦٦	٩- معاشرت
Good behaviour	17	٤٢	حسن المخلق	٦٦	حسن اخلاق
Moral evils	17	٤٢	الأخلاق السيئة	٦٦	اخلاقی بُرائیاں
10. PUBLIC OBLIGATIONS	17	٤٢	١٠- حقوق العباد	٦٤	١٠- حقوق العباد
Responsibility of the Head of Family	17	٤٢	مسئولية رب الأسرة	٦٤	خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری
Treatment of Offspring	17	٤٢	التعامل مع الأولاد	٦٤	اولاد کے ساتھ سلوک
Dealings with the Parents	18	٤٢	التعامل مع الأبوين	٦٤	والدین کے ساتھ سلوک
Dealings with the Wife	18	٤٣	التعامل مع الزوجة	٦٤	بیوی کے ساتھ سلوک
Dealings with Relatives	18	٤٣	التعامل مع الأقارب	٦٤	رشتہ داروں کے ساتھ سلوک
Dealings with Orphans	18	٤٣	التعامل مع اليتامى	٦٤	یتیموں کے ساتھ سلوک
Dealings with other categories of people	18	٤٣	التعامل مع الآخرين	٦٤	دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک
11. LAW AND JUSTICE	18	٤٣	١١- القانون والعدالة	٦٨	١١- قانون و عدالت
Evidence and equity	18	٤٣	الشهادة والعدل	٦٨	شہادت و عدل
Punishments for fornication, Adultery and slander	19	٤٤	الزنا والقذف	٦٨	زنا اور قذف
Retribution for Homicide and Punishments for other Cardinal Crimes	19	٤٤	القصاص والمحدود الشرعية	٦٩	قصاص و حدود شرعیہ
Amends and Recompense	20	٤٤	الديات والكفارات	٦٩	دیات و کفارات
12. DEFENCE	20	٤٥	١٢- الدفاع	٦٩	١٢- دفاع
Holy War (Jihad) and Migration	20	٤٥	المجاهد والهجرة	٦٩	جہاد و ہجرت
Defence	20	٤٥	الدفاع	٦٩	دفاع
13. POLITICS	22	٤٦	١٣- السياسة	٦٩	١٣- سیاست
14. RISE AND FALL OF NATIONS	23	٤٧	١٤- عروج الاقوام وهبوطها	٦٩	١٣- قوموں کا عروج و زوال



15. NATURAL SCIENCES	23	۴۸	۱۵- العلوم الكونية	۴۳	۱۵- کائناتی علوم
Creation of the Universe	23	۴۸	خلق الكائنات	۴۳	تخلیق کائنات
Creation of Humankind and Jinn	23	۴۸	خلق الانس والجن والحيوانات	۴۳	انسانوں جنوں اور حیوانوں کی پیدائش
Signs of Nature meant for Reflection	24	۴۸	آيات الكون تستدعي التأمل	۴۳	غور و فکر کے لئے قدرت کی نشانیاں
Allah's Attributes of Creation and Reproduction	24	۴۹	صفات الله التكوينية والإبداعية	۴۳	اللہ تعالیٰ کی صفتِ خلق و پیدائش
16. THE DOOMS-DAY	25	۵۰	۱۶- القيامة	۴۵	۱۶- قیامت
• SELF ANALYSIS (A method)			• التعليل الذاتي (طريقة)		• اپنا تجزیہ (ایک طریقہ)
For Muslim Male and Female	326	۳۲۶	للمسلم والمسلمة	۳۲۶	مسلمان مرد اور عورت کے لئے
For a Muslim Male	333	۳۳۳	لمسلم	۳۳۳	مسلمان مرد کے لئے
For a Muslim Female	335	۳۳۵	لمسلمة	۳۳۵	مسلمان عورت کے لئے
• INDEX	337	۳۳۹	• فهرس	۳۳۱	• فہرست

## PREFACE

IN THE NAME OF ALLAH, THE  
BENEFICENT, THE MERFICUL.  
WE PRAISE HIM AND SALUTE  
HIS HONOURABLE MESSENGER'

The 'Vision' (Basirat) is a valuable compendium of the Qur'anic teachings, which has made it easy for the common reader to obtain guidance from the Holy Book. Undoubtedly, much labour and patient endeavour have gone into its compilation. The book contains an extremely useful selection of Qur'anic Verses bearing on a large number of important topics, presented in a very methodical and systematic manner. Besides shedding light on vital day-to-day problems of life facing contemporary Muslims it also provides Qur'anic guidance for securing temporal and spiritual happiness. As pointed out in the Traditions of the Holy Prophet (Peace and Blessing of Allah be upon him – P.B.U.H.) reciting the Illustrious Qur'an, studying and pondering over its contents brings Divine Blessings to the Faithful. It is related by Abdullah bin Mas'ud (Allah be pleased with him – R.A.A.) that the Holy Prophet said: "Whosoever reads one word of the Book of Allah, he will get a merit for it but this will be equal to ten merits. And I do not say that Alif Lam Meem is one word but each one of them is a separate word." It is clear from this Tradition that by reading Alif Lam Meem in the Book of Allah one gets reward of performing thirty good deeds.

This compendium contains a rich collection of the Qur'anic teachings. Its reading, understanding and comprehension will bring blessings and happiness and will guide the Believers to achieve success in this world and the Hereafter. There is another significant Tradition to be found in "Sahih Muslim": It is related by Um'ar bin al-Khattab (R.A.A.) that the Holy Prophet said: "Through this

## المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

الكتاب اعنى "البصيرة" مجموعة نادرة لمعرفة التعاليم القرآنية بسهولة وقد بذل المؤلف مساعيه الوافرة بجد واجتهاد في تأليفها وترتيبها قدم فيها الآيات المناسبة الدالة على المواضع الهامة المفيدة لتجد الأمة المسلمة حلا جذريا للقضايا الاساسية التي تصادفها في العصر الحاضر وازافة الى ذلك انها تجرد فيها نفعات سعادة نفع الدارين الدنيا والآخرة - لاشك ان قراءة القرآن والتدبر في آياته تجلب الخير والنفعات الإلهية على المؤمنين كما اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديثه المباركة - قد روى عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشرا مثاها - لا اقول المراد حرف بل الالف حرف واللام حرف والميم حرف) ويتضح من هذا الحديث ان من قرأ المر من القرآن يستحق اجر ثلاثين حسنة او ما شاء الله من الحسنات -

هذا المجموعه تصوى على خيرة نادرة من التعاليم القرآنية وان قرأتها والتدبر فيها لنفعها تتسبب في نزول امطار الرحمة والنفعات الإلهية و تساعد قارئها والذي يتدبر فيها الى غاية التوفيق والهداية الإلهية - وقد روى الامام مسلم حديثا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

## مقدمه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بصیرت قرآن کریم کی تعلیمات سے سہولت کے ساتھ معرفت حاصل کرنے کا ایک نایاب مجموعہ ہے جس کے تیار کرنے میں بڑی محنت و کاوش سے کام لیا گیا ہے اس میں بہت ہی اہم موضوعات پر قرآنی آیات کا مفید انتخاب منظم طریقے سے پیش کیا گیا ہے جس سے ہمارے موجودہ دور میں مسلمانوں کے ہر ذمہ کو زندگی کے اہم مسائل پر نور معرفت اور روشنی میسر ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لئے قرآنی ہدایات حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کے پڑھنے، اس کا مطالعہ کرنے میں ہر فرد کو فکر اور تفکر و تدبر کرنے سے مومنوں پر برکات نازل ہوتی ہیں جن کی طرف اشارہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ہر شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے اسے ایک نیکی ملی ہے لیکن یہ نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ آکر ایک حرف ہے بلکہ اس میں الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس حدیث شریف سے واضح ہوتا ہے کہ کتاب اللہ سے آکر پڑھنے سے تیس نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔

اس مجموعے میں قرآنی تعلیمات کا بڑا ذخیرہ جمع ہے اس کے پڑھنے، مطالعہ کرنے اور سمجھنے سے برکات و مسرت کی بارش ہوگی اور دنیا و آخرت کی سعادت کے لئے ہدایت و توفیق عمل میسر ہوگی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلم شریف میں ایک حدیث مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ اقوام کو سر بلند فرمادے گا اور کچھ کو

Book, Almighty Allah will elevate some people and degrade some others." That is to say, nations that obtain their guidance from the Qur'an are raised to the pinnacle of glory by Almighty Allah, while those who neglect the Glorious Qur'an are made to suffer humiliation and eventual extinction from the earth. The Sublime Lord says in the Qur'an itself that the Holy Book is a Cure and a Mercy for the Believers, while those who disobey its Commandments and exceed the limits laid down by the Almighty must face failure and disappointment.

I hope that the readers of this compilation will greatly profit from it as it contains an excellent selection of the Qur'anic Verses, presented in a very good manner. In my opinion, this book should serve as a handy work of reference in all places where the teachings of the Qur'an are studied. It will particularly help Khateebis of Congregational Mosques by providing relevant verses on different subjects to them for their Friday sermons. Due to trilingualism of the book, besides Pakistan, India and the Middle East, readers in other countries who know only English can also derive benefit from this book.

I pray to the Almighty to fully reward Lt. Col. Shaikh Abdul Rauf for preparing this useful compendium and grant him high position in this world and the Hereafter. May Allah accept and approve his effort. Aameen. "And our last prayer is that All Praise belongs to Allah Who is the Sustainer of all the Worlds".

**Dr. Abdul Wahid J. Halepota**

Adviser (Research), International Islamic University and Chairman Council of Islamic Ideology, Pakistan

21 Ramadhan 1406 A.H.

31 May 1986 A.C.

ISI AMABAD

ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما  
و يضع به آخرين ومعنى الحديث  
ان الاقوام التي تقبس جذوة نار  
الهداية من القرآن الكريم يرفعها  
الله درجاتها وان التي تتخذها  
مهجورا يذلها الله ويمحوها  
عن سطح الارض و اليه اشار الله  
سبحانه و تعالى في القرآن الكريم  
"ونزل من القرآن ما هو شفاء  
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين  
الا خسارا"

انا واثق كل الوثوق بان قارئ  
هذه المجموعة القرآنية سيستفيد  
كل الاستفادة لانها تشمل على الآيات  
القرآنية المختارة احسن اختيار و اتمنى  
ان تكون هذه المجموعة متوفرة في المجالس  
التي تنعقد للتدبر في القرآن و كذلك يجد  
الخطباء وائمة الساجد سهولة للحصول  
على الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوعات  
المختلفة و هكذا يستطيعون ان يستفيدوا  
منها استفادة كبيرة و بسبب كون هذه المجموعة  
بثلاث لغات يستفيد منها القارئون في باكستان  
والهند و البلاد العربية و كذلك في البلاد التي  
يتكلم شعبها باللغة الانجليزية -

أدعو الله سبحانه و تعالى أن يجعل  
أجرا عظيما للأخ الكريم الشيخ عبدالرؤف  
بسبب تأليف هذه الذخيرة القيمة  
و أن يرفع درجاته في الدنيا و الآخرة  
و ان يجعل مساعيه مقبولة و مأجورة آمين  
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

الدكتور عبدالواحد هالپوتا  
مستشار البعث بالجامعة الدولية الاسلامية  
ورئيس مجلس الفكر الاسلامي بباكستان  
٣١ رمضان المبارك ١٤٠٦ هـ  
الموافق ٣١ مايو ١٩٨٦ م  
إسلام آباد

نیچے گرا دے گا یعنی جو قومیں قرآن سے  
ہدایت حاصل کرتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ  
بلند درجہ دیتا ہے اور جو قومیں قرآن کریم  
کو چھوڑ بیٹھتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار  
کر دیتا ہے اور صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔  
خود قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے  
کہ قرآن مومنوں کے لئے شفا اور رحمت  
ہے۔ اور جو لوگ قرآن کی احکام کی  
نافرمانی کر کے حدود اللہ سے باہر نکل  
جاتے ہیں انہیں ناکامی و نامرادی کا سامنا  
کرنا پڑتا ہے۔

امید ہے کہ اس مجموعے کا مطالعہ کرنے  
والوں کو بڑا فائدہ ہو گا کیونکہ اس میں قرآنی آیات  
کا انتخاب بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔  
میری رائے میں یہ مجموعہ ہر اس محفل میں آسانی سے  
دستیاب ہونے والے ذخیرہ کے طور پر موجود رہے گا۔  
جہاں قرآنی تعلیمات کا مطالعہ کیا جاتا ہے نیز اس  
مجموعے سے جامع مسجدوں میں خطبوں کو ہر جمعہ  
مختلف موضوعات پر آیات قرآنی کے حصول میں  
بڑی سہولت ہوگی جس سے انہیں بڑا فائدہ  
ہوگا۔ اس کتاب کے سہ زبانی ہونے کی  
وجہ سے پاکستان، ہندوستان اور عرب ممالک  
کے علاوہ انگریزی زبان استعمال کرنے والے  
دوسرے ممالک کے قارئین بھی اس سے مستفید ہونگے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرنل شیخ عبدالرؤف  
کو اس ذخیرہ کو جمع کرنے کے لئے اجر عظیم عطا  
فرمائیں۔ دنیا و آخرت میں ان کے درجات بلند ہوں  
اور ان کی یہ کوشش اللہ تعالیٰ کے نزدیک  
مقبول و ما جور ہو۔ آمین!  
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

ڈاکٹر عبدالواحد ہالپوتا  
مشیر ریسرچ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی و  
چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان  
٣١ رمضان المبارک ١٤٠٦ هـ  
٣١ مئی ١٩٨٦  
اسلام آباد

## FOREWORD

## تقدیم

## پیش لفظ

(i)

The Glorious Qur'an is a unique book which provides guidance for our permanent prosperity. Its contents are Matchless in the annals of mankind. The Verses of the Holy Qur'an fall in two major categories: (a) The Fundamental Verses; which contain the basic teaching of the Holy Book; (b) The Obscure verses whose real import is known to Almighty Allah or men of knowledge and vision who remember Allah constantly, sitting, standing or lying, pondering over the creation of the Universe in the total belief that He did not create anything without a purpose. The Message of the Illustrious Qur'an is a Universal Message. It underlines the need for the deepest cotemplation which opens up the floodgates of knowledge and consciousness of man.

The second important feature of its teachings is their comprehensiveness: no aspect of human life has been left untouched. It was this quality of the teaching of the Qur'an which impressed Goethe, the renowned German poet, so profoundly that while describing the Mission of the Holy Prophet of Islam (Peace and Blessings of Allah be on him!), he said that it was like a majestic river, flowing eternally.

The Exalted Qur'an is a storehouse of Universal Knowledge and Divine Mysteries and Transpose. It has a style which moves the hearts and induces such fear of Allah Almighty that the hair on the body stand on edge when it is recited. The

ان القرآن المجید لکتاب وحید  
یہدی الی فلاح الدائم۔ ومضامینہ  
عدیة النظیر فی تاریخ النوع البشري۔  
تنقسم آیات القرآن الی قسمین رئیسین  
وهما (ا) آیات المحکمات الی تتضمن  
تعالیم الکتاب الاقدس الأساسية (ب)  
والآیات التثابہات الی لا یعلم تأویلہا  
إلا اللہ أو الراسخون فی العلم الذین  
یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم  
ویتفکرون فی خلق الکنون بایقانہم الکمل  
أن اللہ القدیر لم یخلق ائی شیء عبثا و  
باطلا۔ ان رسالۃ القرآن المجید رسالۃ عالیة  
وهی تنطوی علی ضرورة التدبر العمیق الذی  
یفتح علی الانسان ابواب المعرفة والشعور۔

ان المیزة الهامة الثانية لتعالیم القرآن  
هی جامعیتہا وشمولہا حیث انہا لم تترك  
أیة ناحية من الحیاة البشرية إلا عالجهما  
ان هذه المیزة لتعالیم القرآن هی الی  
أعجبت غوته الشاعر الالماني الشهیر الی  
حدانہ وصفہا بنهر عظیم یجری الی  
الأبد عند حدیثہ عن رسالۃ نبی الاسلام  
صلی اللہ علیہ وسلم۔

ان القرآن المجید مخزن المعرفة العالیة  
والاسرار والفتوحات الالهیة۔ وله اسلوب  
یاخذ بجامع القلب ویثیر الشعور بعظمة اللہ  
وجلالہ وهیبته حتی تقشعر الجلود عند

قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو نوع انسانی  
کی ابدی فلاح کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ یہ  
ان علوم پر مشتمل ہے جس کی تاریخ انسانیت  
میں نظیر نہیں ملتی۔ قرآن حکیم دو قسم کی آیات پر  
مشتمل ہے (الف) محکمات۔ جو کتاب کی بنیاد  
ہیں۔ اور (ب) متشابہات جن کی حقیقت اللہ  
اور اہل نظر کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا جو  
اللہ کو اٹھتے، بیٹھتے، اور لیٹتے یاد کرتے ہیں۔  
اور کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے  
ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب!  
تو نے یہ سب کچھ بلا مقصد پیدا نہیں کیا قرآن حکیم  
کا پیغام ایک عالمگیر پیغام ہے۔ قرآن حکیم کی  
تعلیم کا بنیادی نقطہ تفکر و تدبر ہے جو انسان  
پر علم اور معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔

قرآن حکیم کی تعلیمات کی دوسری خصوصیت  
اس کی جامعیت ہے۔ اس نے انسانی زندگی  
کا کوئی گوشہ تشنہ نہیں چھوڑا۔ مشہور جرمن شاعر  
گوٹے قرآن حکیم کی اس حقیقت سے بے حد  
متاثر تھا۔ چنانچہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو ایک پر شوکت دریا  
سے تشبیہ دی تھی جو ابد الابد تک جاری و ساری  
رہے گا۔

قرآن حکیم علم و اسرار کا مخزن ہے جس  
کے انداز بیان سے دل نرم ہوتے اور بدن کے  
رونگے کھڑے ہوتے ہیں۔ روح و جد میں آ  
جاتی ہے اور عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کیف مال

Soul becomes ecstatic and the intellect of man is stunned while listening to it. And windows of light of spiritual consciousness and material knowledge are opened on its student. Admittedly the Grand Qur'an is an eternal spring on which mankind can drink deep to attain enduring success in this world as well as in the Hereafter.

In the book "The Vision", compiled by Lt. Col. Shaikh Abdul Raul, a great effort has been made to put together, under different headings such selective teachings of the Holy Book as can provide guidance to a person in his day-to-day life. This is in order to inform and instruct the busy man of modern times as quickly as possible so that he can order his life in accordance with the pleasure and commandments of Allah Almighty and of His Prophet (Peace and Blessing of Allah be on him and his Family) who was, indeed, the Qur'an Incarnate (by virtue of his closest conformity to its teachings). I pray that the Almighty may accept this endeavour of the learned compiler and grant that the readers of this book derive utmost benefit from it. Aameen! And all praise to Allah for this and Peace and Blessings of Allah be on His Honourable Prophet, his Family and Companions!

Dr. Zia-Ul-Haq,

Muhammad Jamil Qalandar  
National Institute of Modern  
Languages,

ISLAMABAD. 31 May 1986

تلاوته، وتطرب الروح في حالة الوجد ولتقف  
عقل الانسان حائراً مبهوراً عند الاستماع له،  
وتتفتح آفاق نور الشعور الروحي والمعرفة الحسية  
على طلابه من المعترف أن القرآن المجيد ينبوع  
سرمدي أزلي أبدى بإمكان النوع البشري أن يشرب  
منه كي يحرز الفلاح الدائم في هذا الدنيا وفي الآخرة.

ان كتاب البصيرة للعقيد  
شيخ عبد الرؤف عبارة عن جهد كبير  
مبذول في جمع وبتويب آيات الكتاب  
الاقديس التي ترشد شخصاً في حياته اليومية.  
وهو يهدف الى اعلام وتعليم الرجل  
المرتبط المعاصر بأسرع ما يمكن  
طبق مرضاة وأوامر الله ورسوله  
عليه الصلاة والسلام الذي  
بلا ريب قرآن ناطق بفضل امثاله  
الكامل لتعاليم القرآن، أدعو الله  
أن يتقبل جهد المؤلف الفاضل  
هذا ويوفق القراء للاستفادة  
الاستطاعة من هذا الكتاب.  
والحمد لله على ذلك والصلاة  
والسلام على رسوله الكريم وآله  
واصحابه اجمعين.

الدكتور ضياء الحق

محمد جميل قلندر

بالقسم العربي للمعهد القومي للغة الحديثة  
إسلام آباد - ٢١ رمضان ١٤٠٦ هـ

علم ونور کے نورانی درپے کھل جاتے ہیں۔ بلاشبہ  
قرآن عظیم اس عالم میں اللہ کی جانب سے بنی نوع  
انسان کے لئے رشد و ہدایت کا لازوال سرچشمہ  
ہے جس سے سیراب ہو کر وہ دین و دنیا کی  
کامرائیوں سے اپنی جھولیاں بھر سکتے ہیں۔

کرنل شیخ عبدالرؤف کی کتاب "بصیرت"  
میں سعی بلیغ کی گئی ہے کہ کلام پاک کی چید چید  
تعلیمات جو روزمرہ کی زندگی میں انسان کے لئے  
مشعل ہدایت ہو سکتی ہیں۔ ان کو مختلف عنوانات  
کے تحت یکجا کر دیا جائے تاکہ دورِ حاضر کے  
مصروف انسان کو کم سے کم مدت میں احکام الہی  
سے آگاہی ہو سکے۔ اور وہ اپنی زندگی کو اللہ  
جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ  
وسلم جو قرآن ناطق تھے کے فرمان اور رضا  
کے مطابق سنوار سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ  
فاضل مؤلف کی اس کوشش کو قبول فرمائے  
اور قارئین کو توفیق دے کہ وہ اس منبعِ رشد و ہدایت  
سے کما حقہ مستفید ہو سکیں۔ آمین

والحمد لله على ذلك والصلاة والسلام على  
رسوله الكريم وآله واصحابه اجمعين

ڈاکٹر ضياء الحق

محمد جميل قلندر

قومی ادارہ برائے لسانیات جدیدہ  
اسلام آباد - ٣١ مئی ١٩٨٦ء

I had the honour of going through the book "The Vision," compiled by Lt. Col. Shaikh Abdul Rauf. I have no doubt that people of heart and vision, who may be yearning to learn for themselves, will be able to reach directly the salient Commandments of the Holy Qur'an, by means of this compilation. This compendium bespeaks of the great love of the compiler for the Holy Qur'an and has been prepared with utmost devotion and care.

Notwithstanding their many shortcomings, people belonging to the Islamic Ummah have always held the Holy Qur'an close to their hearts, over the last fourteen centuries. Even while failing to implement its injunctions, the Muslim has never doubted or denied its eternal Truth. In the modern times, the youth who is once again on the road to the discovery of Religion (*Deen*) was faced with the lack of proper material. The present work is a creditable attempt to fill this gap.

Owing to the defects of the present educational system, there are very few 'Anthologies' of the Holy Qur'an, available for the guidance of the common man. Moreover, every compilation reflects the choice and attitude of the compiler, where treatment of various problems is concerned.

The Illustrious Qur'an embodies Allah's Last Message and the Universal Law for mankind. In this changing world where mutations in Time and Space are constantly giving rise to ever new questions and problems, perfect answers can be expected from the Divine Word of the Almighty Creator only. Had it not been for an Immutable and Perpetual Law governing principal and permanent aspects of existence, mankind would never have taken the course of unity and harmony. During the last 1400 years, people all over the globe have

لقد تشرفت بقراءة الكتاب  
البصيرة الذي ألفه المقدم (المتقاعد)  
شيخ عبدالرؤف، والذي  
سيمكن أصحاب البصيرة والتحقيق  
والشوق من الوصول إلى أحكام القرآن  
التي يتمنى القارئ رؤيتها مباشرة  
في المصحف الكريم - وإن هذا  
الدليل الذي تم إعداده ببالغ  
المجهود والكد نتيجة لشوق المؤلف  
وانهماكه

لقد ظلت الأمة المسلمة تعصم  
عجل القرآن طوال القرون الأربعة  
عشر رغم تعصيراتها - ولم ينكر  
المسلم صدق أحكامه وحقانيته مع  
مخالفته أياها في العمل - وفي العصر  
الحديث قد انطلق الشاب يبحث  
عن الدين من جديد لكن المواد  
كانت قليلة - وإن هذه المحاولة خطوة  
مباركة إلى سد هذا الفراغ -

قلما يتوفر مثل هذه الدليلات  
بموجب العيوب الموجودة في نظام التعليم  
الراهن لاهتداء رجل الشارع بالقرآن  
ويتوقف كل دليل للمحتويات على  
اختيار المؤلف واهتمامه بمختلف  
القضايا -

إن القرآن رسالة الله الأخيرة  
ومناظرة الحياة للإنسانية جمعاء  
لا يمكن تعديراً لحل المشاكل  
المجديدة المنبعثة نتيجة للتغيرات  
الزمانية والمكانية في هذا العالم  
المتغير، إلا بلسان القرآن ذاته -  
لولا لم يوجد قانون دائم  
وثابت على أساس السبائى

کرن شیخ عبدالرؤف صاحب کی مرتب کردہ "بصیرت"  
تالیف کو دیکھنے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی ہے اس  
تالیف کے ذریعہ جستجو اور شوق رکھنے والے اہل قلب  
نظر کو حسب خواہش قرآن کے ان احکامات تک رسائی  
ہوسکے گی - جن کو براہ راست قرآن حکیم سے دیکھنے کی آرزو  
قاری کے دل میں ہوگی - یہ اشارہ مؤلف کے جذب  
شوق کا نتیجہ ہے اسے انتہائی محنت و کاوش سے  
تیار کیا گیا ہے -

ملت اسلامیہ کے افراد نے اپنی کوتاہیوں کے  
باوجود چورہ صدیوں سے قرآن کو سینے سے لگائے رکھا -  
اس کے احکام کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہوئے  
بھی ان احکامات کی سچائی اور حقیقت سے مسلمان منکر  
نہیں ہوا تھلا و جدید میں لوجوان ذہن ایک بار پرورین کی  
توش میں نکل چکا ہے مگر مواد کی کمی تھی موجودہ کوشش  
اس خلا کو پُر کرنے کے ضمن میں مبارک قدم ہے -

موجودہ نظام تعلیم کی خامیوں کی وجہ سے علم آدمی  
کے لئے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لئے بہت کم  
اشاریے موجود ہیں - ہر اشاریہ مؤلف کی پسند اور  
اس نے مختلف مسائل کو جو اہمیت دی ہے اس پر  
منصہ ہوتا ہے -

قرآن حکیم انسانیت کے لئے اللہ کا آخری پیغام اور  
قانون زندگی ہے - اس بدلتی ہوئی دنیا میں اور زمان و مکان  
کی تبدیلیوں کے عقب میں وجود میں آنے والے نئے نئے  
مسائل کا حل خالق کائنات ہی کے الفاظ میں کر سکتے  
ہیں - اگر اصولوں اور قلم رہنے والے پہلوؤں پر ایک  
غیر متبدل اور دائمی قانون وجود میں نہ آتا تو انسانیت  
اتحاد و یکگت کی جانب کا سفر ہرگز اختیار نہ کر سکتی -  
ان چورہ صدیوں میں اللہ کے اس آخری قانون حیات

bowed to the enduring Truth of this Final Law of Survival vouchsafed to Man by Almighty Allah.

Everyone, whether friend or foe, admits that the Holy Qur'an contains solution of all human problems, individual as well as collective. The various Divine laws in this respect are, however, scattered all over the Holy Book, and, from time to time, Muslims have been trying to glean them from the Qur'an and put them together for day-to-day guidance. The book under review is a result of the same sentiment, and has grouped the Qur'anic Commandments on various subjects under different headings.

Sheikh Abdul Rauf has deftly sought to combine the individual and collective problems in his "Compendium" and he has performed this essential service with great insight. The way this "Anthology" has been divided into three sections, should further make things easier for the reader. The contents of these sections are before you, a single glance should show the perceptive reader how to benefit from them. I, therefore, do not wish to interpose myself between the reader and this important work any longer. I pray to Almighty Allah to reward the compiler as well as the reader and accept the endeavour of both of them in this connection. As the author of the famous "Qasida Burda" composed in praise of the Holy Prophet Muhammad (Peace and Blessings of Allah be upon him) has said

"Bless the author and the reader too, O Most Generous, Most Gracious Lord  
This I beg of Thee"

Brigadier Gulzar Ahmed (Retd.)  
4-F Gulistan Colony  
RAWALPINDI

والأتمس المشابته لما كان في  
وسع الإنسانية التخلي إلى الوحدة  
والساواة -

ويعترف الأصدقاء والاعداء جميعاً  
بأن القرآن يقدم الحل لجميع المشاكل  
الفردية والاجتماعية - وإن القوانين الموجودة  
في القرآن منتورة مثل الدرر على صفحاته - لقد  
ظل المسلمون يحاولون جمعها وقتاً فوقتاً  
وإن المحاولة الحاضرة / الحالية نتيجة  
لنفس الحساس الهلوف إلى تقديم  
مضامين أحكام القرآن تحت العناوين  
فيما يتعلق بمختلف جوانب الحياة -

لقد أدرج المقدم (التقاعد)  
شيخ عبدالرؤف المشاكل الفردية  
والاجتماعية في دليله بشكل جيد  
وقد أدى هذا الواجب بدقة بالغة  
وإن تبويه هذا الدليل في ثلاثة أبواب  
سيسهل من مهمة القارئ  
وسيستفيد أصحاب البصيرة منه  
في أول نظرة - أنا لأحب أن  
أحول طويلاً دون استفادتك  
من هذه الخدمة - بل أدعو  
الله أن يحجزى المؤلف والقارئ  
كليهما ويتقبل مساعيها - وأكتفي  
بأن أقدم الشعر الأخير لقبيدة البردة  
لمحمد شرف الدين البوصيري لأجل التبرك:  
فَاعْفِرْ لَنَا شِدْهَا وَاعْفِرْ لِعَارِيهَا  
سَأَلْتُكَ الْخَيْرَ يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ

الحميد جلازار احمد (التقاعد)  
٤ - ايف جلتان كالوني - راولپنڈی

نے کرہ ارض کے کونے کونے میں اپنی صداقت کو  
تسليم کروا لیا ہے۔

دوست و دشمن سب ہی اس بات کے معترف ہیں  
کہ قرآن حکیم انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام مسائل کا  
حل پیش کرتا ہے۔ جو قوانین خداوندی قرآن میں موجود  
ہیں۔ وہ اس کے صفحات میں بکھرے پڑے ہیں۔ انہیں  
یکجا کرنے کی کوششیں مسلمان وقتاً فوقتاً کرتے رہتے  
ہیں۔ زیر نظر کوشش بھی اسی جذبے کا نتیجہ ہے کہ  
زندگی کے مختلف پہلوؤں پر قرآنی احکامات کو مضامین  
کے عنوانات کے تحت پیش کیا جائے۔

کرنل شیخ عبدالرؤف صاحب نے بصیرت کے  
ذریعے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو بہترین طور پر اپنی  
فہرست میں شامل کیا ہے۔ اور نہایت باریک بینی سے  
یہ خدمت انجام دی ہے۔ انہوں نے جس طرح اس  
"اشاریہ" کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے وہ قاری کے لیے  
مزید آسانی کا باعث ہوگا۔ ان حصوں کے مندرجات  
آپ کے سامنے ہیں۔ اہل نظر کی ایک نظر ان سے  
استفادہ کر سکے گی۔ میں آپ کے اور اس اہم خدمت  
کے درمیان زیادہ دیر تک مائل رہنا نہیں چاہتا۔  
الاعظیوں سے دعا ہے کہ مؤلف اور قاری ہر دو کو  
جزائے خیر عطا فرمائے اور ہر دو کی کوششوں  
کو شرف قبولیت بخشے۔ حضرت محمد شرف الدین  
کے معروف قصیدہ بردہ کے آخری شعر کا ترجمہ  
تبرک کے طور پر پیش خدمت ہے۔

معفرت قاری کی ہر بخشش معنی کی بھی ہو  
بس یہی ہے التماس سے ہرے رب کریم

برگید ڈر گلزار احمد (ریٹائرڈ)

ہیف گلستان کالونی راولپنڈی

## INTRODUCTION

In order to lead an honourable, happy and really successful life in this world, Allah Almighty has bestowed on us the gift of the Holy Qur'an which is a complete Code of Life. It contains all injunctions about human life from childhood to old age. It is a pity that mostly we remain ignorant of these and do not apply ourselves to the study of the Book.

Eminent scholars far more capable than this humble compiler have already done tremendous work on the subject. In all humility, I must admit that I do not have the requisite background knowledge nor the ability to unfold the mysteries of the Holy Qur'an to the reader. It is through infinite mercy of Almighty Allah that I have been able to compile this work. A purposeful study of the Holy Qur'an, a few years ago, created a very strong urge of soul-searching in me and I felt as if I had missed comprehensive guidance and knowledge which ought to have been acquired by me in the beginning of my life so that I could have not only benefitted myself but also passed it on to younger generation, especially to my own children. It was, indeed, a late discovery. I wished I had given serious thought earlier to the learning of the profound meanings of the Qur'anic Verses.

I looked towards my relations, friends, colleagues and neighbours as well. Most of them also appeared to be in the same position, being under the impression that the Holy Qur'an was too difficult to understand. Some people belonging to the younger generation, in particular, seemed to imagine that there was some inherent conflict between the Qur'anic teachings and the demands of the modern age. This was mainly due to their lack of knowledge about the Holy Book. I, therefore, started working on this book. I am thankful to Almighty Allah for enabling me to produce this

## توطئة

أعطانا الله سبحانه تعالى دستوراً كاملاً للحياة يشمل جميع الأحكام التي يحتاج إليها الإنسان منذ صغره إلى أن يتوفاه الله ولكن بالأسف نبقى على وجه العموم جاهلين له غير عاملين بأحكامه حتى بعد قراءته -

أعترف كل الاعتراف بانني لست مؤهلاً لتقديم اسرار القرآن كلها الى القارئ ولكن اشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لي لانجاز هذا الكتاب في مدة قليلة بدأت اقدبر القرآن فحدثت في نفسي رغبة عارمة للبحث عن اسرارها واحسست بسوء حرمانى من الهداية الإلهية في الحياة السالفة التي كنت استطيع ان أفيد بها الجيل الجديد وبخاصة اولادى لاشك ان حدوث هذا النوع من الاحساس كان متأخراً ولأجل هذا اقدت تأثرته بشدة واستيقنت نفسى بان هذا الاحساس جديران يكون مسبقاً -

لقد ناقشت قضية فهم القرآن مع أقاربي وأصدقائى وجيرانى فاطلعت على ظنهم بأن فهم القرآن أمر صعب وخاصة الجيل الجديد منهم يهيم فى وادى السنون معتقداً بان التعاليم القرآنية لاتنجم مع متطلبات العصر الجديد - اعتقد ان هذه الفكرة الخاطئة حدثت فيهم نتيجة بعد هم وقلة تدبرهم لتعاليم القرآن فبدأت أوف هذا الكتاب لارشاد هؤلاء الناس الى طريق الهداية القرآنية اشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه

## تعارف

اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دنیا میں باعزت زندگی بسر کرنے کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمایا ہے جس میں ہمیں سے لے کر بڑھاپے تک ضروری احکام موجود ہیں۔ مگر بدقسمتی سے ہم مومنوں اس سے ناواقف رہتے ہیں اور قرآن کریم پڑھنے کے بعد ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔

کئی معروف اہل علم حضرات نے اس ناہی سے کہیں زیادہ اسی موضوع پر کام کیا ہے۔ میں نہایت بحسب و انحصار سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ میں اتنی اہمیت اور قابلیت نہیں تھی کہ میں قاری تک قرآن حکیم کے تمام اسرار و رموز پہنچا سکتا۔ مگر یہ اللہ پاک کا بے پایاں احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ کتاب مکمل کرنے کی توفیق بخشی۔ کچھ عرصہ پہلے قرآن حکیم کے بامقصد مطالعے نے مجھ میں تواس حقیقت کی تڑپ پیدا کر دی اور میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے وہ مکمل رہنمائی نہ ہو سکی جو زندگی کے اوائل میں ہو جانا چاہیے تھی تاکہ میں نہ صرف خود مستفید ہوتا بلکہ نوجوان نسل کو بھی منتقل کر دیتا۔ خصوصاً اپنی اولاد تک پہنچاتا۔ دراصل یہ ایک خیرى دریافت تھی اس لئے شدت سے احساس ہوا کہ قرآنی آیات کے گہرے مطالب سے کھینچنے کے لئے ضروری غور بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔

میں نے اپنے رشتہ داروں، دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں سے رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی بھی یہی سوچ تھی کہ قرآن حکیم کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ خاص طور پر نوجوان نسل کے کچھ افراد تو اس غلط فہمی کا بھی شکار نظر آتے تھے کہ نعوذ باللہ تفسیر آئی تعلیمات اور جدید زمانے کی ضروریات کے درمیان ایک مستقل الجھاؤ ہے مگر یہ سب قرآن حکیم کے متعلق کم علمی کی بنا پر تھا۔ انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اس کتاب کے لئے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں اللہ تعالیٰ



humble contribution.

The Holy Qur'an constitutes the greatest miracle bestowed on Prophet Muhammad (P.B.U.H.) The Divine Call began in the month of Ramadhan in 610 A.C. while he was engaged in meditation in the cave of Hira near Makkah. The Call was given through the Heavenly Messenger, Gabriel who continued to bring the Message of Allah to the Holy Prophet for about 23 years and thus the Qur'an was completed.

The Qur'an is divided into 30 parts called paras. In it, there are 114 Surahs or chapters which are divided into 6666 Ayat or verses. The Surahs vary in length. The longest "THE COW" (Al-Baqarah) contains 286 verses and the shortest "ABUNDANCE" (Al-Kausar) only 3 verses. The Qur'an was revealed piecemeal to Prophet Muhammad (P.B.U.H.) during his stay at Makkah (610-622 A.C.) and Madinah (622-632 A.C.) Ninety-three Surahs were revealed in the former period and twenty-one in the latter. The text of the Holy Qur'an has been preserved absolutely intact in the original form. Allan Himmelfarb says about the preservation of the Qur'an:

"Thus We, even We, reveal the Reminder, the Qur'an; and lo! We verily are its Guardian" (Al-Qur'an, Surah XV, Verse 9).

The Holy Qur'an indicates to us not only the manner in which we can attain piety but also furnishes us with guidance in all aspects of earthly life be they various facets of the worship of Allah or the rules of conduct or manners or norms of behaviour, individual or collective, or the modes of evidence and justice or the manner of establishing equality or cultural and economic patterns or the principles of politics and statecraft or the arts of war and peace etc.

لی لا تجاز هذا العمل الباهر۔

القرآن الكريم هو معجزة خالدة لرسول الله بدأ نزوله على رسول الله بواسطة جبريل في شهر رمضان سنة ٦١٠ الميلادية عند ما كان الرسول متعبدا في غار حراء قرب مكة المكرمة واستمر نزول الوحي مدة ٢٣ سنة وهكذا قد كمل نزول القرآن:

وللقرآن ٣٠ جزءا وفيه ١١٤ سورة و٦٦٦٦ آية والسور يختلف بعضها عن بعض قصرا وطولا سورة البقرة هي أكبر سورة في القرآن وفيها ٢٨٦ آية وسورة الكوثر هي اصغر سورة وفيها ٣ آيات فقط والسور القرآنية منقسمة الى قسمين - مكية ومدنية حسب قيام الرسول في مكة والمدينة - السور المكية عددها ٩٣ سورة والسور المدنية عددها ٢١ سورة وقد حفظ الله القرآن من كل تحريف وسيبقى هكذا الى يوم القيامة واليه اشار الله سبحانه وتعالى في القرآن -  
**اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ**  
 (٩:١٥)

القرآن دستور الهی کامل یرشدنا الی سوار السبیل ویهدینا فی جمیع مجالات حیاتنا الشخصیة والاجتماعیة ویقدم لنا دستوراً إلهیاً فی شتی مجالات حیاتنا۔ وہی العبادۃ والاقتصاد والسیاسة من وغیرها من امور الحیاة المختلفة انه دستور کامل للانسان فی حالتی السلم والحرب وبہ نستطیع ان نھتدی فی جمیع قضایانا۔

کا یہ مومن ہوں کہ اس نے مجھے یہ کام کرنے کی توفیق بخشی۔  
 قرآن حکیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سنہ ۶۱۰ عیسوی ماہ رمضان میں وہی کا آغاز ہوا۔ جب آپ مکہ کے قریب غار حراء میں عبادت میں مصروف تھے۔ وہی حضرت جبریلؑ کے ذریعے آپ تک نازل ہوتی رہی۔ اور یہ عمل کم و بیش ۲۳ سال تک جاری رہا اور یوں قرآن حکیم کی تکمیل ہوئی۔

قرآن حکیم کو تیس پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ اس میں ۱۱۴ سورتیں یا ابواب ہیں جو ۶۶۶۶ آیتوں پر مشتمل ہیں سورتیں طوالت میں بہت مختلف ہیں سب سے بڑی البقرہ (دگائے ۲) ہے۔ اس میں ۲۸۶ آیات ہیں۔ اور سب سے چھوٹی الكوثر ہے (ذکر کثر: ۱۰۸) جس میں صرف تین آیات ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام پر مبنی قرآن مجید کی ۹۳ سورتیں مکی (۶۱۰ تا ۶۲۲ عیسوی) اور ۲۱ سورتیں مدنی (دور ۶۲۲ تا ۶۳۲ عیسوی) کی کہلاتی ہیں۔ قرآن پاک کا مکمل متن بغیر کسی اضافی تحریف کے اصلی صورت میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم کو بہرہ و جود محفوظ رکھنے کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا ہے۔  
**بیشک یہ کتاب ہفت بہت ہمیں نے آوری ہے اور ہم ہی اس کے بھجان ہیں** (سورت ۱۵ آیت ۹)

قرآن حکیم ہمیں نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے طریقے سے آگاہ کرتا ہے بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ چاہے ان کا تعلق عبادت اخلاق و کردار، انفرادی یا مجموعی وطن و دود و باش کے معیار، یا شہادت، انصاف و مساوات کے قائم کرنے یا ثقافت اور اقتصادیات یا سیاست کے اصولوں، قومیت کی پہچان کے طریقوں سے ہو یا جنگ اور امن کے فن سے ہو۔ ان تمام کے بارے میں قرآن مجید ہماری مکمل رہنمائی فرماتا ہے۔

History bears testimony to the fact that our predecessors acted upon the teachings of the Holy Qur'an and no power on earth could vie with them in strength or prestige? I have, therefore, endeavoured to prepare a compendium which can adequately meet the requirements of the Muslim Ummah in general and the Youth and those people in particular who cannot read the Holy Qur'an due to some reason or the other. For their convenience the Qur'anic Verses along with subheadings and references have been given and Urdu and English translations have also been provided so that the book could benefit the maximum number of people the world over. There are certain subjects on which a number of similar Qur'anic verses are available but I have tried to give one or more of these 'Ayats' according to my understanding. In certain cases a single verse has been quoted under various subheadings. In any case, I claim no perfection or infallibility in this regard. And Allah knows best.

I have tried my best to keep this book free from all kinds of sectarian controversy. Despite this if anybody from any sect finds something objectionable it may be overlooked as no controversial issues have been raised deliberately by me. Any lapse would, therefore, be purely inadvertent.

May Allah the Most Exalted guide us all! Aameen.

Lieutenant Colonel (Retd)  
Shaikh Abdul Rauf  
133-C, Westridge-1.  
Rawalpindi

ویشہد التاريخ بانہ مادام  
اسلافنا كانوا عاملين بتعاليم القرآن  
لم يكن في وسع أية أمة أن تنافسهم  
ولذلك قد رتبنا هذا الكتاب  
كي يرشد المسلمين عامة ولا سيما  
الناشئين والذين لا يستطيعون  
قراءة القرآن سبب ما - وقد تم  
إدراج الآيات القرآنية مع العناوين  
والمراجع وايضا الترحيمتين الإنجليزية  
والأردوية كي يستفيد منه عدد كبير  
من سكان العالم وهناك موضوعات  
يشتمل عليها كميه كبيرة من الآيات القرآنية  
لكنني إكتفيت بذكر آية او اكثر منها حسب  
فهمي المتواضع كما كتبت آية واحدة تحت  
مختلف العناوين - أنا اعترف بعدم كفايتي  
ولا ادعى أبدا أن هذه المراجع تامة  
ونهاية والله اعلم بالصواب

لقد حاولت جهد المستطاع ان اجعل  
هذا الكتاب خاليا من كل الاختلافات الطائفية  
ولكن رغم ذلك ان وجد فيه ما يخالف  
معتقدات شخص يرجي منه الاعراض عن  
ذلك نظرا الى انني لم اقم بذلك عمدا  
واخيرا ادعو الله سبحانه وتعالى ان يرشدنا  
الى سواء السبيل وان يوفقنا لما فيه خير  
لعامة المسلمين آمين!

المقدم (التقاعد)

الشيخ عبدالرؤف

۱۳۳ یسی ویسٹریج۔ رقم ۱۳۳ شارع بشاور  
مدینة راولپنڈی

تاریخ شاہد ہے کہ جب تک ہمارے ہاؤ اہل  
قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے دنیا کی کوئی قوم طاقت  
اور وقار میں ان کی ہم پٹہ نہ ہو سکے۔ اس لئے میں نے  
یہ کتاب اس خیال سے مرتب کی ہے کہ یہ مسلم امت کی ہر عمر  
اور نوجوان نسل اور ان لوگوں کی بالخصوص رہنمائی کر سکے  
جو کسی وجہ سے قرآن پاک کو نہ پڑھ سکتے ہوں۔ ان  
کی سہولت کے لئے قرآنی آیات ذیلی عنوانات اور  
حوالہ جات کے ساتھ دی گئی ہیں۔ انگریزی اور اردو  
ترجمہ بھی فراہم کیا گیا ہے تاکہ تمام دنیا میں زیادہ  
سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔  
بعض مضامین ایسے ہیں جن میں بہت سی قرآنی آیات  
موجود ہیں۔ لیکن میں نے اپنی ناچیز سمجھ کے مطابق ایک  
یا اس سے زیادہ کا حوالہ دینے پر ہی اکتفا کیا ہے۔ بعض  
جگہ ایک ہی آیت کو کئی مختلف ذیلی عنوانات میں بھی  
لکھا گیا ہے۔ مجھے اپنی کم مائیگی کا احساس ہے اور میں  
ان حوالہ جات کے حتمی یا مکمل ہونے کا ہرگز دعویٰ نہیں کرتا۔  
اور اللہ تعالیٰ ہی کو پورا علم ہے۔

میں نے اس کتاب کو حتمی المقدور ہر قسم  
کے فرقہ وارانہ اختلافات سے پاک رکھنے کی ہرگز  
کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی فرد کو  
کسی نقطہ نگاہ سے کوئی قابل اعتراض بات نظر آئے  
تو وہ یہ سمجھ کر نظر انداز کرے کہ میں نے جان بوجھ کر  
کوئی اختلافی مسئلہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ غلطیوں کو  
نظر انداز کرنے کی التماس کے ساتھ ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ  
ہم سب کی رہنمائی فرمائے! آمین

یشینٹ کرنل (ریٹائرڈ)

شیخ عبدالرؤف

۱۳۳ یسی۔ ویسٹریج۔ ۱۳۳ شارع بشاور  
راولپنڈی

## HOW TO CONSULT 'THE VISION'

Due to its trilingualism, the character and scope of this book have certain peculiarities. Hence the need for this explanatory note.

### 1 English Section

a. In English section, the Surahs have been quoted in Roman numerals, whereas the verses bear English numerals. For example V: 15 would denote Surah five, Verse fifteen.

b. Capital letters P, Y and Z in front of the verse-references simply refer to the English translation of Al-Qur'an by Marmaduke Pickthall (UK), A. Yousuf Ali (India) and for a few verses Mahmud Y Zayed (Lebanon) respectively. These translators have used many words interchangeably such as Jesus for Isa, Moses for Musa, Scripture for Book and Apostle for Messenger (PBUH) etc.

c. The verse numbers are only from the trilingual Edition number 358 of the Holy Qur'an published by the Taj Company Ltd., Karachi, Pakistan.

### 2. Arabic/Urdu Sections

a. The Arabic verses have been re-produced from the approved and certified copy of Al-Qur'an (as explained under paragraph 1c above) but they unavoidably bear encircled Urdu numerals. However, Arabic numerals have also been shown under each item.

b. Surah and Verse numbers are to be read from right to left. For example would point to Surah eight, Verse eighteen.

## طريقة الاستفادة من الكتاب البصيرة

يحمل هذا الكتاب الإشارات الخاصة  
لكونه ثلاثي اللغات وهذا هو السبب  
بأنني قد أحسست بحاجة ماسة إلى  
تفصيل تلك الإشارات

### ١- الجزء الإنجليزي

و- قدمت في هذا الجزء مراجع السور القرآنية  
بالأرقام اللاتينية بينما قدمت أرقام الآيات  
الباركة باللغة الإنجليزية - مثلاً يشير  
تركيب (٧-١٥) إلى السورة ٥ والآية ١٥-

### ب- تشييد الحروف الكبيرة أعني

بالترتيب إلى التراجم القرآنية باللغة  
الإنجليزية لمارمادوك بيكتال (الإنجليزية)  
والعلامة يوسف علي (الهندي) ومحمدي  
زيد (اللباني) وقد استخدم هؤلاء المترجمون  
مترادفات مختلفة في تراجمهم القرآنية - مثلاً  
(Jesus) لعيسى عليه السلام و (Moses)  
لموسى عليه السلام و (Scripture)  
للقرآن و (Apostle) لرسول صلى الله  
عليه وسلم -

ج- أرقام الترجمات الإنجليزية والعربية مأخوذة من القرآن  
رقم ٣٥٨ (طبع شركة تاج المحدودة - باكستان)

### ٢- الجزء العربي والعربي والأردوي

و- طبعت الآيات القرآنية مصورة من  
النسخة القرآنية المصدقة والمعترف  
بها والتي جار ذكرها أعلاه في القطعتين (لوج)  
ولذلك كان مما لا بد منه أن تكون أرقامها  
باللغة الأخرية - ومع ذلك قد قدمت  
مرجع كل آية تحتها باللغة العربية -

ب- تقرأ أرقام السور والآيات من اليمين  
إلى اليسار مثلاً يشير تركيب (٨: ١٨)  
إلى السورة ٨ والآية ١٨-

## بصيرت سے استفادہ کا طریقہ

یہ کتاب سے زبانی ہونے کی وجہ سے  
اپنے دائرہ کار کے مخصوص مسائل رکھتی ہے۔ یہی  
وجہ ہے کہ وضاحت کے لئے اس مختصر نوٹ کی  
ضرورت محسوس کی گئی ہے۔

### ١- انگریزی حصہ

و- انگریزی حصے میں سورتوں کا حوالہ رومن اعداد  
میں دیا گیا ہے۔ جب کہ آیتوں کے اعداد انگریزی  
میں دیئے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر (٧-١٥)  
سورہ پانچ اور آیت پندرہ کو ظاہر کرتے ہیں۔

ب- سورہ اور آیت نمبر کے ساتھ بڑے حروف ذہنی ذاتی  
یا زید کا استعمال علی الترتیب مارمادوک بیکتال (برطانیہ)  
علیوسف علی (لبنان) اور چند ایک آیتوں کا محمود علی زید  
(لبنان) کے قرآن کے انگریزی تراجم کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان  
مترجمین نے اپنے اپنے ترجموں میں مختلف الفاظ کا استعمال کیا ہے  
مثلاً کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیلئے یسوس (Jesus)  
حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے موزس (Moses) اور

قرآن پاک کیلئے کتاب مقدس اور پیغمبر کیلئے (Apostle)  
کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے دوسرے معنی رسول کے ہیں۔  
ج آیات کے انگریزی اور اردو ترجموں کے نمبر صرف قرآن نمبر ٣٥٨  
(طبع تاج کمپنی لمیٹڈ پاکستان) سے ہی لئے گئے ہیں۔

### ٢- عربی اور اردو حصے

و- عربی آیات کی العسآن کی منظور اور  
تصدیق شدہ کاپی سے چھپائی کی گئی ہے  
جس کا ذکر اردو پر پیسراج میں آچکا ہے  
اس لئے ناگزیر طور پر ان کے اعداد دائرہ کے  
اندرازدوں میں ہیں۔ تاہم ہر آیت کے نیچے اس کا  
حوالہ عربی اعداد میں ظاہر کیا گیا ہے۔

ب- سورہ اور آیت کی گنتی دائیں سے بائیں پڑھی  
جائے گی۔ مثال کے طور پر (٨: ١٨) سورہ آٹھ  
اور آیت اٹھارہ کو ظاہر کرتی ہے۔

- c. Urdu translation relies mostly on Maulana Fateh Muhammad Jallendhri. However, in a very few cases Maulana Ashraf Ali Thanvi has been relied upon, this has been indicated in the translation.
- d. All page numbers run from left to right, irrespective of the trilingualism of the book.

ج) لقد تم الاعتماد في الترجمة الأوردوية على ترجمة مولانا فتح محمد جالندھری رحمہ اللہ إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تستلزم الاستفادة فيها من ترجمة مولانا أشرف علي تھانوی۔ وأشرت إلى ترجمة مولانا أشرف علي برمز (م-و-ع)

د) ولكون الكتاب ثلاثي اللغات تقرأ صفحاته من اليسار إلى اليمين۔

ج۔ اُردو ترجمے کے لئے بیشتر انحصار مولانا فتح محمد جالندھری کے ترجمے پر کیا گیا ہے۔ تاہم چند ایک استثنائی صورتوں میں جہاں مولانا اشرف علی تھانویؒ کا اُردو ترجمہ استعمال کیا گیا ہے وہاں ترجمے کے ساتھ اُس کی نشاندہی م-و-ع کی شکل میں کر دی گئی ہے۔

د۔ باوجودیکہ یہ کتاب سرزبانی ہے تمام صفحوں کو بائیں سے دائیں پڑھا جائے۔

### 3. Important Note

- a. The compiler has used the word 'Allah' in place of God or 'خدا' in English and Urdu translations respectively. He maintains that Allah has neither plural nor feminine; hence its untranslatability in any other language. Therefore, the usage of 'Allah' as denoting of the Supreme Being, the Unique and Peerless Lord.
- b. Although every care has been exercised in compilation of the book for its accuracy, the readers are requested to intimate any errors and omissions that come to their notice for rectification and earn the gratitude of the compiler.

### ۳۔ الايضاح

۱) استخدام المؤلف في ترجمته باللغة الانجليزية والأردوية كلمة الله بدل كلمتي (God) / خدا لأنه يعتقد أن ذات الله سبحانه وتعالى ليست جمعاً ولا مؤنثاً وبهذا السبب لا تترجم إلى أية لغة أخرى۔ واسم الله يدل على الذات الواجبة الوجود المستجمعة لجميع الصفات الكمالية والمنقطعة النظير۔

ب) قد اهتمت في تأليف هذا الكتاب بكل نوع من الدقة والصحة ومع ذلك كله -التمس من قارئيه تنبيهها إلى ما وقعنا فيه من الأخطاء كي يمكن تصحيحها في الطباعة القادمة وشكراً۔

### ۳۔ وضاحت

۱۔ مؤلف نے بالترتیب انگریزی اور اُردو ترجمے میں گاڈ (God) یا خدا کی بجائے اللہ کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ مؤلف کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ تو جمع ہے اور نہ ہی مؤنث اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے اللہ کا استعمال اعلیٰ وارفع، لاثانی اور بے نظیر ہستی کو ظاہر کرتا ہے۔

ب۔ اگرچہ اس کتاب کی تکمیل میں ہر طرح سے درستی کا خیال رکھا گیا ہے تاہم قارئین سے درخواست ہے کہ وہ مؤلف کو ممکنہ غلطیوں سے آگاہ کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ان کی درستی کی جاسکے۔ شکریہ!

## ACKNOWLEDGMENTS

The compiler humbly bows down before Almighty Allah and offers his gratitude to Him for His infinite mercy and guidance which have enabled him to compile this book.

Thanks are due to Dr. Zia-ul-Haq, Ph.D., Indiana University-U.S.A., Head of the Arabic Language Department National Institute of Modern Languages, Islamabad and his able Assistant Professor Muhammad Jamil Qalandar, M. Phil (American University Beirut), by whose efforts translation of the headings into Arabic and other related work on the manuscript became possible.

The compiler also owes a debt of gratitude to Mr. Muhammad Shahryar Khan, Ambassador of Pakistan (Retired), for his indispensable advice and assistance at every stage of the compilation of this book to Dr. A. W. J. Haipota, Chairman Council of Islamic Ideology and Brigadier (Retired) Gulzar Ahmad for their encouragement and guidance, to Brigadier Muhammad Mushtaq (X Punjab), Brigadier Zulfikar Ali Khan, AMC and Captain Zahid Parwaiz, Ordnance, for their invaluable and patient help in solving various problems before and during the printing period, and to Lieutenant Colonel B.A. Zia, (AFC) and Brigadier Abdur Rashid for his sincere and pains taking effort in connection with the arduous work of proof reading. Thanks are also due to Miss Amena Rauf (daughter) for her help particularly in the finalization of the script.

The compiler is grateful to the Management of the Taj Company Ltd. for granting permission to reproduce Quranic verses from their published trilingual edition of the Holy Qur'an. He is also grateful to M/s Sheikh Muhammad Ashraf and Sons for the permission to use English translation by Allama Yousaf Ali.

May Allah reward all these people, including those whose names have not been mentioned here for their contribution in the production of this book, Aameen!

## کلمۃ الشکر

یرید المؤلف قبل كل شئ ان یقدم کلمۃ الشکر الی اللہ سبحانہ وتعالی الذی ہذا الی تألیف ہذا الکتاب ووقفہ برحمۃ لاکمالہ۔

وأنا اشکر الدكتور ضیاء الحق (دكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية) رئیس قسم اللغة العربية بالمعهد القومي للغات الحديثة باسلام آباد وكذلك أؤتم شكري وامتناني إلى حضرة الأستاذ محمد جميل قلند (الماجستير في التربية النظرية والتطبيقية من جامعة بيروت الأمريكية) لإني بساعدتهما الخاصة استطعت تقديم هذا الكتاب باللغة العربية۔

وكيف أنسى تقديم الشكر إلى الأخ الكريم محمد شهريار خان (سفير باكستان المتقاعد) وأنه قد بذل كل جهده لساعدي في إكمال هذا العمل المبكّر وقد زودني بكل مافي وسعه من الآراء القيمة وكذلك اشكر للدكتور عبد الواحد هالي بوتار رئیس مجلس الفكر الإسلامي والأخ جليزار احمد (العيد المتقاعد) اللذان قد شمرا عن سابق جهدهما محل الصعوبات التي قد حلت عليّ خلال تأليف هذا الكتاب ومن الواجب ان أقدم الشكر إلى الأخ محمد مشاق (العيد المتقاعد من كتيبة جناب والي الأخ ذوالفقار علي خان (العيد بسلاح الطب) والأخ زاهد برويز (العتيق بسلاح الذخيرة) لأنهم ساعدوني كل مساعداً قبل نشر هذا الكتاب وخلال نشره وكذلك اشكر الأخ بركت علي ضياء (الاسم) بسلاح التدريب والأخ عبدالرشيد (العيد المتقاعد من كتيبة جناب بمساعداً في مراجعة تصحيح هذا الكتاب وكذا أعتز بساعداً إبنی آمنة (اطال الله عمرها) مقدماً اليها شكرياموفوراً۔

وأخيراً اشكر شركة تاج المحدودة التي سمحت لي بتصوير سور من القرآن الكريم الذي طبعته بثلاث لغات وكذا اشكر أصحاب شركة الشيخ محمد أشرف وابناءه لأنهم سمحوا باستخدام الترجمة الإنجليزية للعلامة عبد الله يوسف، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل أهدقائي المذكورين والذين لم تذكر أسماءهم في بحسوبة نعمه الظاهرة والباطنة آمين ربحم الله عبد يقول آمين

## اظہارِ شکر

سب سے پہلے یہ عاجز مؤلف اپنا سر بھروسہ و نیاز اللہ تعالیٰ کے حضور میں خم کرتا ہے کہ اس کی بے پایاں رحمت اور ہمنائی سے اس ناچیز کو یہ کتاب تالیف کرنے کی توفیق عطا ہوئی۔

میں ڈاکٹر ضیاء الحق پی ایچ ڈی۔ امریکہ صدر شعبہ عربی قومی ادارہ برائے لسانیات جدیدہ اسلام آباد اور ان کے قابل معاون پروفیسر محمد جمیل قلندرا ایم۔ فل (امریکن یونیورسٹی بیروت) ہر دو صاحبان کا ممنون ہوں کہ ان کی مساعی سے عزائم اور مسوے کے متعلق کام کا ترجمہ عربی زبان میں ممکن ہو سکا ہے۔ راقم الحروف جناب محمد شہریار خان سابق سفیر پاکستان کا بھی از حد ممنون ہے جنہوں نے اس کتاب کی تدوین کے محکوم اصل میں مجھے مسلسل اپنی قیمتی آراء اور معاونت سے نوازا اسی طرح میں جناب ڈاکٹر اے ڈی بی جے صاحب پوتاچیر میں اسلامی نظریاتی کونسل اور ریگیزٹری گورنر امر صاحب (ریٹائرڈ) کی حوصلہ افزائی اور ہمنائی کے لئے بھی شکر گزار ہوں۔ میرے شکر کے مستحق بریگیڈیئر محمد مشاق (سابق پنجاب) بریگیڈیئر ذوالفقار عثمان (ای ایم سی) اور کپٹن زاہد برویز (آرڈننس) بھی ہیں جن کی مساعی سے یہ کتاب کی اشاعت سے پہلے اور دوران اشاعت کی عجز مشکلات سہل ہو گئیں ہیں میں اینٹیں کرنا ہی لے سکتا ہوں (ای سی) اور بریگیڈیئر عبدالرشید بیٹا (ای سی) سابق پنجاب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے نہایت خلوص اور عرق ریزی سے پروف ریڈنگ کے سلسلے میں میری معاونت کی۔ میں اس کتاب کی تکمیل کے دوران اپنی بیٹی آمنہ رؤف سلہا کی امداد کا بھی اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔

مؤلف کے دل شکر کے مستحق میسرز تاج کپن سینڈھی ہیں جنہوں نے اپنے سہ ماہی طبع شدہ قرآن پاک سے مجھے قرآنی سورتیں استعمال کرنے کی اجازت دی۔ نیز میسرز شیخ محمد اشرف اینڈ سنز کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے علامہ عبداللہ یوسف علی کے انگریزی ترجمہ کے استعمال کرنے کی اجازت دی۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان سب کرم فرماؤں کو بشمولیت ان کے جن کے اسماء گرامی یہاں درج نہیں ہو سکے اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین!

## DETAILED LIST OF SUBJECTS

Subject	Page	Reference		Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse			Surah	Verse
<b>INTRODUCTION TO THE QUR'AN</b>				17. The Qur'an was revealed gradually and in small portions to facilitate comprehension	83	XVII	106
1. For whom is this Book of Guidance	76	II V	2-7 15	18. Things have been explained in the Qur'an in different ways	83	XVII	89
2. Who shall be guided	76	XIII XLII XXXIX LXXXI	27 13 23 27-28	19. There is no ambiguity in the Qur'an	83	XVIII	112
3. What is the extent of the words of Allah	77	XXXI	27	20. The Qur'an is free of any discrepancy or defect	84	IV	82
4. How things happen	77	II XIX	117 35	21. Allah shall see to its collection and recitation	84	LXXV	16-19
5. Creation of the Universe	78	VII II	54 29	22. Those who pervert the Truth are not hidden from Allah	84	XII	40
6. Allah made Covenant with the prophets	78	III	81	23. Allah Himself is the Guardian of the Qur'an	84	XV	9
7. Creation of Adam and Iblis (Devil)	79	VII II	11-25 37	24. What will be the end of those who reject the Signs of Allah	85	IV	56
8. Creation of Mankind and Jinn	80	XV XXIII	26-27 12-16	25. Withdraw yourself from where Verses are derided	85	VI	68
9. The Qur'an was revealed in the month of <i>Ramadhan</i>	81	II	185	26. The Qur'an should only be touched in a state of purity	85	LVI	77-80
10. The Revelation of the Qur'an started on the Night of Power ( <i>Qadr</i> )	81	XCVII	1-5	27. What to do before starting the recitation of the Qur'an	85	XVI	98
11. Allah bears witness that He has revealed the Qur'an with His Own Knowledge	81	IV	166	28. How the Qur'an should be listened to	86	VII L	204 37
12. The First Revelation	82	XCVI	1-5	29. The Qur'an should be understood also	86	II	78
13. Through whom the Qur'an was revealed	82	II	97	30. Where shall the Believers dwell	86	II	25
14. Why was the Qur'an revealed in Arabic	82	XLI XIV	44 4	31. If Allah had not intended to test Man-	86	V	48
15. Qur'an's Verses are preserved in the breasts of the knowledgeable	82	XXIX	49				
16. Allah made the Qur'an easy to understand	83	LIV	17				

Subject	Page	Reference		Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse			Surah	Verse
kind. He would have made them one community				4. The Qur'an contains Allah's Message of Monotheism for Mankind	92	XIV	52
32. Allah speaks in allegories to make Mankind understand His Message	87	XXIV	35	5. Fear Allah and do not serve two gods	92	XVI	51-52
33. The Qur'an is a Guidance for all Creation	87	LXVIII XVIII	52 54	6. Worship Allah only and associate none with Him	92	IV XVIII	36 110
34. It will be impossible to enter Paradise for those who reject and scorn Allah's Revelations	87	VII	40	7. Those who worship other gods besides Allah shall not enter Paradise	92	XXVI V	213 72
35. The Qur'an confirms all the previous scriptures and is a guard over all of them	88	V	48	8. What is the Supreme Folly	93	XXII	12
36. Those who are divided and fall into disputation shall be sternly punished	88	III	105	9. Worshipping idols is following a falsehood	93	XXIX	17
37. On Dooms-day Muhammad (P.B.U.H.) will complain to Allah that his people had neglected to act on Qur'an	88	XXV	30	10. No pardon for those who associate other gods with Allah	93	IV	48
38. The Qur'an should be followed before calamity befalls man suddenly	89	XXXIX	55	11. All that is in the Heavens and the Earth praises and glorifies Allah	93	LIX	22-24
39. People who have knowledge are the ones who truly fear Allah	89	XXXV	28	12. Allah bears witness to His own Oneness	94	III	18
40. Those who do not enforce Qur'anic Injunctions are disbelievers	89	V	44	<b>PROPHETHOOD (Muhammad – Peace and Blessing of Allah be upon him)</b>			
<b>MONOTHEISM (Oneness of Allah)</b>				1. Allah made Covenant with the prophets	95	III	81
1. Allah alone is the Creator and Maintainer of the whole Universe	90	XXVII	60 64	2. Muhammad (P.B.U.H.) mentioned in Torah and Gospel	95	VII	157
2. Allah informs whom He pleases as much as He wills	91	II	255	3. Jesus prophesied the coming of Ahmad (P.B.U.H.)	95	LXI	6
3. Allah is the Creator of the Heavens and the Earth	91	XIII	16	4. Why Muhammad (P.B.U.H.) was sent after the Break in Prophetic Dispensation	96	V	19
				5. Muhammad (P.B.U.H.) Ummee (who could neither read nor write)	96	XXIX	48
				6. Why Muhammad (P.B.U.H.) was sent	96	XXV IV VI	56 64 50

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
7. Muhammad (P.B.U.H.) does not speak of his own desire but it is an inspired Revelation	97	LIII	1 5
8. Preference given to some prophets over others	97	XVII	55
9. Allah commanded Muhammad (P.B.U.H.) to declare his Prophethood	97	LXXIV	1-7
10. Special Favours bestowed by Allah on Muhammad (P.B.U.H.)	98		
1. Mercy for all Mankind	98	XXI XXXIV	107 28
2. Last of the prophets	98	XXXIII	40
3. The Ascension or the Celestial Journey to see Signs of Allah	98	XVII LIII	1 17-18
4. Islam proclaimed as the Perfect and Approved Religion	99	V	3
5. Fount of Abundance granted	99	CVIII	1
6. Blessing of Allah and salutations by His angels on Muhammad (P.B.U.H.)	99	XXXIII	56
7. Splitting of the Moon in two parts	99	LIV	1-2
8. Muhammad's (P.B.U.H.) Community declared the Best Community	100	III	110
11. Mention of spiritual power of a member of Solomon's Community invites comparison with Followers of Muhammad's (P.B.U.H.) community evolved as the 'Best Community' for Mankind	100	XXVII	40
12. Muhammad (P.B.U.H.) put on the right way of Religion	100	XLV	18

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
13. To swear allegiance to Muhammad (P.B.U.H.) is to swear allegiance to Allah	100	XLVIII XXXIII	10 21
14. Obedience to Allah and Muhammad (P.B.U.H.) is the same	101	IV XXIV XXIV III XXXIII	80 54 52 132 36
15. The companions of Muhammad (P.B.U.H.) bear the mark of true worship on their faces	101	XLVIII	29
16. Hell is for those who disobey Allah and His Prophet	102	LXXII	23
17. Believers should invoke blessings and salutations on Muhammad (P.B.U.H.)	102	XXXIII	56
18. Allah forgives those for whom forgiveness is asked by Muhammad (P.B.U.H.)	102	IV	64
19. Muhammad (P.B.U.H.) has a greater claim on Believers than their lives and Prophet's wives are like their mothers	102	XXXIII	6
20. Allah will forgive the sins of those who follow Muhammad (P.B.U.H.)	103	III	31
21. Lack of respect for Muhammad (P.B.U.H.) may result in cancellation of all good deeds	103	XLIX	2
22. Allah sent Muhammad (P.B.U.H.) as Bearer of Tidings and Disseminator of Light	103	XXXIII	45-46



Subject	Page	Reference		Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse			Surah	Verse
<b>WORSHIP OF ALLAH</b>							
<b>PRAYER</b>							
1. Allah created Mankind and Jinns for His worship	104	LI	56-57	17. Suspend all business for Friday prayer	109	LXII	9-10
2. Place of those who do not pray	104	LXXIV	40-46	18. Prayers while in danger	109	II	239
3. Pray for yourself and your family for steadfastness in worship	104	XIV	40	19. Prayers in the battlefield	109	IV	102
4. It is obligatory to order family members to offer prayers	105	XX	132	20. Permission to shorten prayers during journey	110	IV	101
5. Why one should say prayers	105	II XXIX	45-46 45	21. Do not offer funeral prayer for the unbelievers nor stand by their graves	110	IX	84
6. Injunctions regarding prayers	105	II XI XX LXX	43 114 14, 132 22-23, 34-35	22. Allah answers prayers of His servants	110	II	186
7. Call to prayers	106	V LXII	58 9	23. Whose prayers are answered	110	XLII	26
8. Do not offer prayers while in a state of personal impurity	106	IV	43	24. The extent of worship	111	XI	112
9. How one should be dressed in prayers	106	LXXIV VII	4-5 31	<b>FASTING</b>			
10. Ablution with water and dust	107	V	6	1. The month of Fasting	111	II	185
11. How to say prayers	107	XXIII	1-2	2. Why Fasting was made obligatory	111	II	183
12. One should face <i>Ka'bah</i> during prayers	107	II	150	3. Deferment of Fast during journey and sickness	111	II	185
13. Prayers should be offered in congregation	107	II III	43 43	4. Sexual relations while Fasting and during Retreat in the mosques	112	II	187
14. Timings for obligatory and optional prayers and for reading of the Qur'an	108	XVII XX	78-79 130	5. Duration of Fast	112	II	187
15. Punctuality in offering prayers	108	IV	103	<b>MANDATORY ALMS (ZAKAT AND USHR)</b>			
16. Take special care of all prayers specially Midmost ( <i>Asr</i> ) prayer	108	II	238	1. Payment of <i>Zakat</i>	113	XXIV XXXI LXXIII	56 4-5 20
				2. Comparison between <i>Zakat</i> and interest	113	XXX	39
				3. <i>Zakat</i> is a part of the Religion	113	XCVIII	5
				4. Persons entitled to <i>Zakat</i>	114	IX	60
				5. Pay the Tithes ( <i>Ushr</i> ) on the day of harvest	114	II VI	267 142

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
<b>PILGRIMAGE (Major and Minor)</b>			
1. The First House of Allah	115	III	96-97
2. Pagans forbidden to go near <i>Ka'bah</i>	115	IX	28
3. For whom <i>Hajj</i> is obligatory	115	III II	97 196
4. Months of <i>Hajj</i>	116	II	197
5. Provision for Pilgrimage	116	II	197
6. Hunting while in <i>Ehram</i> is forbidden	116	V	1
7. Penalty for hunting except sea hunting in the state of <i>Ehram</i>	116	V	95-96
8. Hunting disallowed to test piety	117	V	94
9. Performance of <i>Hajj</i>	117	II	196, 198, 199
10. Sacrifice is enjoined to perpetuate remembrance of Abraham among later generations	118	XXXVII	102-110
11. Days of Sacrifice are fixed	118	XXII	28, 36
12. Purpose of Sacrifice	118	XXII	37
13. Circumambulating around <i>Ka'bah</i> ( <i>tuwaf</i> )	119	XXII	29
14. Going round As-Safa and Al-Marwa ( <i>Sa'i</i> )	119	II	158
15. Stay in Muna	119	II	200, 203
<b>REMEMBRANCE OF ALLAH (<i>Zikr</i>)</b>			
1. Remembrance of Allah	119 120	II XXXIII XXIV XXIX XXXIII II LXXXVII XXXIX LXII LXXIII LXXVI	152 21 36-37 45 35, 41 198 14, 15 23 10 6-7 25

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
2. How to remember Allah	121	VII LXXIII	205 5
3. When to remember Allah	121	III	191
4. Remembrance of Allah during battle	122	IV	103
5. Remembrance ensures satisfaction of heart	122	XIII	28
6. Remembrance should not be neglected	122	VII	205
7. Allah assigns devil to those neglecting His remembrance	122	XI III	36
<b>VOLUNTARY ALMS (<i>Sadqaat</i>)</b>			
Refer to 'Economic Provisions' page 13			
<b>REPENTANCE (<i>Tauha</i>)</b>			
1. Do not persist in your misdeeds but ask for forgiveness	123	III	135
2. Whose sins will Allah change into good deeds	123	XXV	70
3. When there will be no time for correction	123	XLVII	18
4. Faced with Chastisement man will yearn for a second chance	123	XXXIX	58
5. Allah accepts repentance	123	IX XII II	104 25
6. Allah is Forgiving, Merciful	124	VII XX	153 81-82
7. For whom Forgiveness is incumbent on Allah	124	III IV VI	135-136 17 54
8. Who will be pardoned by Allah	125	II	159-160
9. Allah will pardon evil deeds if grave sins are avoided	125	IV	31
10. Who will not be pardoned by Allah	125	IV	18

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
11. Unpardonable sins	126	IV	48
12. Salvation can be expected through belief in Allah, repentance and good deeds	126	XXVIII	67
13. The best form of repentance	126	LXVI	8
14. Never despair of Allah's Mercy and always turn to Him	126	XXXIX	53-54
15. Those who feared Allah unseen with a heart turned in devotion will enter Paradise on the Day of Judgement	127	L	32-33
16. Whoever repents and does good works truly turns to Allah	127	XXV	71

#### SUPPLICATION (Du'a)

1. Allah directed His Holy Prophet to pray for increase of knowledge	127	XX	114
2. When in need or trouble pray to Allah alone	128	XIII	14
3. Allah is nearer than man's jugular vein and listens to his supplication	128	L II	16 186
4. Allah hears the cries of those in distress and removes their sufferings	128	XXVII	62
5. How to pray to Allah	129	VII	55-56
6. Keep on asking for Allah's Grace and Mercy	129	IV	32
7. Pray for Forgiveness for your parents and yourself	129	XIV	41
8. Parents' prayer for their children	129	XIV XLVI	40 15
9. Pray for comfort from your children	129	XXV	74

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
10. Pray that you do not become jealous or malicious towards other believers	130	LIX	10
11. Pray for Allah's Forgiveness	130	II	286
12. Never despair of Allah's Mercy	130	XXXIX	53
13. Whose prayers are heard	130	XLII	26
14. Man should pray for both Here and the Hereafter	131	II	200-202
15. Man's own soul is benefited when he shows gratitude to Allah	131	XXXI	12
16. Keep praying to Allah to ward off punishment of Hell from you	131	XXV	65
17. Fulfil your vows when your legitimate prayers are answered	132	II LXXVI	270 7

#### RELIGION OF ISLAM

##### AL-ISLAM

1. Allah named His servants 'Muslim' in previous Revelations also	133	XXII	78
2. Allah perfected and chose Al-Islam as the Approved Religion	133	V	3
3. Religion with Allah is only Islam	133	III	19
4. No other Religion will be acceptable	134	III	85
5. This is the true Religion	134	XCVIII	5
6. One should die as a Muslim only	134	III	102
7. There is no hardship in the observance of this Religion	134	XXII	78

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
8. It is His favour to have made you Muslim	134	XLIX	17
9. Muhammad's (P.B.U.H.) Community declared the 'Best Community' evolved for Mankind	135	III	110
10. Disbelievers would wish that they were Muslims	135	XV	2
11. Had Allah willed all would have been Believers	135	X V	99 48
12. Allah guides or sends astray whom He pleases	136	VI	126
13. Be a Believer from the beginning	136	VI	159
14. No compulsion in Islam over non-muslims	136	II	256
15. Keep away from those who cause dissension in Religion	136	XXX VI	32 160
16. Remain steadfast on the Right Path	137	XXX	30
17. Migration is necessary if practising Islam becomes impossible	137	IV IV	97 100
18. Allah will help you if you help Him	138	XLVII	7
19. Allah shall make it prevail over all other religions	138	LXI	8-9
20. Believers should assist each other	138	VIII	73
21. Discuss religious matters with wisdom and mild exhortation	138	XVI	125

#### PEOPLE WHOM ALLAH LIKES

1. Who have Faith	139	II	257
2. The followers of Muhammad (P.B.U.H.)	139	III	31
3. Who are dutiful and who forgive their fellow-men	139	III	17, 134

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
4. Who repent and cleanse	139	II	222
5. Who are steadfast and virtuous	139	III	146, 148
6. Who put their trust in Allah	140	III	159
7. Who fight in the cause of Allah steadfastly	140	LXI	4
8. Who are fair and just	140	V	42
9. Who fear Allah	140	III	76
10. Who excel in kindness	140	V	13
11. Who like cleanliness	140	IX	108
12. Who fulfil their pledge	141	IX	4
13. Who give charity and perform good deeds	141	II	195
14. The righteous	141	XLV	19
15. Who are humble towards the Believers and stern towards the unbelievers	141	V	54

#### PEOPLE WHOM ALLAH DISLIKES

1. Who are ungrateful	141	XXXIX	7
2. Who are proud and walk in insolence	142	XXXI IV	18 36
3. Who dispute the Signs of Allah	142	XL	35
4. Who are wrong doers	142	XLII	40
5. Who make good things unlawful	142	V	87
6. Who create mischief	142	II	205
7. Who are faithless and commit crimes	143	IV	107
8. Who are transgressors	143	II	190
9. Who are prideful boasters	143	LVII	23
10. Who are ingrate and betray trust	143	XXII	38
11. Who are extravagant	143	VI	142
12. Who are treacherous	143	VIII	58

Subject	Page	Reference		Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse			Surah	Verse
13. Who seek mischief in the land	143	XXVIII	77	17. Who take things in good faith without ascribing evil motives	148	XXIV	12
14. The vanquished	144	XXVIII	76	18. Who do not indulge in false accusation	148	XXIV	16-17
15. Who are arrogant and do not believe in the Hereafter	144	XVI	22-23	19. Who do not follow <i>Satan's</i> footsteps	148	XXIV	21
<b>WHO ARE THE BELIEVERS</b>				20. Who are unlike the wicked and the rebellious	148	XXXII	18
1. Who accept Islam wholeheartedly	144	II	208	21. Whose faith and morale increase against a stronger enemy	148	XXXIII	22
2. Who give up usury	144	II	278	22. Who consider themselves bound to obey the decisions of Allah and His Messenger	149	XXXIII	36
3. Who keep a record of mutual debts	145	II	282	23. Who speak straight and to the point	149	XXXIII	70
4. Who do not lose heart nor grieve	145	III	139	24. Who hate wrangling	149	XL	35
5. Who put their trust in Allah alone	145	III	160	25. Who obey Allah and His Messenger	149	XLVII	33
6. Who fear Allah	145	III	175	26. Who are not friendly with those who have earned Allah's wrath	149	LX	13
7. Who do not misappropriate each other's wealth	145	IV	29	27. Who do not say what they do not practise	150	LXI	2
8. Who fight for the cause of Allah	145	IV	76	28. Who do not let family ties stand in the way of Allah	150	LXIV	14
9. Who discriminate between friend and foe when on <i>Jihad</i>	146	IV	94	29. Who repent sincerely	150	LXVI	8
10. Who do not stay where Divine Verses are ridiculed	146	IV	140	30. Who are sincere Believers	150	XLIX II	15 177
11. Who repent and mend their life	146	IV	146	<b>FACTS OF LIFE</b>			
12. Who believe in this and past revealed texts	146	IV	162	1. Allah breathed His spirit into man at the time of creation	151	XXXII XVII	7-9, 11 85
13. Who will enter the Paradise free of grief and fear	146	VII	49	2. What is the purpose of creating life and death	152	LXVII	1-2
14. Qualities of true Believers	147	VIII IX	1-4 112	3. Every soul shall have to taste death	152	XXI	35
15. Who enjoin Right and forbid wrong	147	IX	71				
16. Who prefer honest livelihood	147	XI	86				

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
4. Allah is nearer to man than his jugular vein, and two angels record his doings	152	I	16-18
5. Declare faith in Allah before death	153	XLII	47
6. Mere saying "we believe" is not sufficient	153	XXIX	2-3
7. Comparison between those desiring "this World" and those desiring the "Hereafter"	153	XVII	18-19
8. Wealth and children are an ornament of this life	153	XVIII LVII	46 20
9. Reality of worldly life	154	III XI XIII VI	14-15 15-16 26 32
10. How do profit, loss and misfortune accrue to man	155	IV XLII	79 30
11. When in trouble man entreats Allah for help but when fortune smiles on him he gives the credit to himself	155	XXXIX	49
12. Man will get in proportion to his effort (what he works for)	156	LIII	39-41
13. Do not covet others' position	156	IV	32
14. Allah grants wisdom to whom He pleases	156	II	269
15. All reverence is for Allah and He exalts whom He pleases	156	XXXV	10
16. Over every knower there is yet another knower	156	XII	76
17. Allah puts man on trial through adversity and prosperity	157	XXI VI VIII	35 166 28
18. Man is tested with fear, hunger or loss of lives, wealth and crops	157	II	155

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
19. What to do when on trial by Allah	157	II	156-157
20. Desire for worldly increase makes one negligent of virtuous life	158	CH	25
21. Honestly earned livelihood is better and more enduring than accumulation of worldly riches	158	XX	174
22. Allah gives respite to man to mend his ways	158	XVI LXVIII	61 44-47
23. Allah does not place a burden on any body greater than one can bear	159	II XXIII	286 62
24. Heavens and Earth have been subjected to Mankind	159	XXXI	20
25. Allah gives children or none at all to whom He will	159	XII	49-50
26. Allah will divide all people into ranks according to their deeds	160	VI XLVI	133 19
27. On Resurrection man would think he had stayed in this world for a few hours	160	X	45
28. Allah is never unjust	160	IV	40
29. It is possible that man may dislike a thing which is good for him and love a thing which is bad for him.	160	II	216
30. Believers should also seek the means of approach unto Allah	161	V	35
31. Unintentional errors will not be accountable	161	XXXIII	5
32. Allah hastens to fulfil the desire of those who want worldly life only before appointing Hell as their last abode	161	XVII	18

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
33. Allah will grant success to Believers who desire the Hereafter and make necessary effort	162	XVII	19
34. Allah assigned man eyes, lips and tongue and showed him the way to both good and evil	162	XC	8 10
35. Death will overtake man anywhere (even in space or deep water)	162	IV	78

### MATRIMONIAL LAWS AND INJUNCTIONS ON VEILING

#### MUSLIM MALE AND FEMALE

1. Creation of woman	163	XXX	21
2. Rights of men and women	163	II III	228 195
3. Men have a status above women	163	II XVI II	228 43 223
4. Why men have a status above women	164	IV	34, 32
5. Woman should not be considered as inherited property	164	IV	19

#### MARRIAGE (*Nikah*)

6. Women with whom marriage is lawful or unlawful	165	IV	22-24
7. Marriage of widows	166	II	234
8. Method of proposing to widows	166	II	235
9. Marriage with female orphans	166	IV	127
10. Marriage with slave girls	167	IV	25
11. Marriage of single persons and slaves	167	XXIV	32
12. Dealing with the people of scripture	167	V	5

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
13. Marriage with Ploy-theists	168	II	221
14. Marriage with divorcee of adopted son	168	XXXIII	37
15. Conditions for marrying more than one wife	169	IV	129
16. Conditions for marrying maximum of four wives	169	IV	3
17. Marriages of unbelievers and lewd persons	169	XXIV	26, 3

#### DISSENSIONS BETWEEN HUSBAND AND WIFE

18. Treat your wife with kindness	170	IV	19
19. Dealing with a disloyal woman	170	IV	34
20. Conjugal differences	170	IV	35
21. Apprehension of ill treatment by husband	170	IV	128
22. Separation is permissible if serious disagreement exists between husband and wife	171	IV	130
23. Swearing abstention from wife	171	II	226
24. Calling wife as his mother as an excuse for staying away from her	171	LVIII	2-4

#### DOWER MONEY (*Mehr*)

25. Payment of Dower	172	IV IV	24 4
26. Divorce before fixing Dower or entering the bridal chamber	172	II	236
27. Divorce after fixing Dower but before entering the bridal chamber	173	II	237
28. Payment of ransom by woman if she wants divorce	173	II	229

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
<b>DIVORCE (Talaq)</b>			
29. Timing the Divorce	174	LXV	1
30. Divorce before entering the bridal chamber	174	XXXIII	49
31. Waiting period for a divorced woman	174	II	228
32. Decisive moment after Divorce is pronounced twice	174	II	229
		II	231
33. Decide finally before the prescribed period is over	175	LXV	2
34. Reunion after Divorce has been pronounced for the third time	175	II	230
35. Freedom of second marriage after Divorce	176	II	232
36. Suckling period for infants	176	II	233
37. Extent of compensation to mother/nurse for feeding the infant	176	II	233
38. Getting back the presents from widows	177	IV	19
39. Widow's stay in late husband's house	177	II	240
40. Subsistence for divorced women	177	II	241
41. Return of gifts and Dower is disallowed	177	IV	20-21
<b>PRESCRIBED PERIOD FOR WOMEN (Iddat)</b>			
42. 'Iddat' for widows	178	II	234
43. 'Iddat' for women divorced before touching	178	XXXIII	49
44. 'Iddat' for divorced women having menstruation	178	II	228
45. 'Iddat' for divorced women without menses or pregnant women	178	LXV	4

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
46. Care of women during 'Iddat'	179	LXV	6
47. Care of pregnant women during 'Iddat'	179	LXV	6
48. Reckoning 'Iddat' period in case of divorce	179	LXV	1
<b>MISCELLANEOUS</b>			
49. Extent of expenditure by father on child's maintenance	179	LXV	7
50. Menstruation and cohabitation	180	II	227
51. Forcing slave girls into promiscuity is prohibited	180	XXIV	33
52. Sodomy is to exceed all limits	180	VII	81
53. Adopted sons	180	XXXIII	4-5
<b>INJUNCTIONS ON VEILING</b>			
1. Garments for Mankind	181	VII	26
2. Veiling for men	181	XXIV	30
		XXIV	27-28
3. Extent of veiling for women	182	XXIV	31
4. Women who may discard veiling (at home)	182	XXIV	60
5. Veiling while going outdoors	182	XXXIII	59
6. Instructions for domestic servants and minors	183	XXIV	58
7. Permission to enter is necessary for sons even on attaining puberty	183	XXIV	59
<b>ECONOMIC PROVISIONS</b>			
<b>ECONOMY</b>			
1. All living creatures are sustained by Allah	184	XI	6
		XV	20



Subject	Page	Reference		Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse			Surah	Verse
2. Allah has distributed livelihood and positions amongst people	184	XI III	32	18. Trade with mutual agreement	188	IV	29
3. Allah increases or decreases sustenance as He pleases for whom He pleases	185	XVII LIII XXX XXXIV XXXIX	30 48 37 36 52	19. Be just in use of weights and measures	189	LXXXIII VI VII XVII XXVI LV	1-4 152-153 85 35 181-183 7-9
4. Allah provides His servants from unsuspected quarters	185	LXV	3	20. Procedure for fixed term debts and cash transactions	190	II	282
5. Wealth should not circulate amongst the affluent only	185	LIX	7	21. Transactions during journey	191	II	283
6. Hoarding of gold and silver brings painful chastisement	186	IX	34-35	22. If the debtor is indigent write off the loan or give him chance to repay	191	II	280
7. Only the misguided cherish riches	186	LXXXIX	20-24	23. Injunctions against interest	191	III II	130 278
8. Desire for worldly increase makes one negligent of virtuous life	186	CII	1-2	24. Difference between interest and trade	192	II	275
9. Hoarding riches is forbidden	187	LXX	16-18	25. Difference between interest and Zakat	192	XXX	39
10. Those who pile up wealth and count it many times will be thrown into the destroying flame	187	CIV	2-4	26. Difference between interest and charity	192	II	276
11. Avarice: Satan frightens of poverty	187	II	268	27. Illicit gain is reprehensible	192	V	62-63
12. Avarice: Niggardliness is not good	187	III	180	28. Misappropriation of orphan's property	193	IV	2
13. Avarice: A miser practises stinginess and urges others to be stingy also	187	IV	37	29. Bribery is forbidden	193	II V	188 42
14. Allah does not love the spendthrift	188	VII	31	30. Consume that which is lawful	193	II V XVI	168 88 114
15. The wastrels are the brethren of Satan	188	XVII	26-27	31. Restore trusts	194	IV XXIII	58 1, 8
16. How to spend	188	XVII XXV	29 67	32. Failures for the bet-rayers of trust	194	XII III	52 161
17. Commerce is lawful in religion	188	II	275	<b>MANDATORY ALMS (Zakat and Ushr)</b>			
				Please refer to "worship of Allah" page 4			

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
<b>VOLUNTARY ALMS (<i>Sadqaat</i>)</b>			
1. Description of charity	195	II	261
2. Give charity for Allah's pleasure	195	II LXX XCII	265 24-25 18-21
3. Charity is a trade but without loss	196	XXXV	29-30
4. What should the rich do	196	LXIII LVII	10 18
5. No fear or grief for the charitable	196	II	274
6. Devil places fear of poverty as hurdle in the way of charity	196	II	268
7. Unbelievers' reaction to charity	197	XXXVI	47
8. Principles of charity	197	III XCIII II II	92 10 263 262
9. Give charity in adversity also	197	III	134
10. Advantages and rewards of charity	198	VIII II LVII LXIV LIX	3-4 245 11 17 9
11. Whom to give	198	II II IX	215 273 60
12. Give the best in the way of Allah	199	II II	267 215
13. How much to spend in charity	199	II	219
14. How to give charity	199	II II	271 274
15. Do not show off while spending	200	IV	38
16. Do not be miserly	200	IV	37
17. Be moderate in charity	200	XVII	29
18. Behaviour with the poor and needy	200	XVII	28

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
19. The affluent should give to their relatives and the needy even if they annoy them	200	XXIV	22
20. Give without reminder or harassment	201	II	264
21. Do not scoff at poor man's charity	201	IX	79
22. Keep covenant of charity when Allah grants prosperity	201	IX	78
<b>BEQUEST AND INHERITANCE</b>			
<b>BEQUEST (WILL)</b>			
1. How to make a will	202	V	106
2. Bequest (will) during journey	202	V	106
3. Injunctions regarding changes in will	202	II II V	181 182 107-108
<b>INHERITANCE</b>			
4. Relationship with adopted sons	203	XXXIII	4-5
5. Blood relations have priority over others	203	VIII XXXIII	75 6
6. Inheritors of deceased's property	204	IV	7
7. Consideration for the poor at the time of distribution	204	IV	8-9
8. Share of heirs	204	IV	11-14
9. Property of deceased with no surviving children or parents	206	IV	177
10. Keep your pledge to all heirs and sharers	206	IV	33
<b>SOCIAL LIFE</b>			
<b>SOCIAL MORES (CONVENTIONS)</b>			
1. Make room for others in assemblies	207	LVIII	11

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
2. Speak of approved things	207	XVII	53
3. Be modest in bearing and voice	207	XXXI	19
4. Do not be arrogant boastful	207	IV	36
5. Avoid speaking ill of others except when you are wronged	208	IV	148
6. Do not be haughty in your behaviour	208	XXXI	18
7. Do not impute your faults to others	208	IV	112
8. Ascertain the truth before accepting report from a wicked person.	208	XLIX	6
9. Pursue nothing of which you have no knowledge	208	XVII	36
10. Do not scoff, defame or use offensive nick-names	209	XLIX	11
11. Do not be scandal-monger and backbiter	209	CIV	1
12. Do not swear over titles	209	II	224
13. Avoid suspecting, prying and backbiting	209	XLIX	12
14. Remain with the righteous	210	IX	119
15. Do not be inquisitive about everything	210	V	101
16. Be straight forward in speech	210	XXXIII	70
17. Do not whisper to each other except for piety	210	LVIII	9
18. How to respond to harsh words	210	XXIII	96
19. Do not say what you do not practise	210	LXI	2-3

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
20. While planning to do something say "if it pleases Allah"	211	XVIII	23-24
21. While enjoining virtue do not forget yourself	211	II	44
<b>SOCIAL RELATIONS</b>			
1. Allah made nations and tribes so that they may know each other	211	XLIX	13
2. You will lose power if you quarrel with one another	211	VIII	46
3. Believers should not make unbelievers their friends unless security demands	212	III	28
4. If believers fall out effect reconciliation between them	212	XLIX	9-10
5. Do not spoil relations with kith and kin	212	IV	1
6. Articles of common use should not be refused to the needy	212	CVII	6-7
7. Salute the inmates and ask for permission before entering others' houses	213	XXIV	27-29
8. Salute inmates while entering your houses	213	XXIV	61
9. Be more courteous in reply to others' greeting	213	IV	86
10. How to avenge if you cannot forgive	213	XVI	126
11. He who forgives shall be rewarded by Allah	214	XLII	40
12. Those who are wronged are permitted to avenge themselves	214	XLII	41

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
13. Those who oppress fellowmen will be punished	214	XLII	42
14. To show patience and to forgive are acts of great courage	214	XLII	43
15. It is very creditable to forgive while in anger	214	XLII III	37 134
16. Do not show favour with a view to seeking worldly gains	215	LXXIV	6
17. Stand by the truthful and the righteous	215	IX	119
18. Rules for eating and dealings within the family	215	XXIV	61

#### SOCIAL EVILS

1. Adultery is a very shameful act	215	XVII	32
2. Punishments for fornication, wickedness and slander	216	XXIV XXIV IV IV	2 4, 23 25 16
3. Drinking, gambling, drawing lots and divining arrows etc are <i>satanic</i> deeds	216	V V	90-91 3
4. Infanticide and homicide are forbidden	217	VI	152
5. Whoever kills a Muslim intentionally will burn in Hell forever	217	IV	93
6. Retribution for homicide and other cardinal crimes	218	V V XVII II IV	33 38-39 33 178-179 92
7. Do not go near lewdness	218	VI	152

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
8. Bribery is forbidden	218	II V	188 42
9. Allah has forbidden indecency and wickedness	218	XVI	90
10. Those who spread slanders among the Believers will be punished in the World and the Hereafter	218	XXIV	19
11. Do not envy people whom Allah has given of His bounty	218	IV	54
12. Intentional oaths will have to be accounted for	219	II	225
13. Those who malign the Believers will bear the guilt of sin	219	XXXIII	58
14. Buyers of magic and magicians will not have any share in the Hereafter	219	II X	102 77
15. Even though it is a fact, unless Allah wills, the evil eye can do no harm	219	XII LXVIII	67 51

#### DEALINGS WITH THE NON-MUSLIMS

1. Who are the unbelievers	220	IV	150-151
2. Who are the hypocrites		IX	67
3. Non-muslims who are most inimical or friendly to Muslims	221	V	82
4. How should a Muslim talk to the opponents of Islam	221	XVII	53
5. How to react to misbehaviour by a non-muslims while proselytizing	221	XVI	126

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
6. Tolerance towards non-muslims in <i>Al Islam</i>	221	III	84
7. No compulsion over non-muslims in religious matters	222	II	256
		L	45
		IV	80
8. Following the disbelievers and the hypocrites	222	XXXIII	1
9. A Muslim's behaviour in the face of oppression by non-muslims	222	XVI	127-128
		LXXIII	10
10. Should <i>Muslims</i> revile the idols of non-muslims	223	VI	109
11. Should treaties with idolators be honoured	223	IX	3-4
12. When unbelievers request peace, should peace be made with them	223	VIII	61-62
13. Should a polytheist be given asylum	224	IX	6
14. Should one dispute with the People of the Book	224	XXIX	46
15. How to react when People of the Book commit excess	224	XXIX	46
16. People whose friendship Allah has forbidden	224	IV	144
		V	51
		V	57-58
17. Do not repose confidence in non-believers	225	III	118
18. Obeying greater part of Mankind would lead you astray	225	VI	117
19. Idolators shall not be permitted to go near the Sacred Mosque	226	IX	28
20. Unbelievers and hypocrites should not be obeyed	226	XXXIII	48

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
21. Believers should not make unbelievers their friends unless security demands	226	III	28
<b>LAWFUL AND UNLAWFUL</b>			
1. Do not make things unlawful which Allah has made lawful for you	227	V	87
2. Do not violate the sanctity of Allah's symbols	227	V	2
3. You should only eat the slaughtered meat on which Allah's name has been pronounced	227	VI	119
4. Eating of unlawful meat under duress	227	VI	120
5. Most of fourfooted grazing type animals have been made lawful	228	V	1
6. Mention Allah's name while releasing hounds or an arrow etc for hunting	228	V	4
7. Meat that is partly eaten by wild animal is lawful provided the victim is slaughtered before death	228	V	3
8. Worldly adornment and clean and pure food is for the Believers	229	VII	32
9. Allah has made lawful male and female camels and cattle and their unborn calves	229	VI	144
		VI	145
10. Forbidden meat	229	V	3
11. The circumstances under which forbid-	230	XVI	115

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
den meat can be consumed			
12. Hunting while in the state of <i>Ehram</i>	230	V	1, 94-96
13. Meat on which Allah's name has not been pronounced while slaughtering is unlawful	230	VI	122
14. Do not decide about legality of eatables arbitrarily	231	XVI	116

### PERSONAL BEHAVIOUR

#### GOOD BEHAVIOUR

1. You should fulfil your promises	232	XVII	34
2. Guard your pledges	232	XXIII	8
3. If you are rightly guided, no one can harm you	232	V	105
4. Allah's servants walk humbly and salute the ignorant avoiding any arguments	232	XXV	63
5. Blessed are those who answer harsh words with gentleness	233	XLI	34-35
6. Think well instead of attributing evil motives to Believers	233	XXIV	12
7. Put your trust in Allah for whatever you do	233	III	159
8. Allah will reward those who speak the truth	233	XXXIII	24
9. Pass by frivolities with dignity	234	XXV	72
10. Who is the noblest in the sight of Allah	234	XLIX	13

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
<b>MORAL EVILS</b>			
1. Suicide is forbidden by Allah	234	IV XVII	29 33
2. Allah does not give guidance to a liar	234	XXXIX XXII	3 30
3. Sodomy is to exceed all limits	235	VII	81
4. Allah knows the treachery and what is in the hearts	235	XI	19
5. Devils descend on every lying sinner	235	XXVI	221-223
6. Those who show off their piety will be punished	235	III CVII	188 5-7
7. Do not break confirmed oaths	236	XVI	91
8. Man's self often lures him to evil	236	XII	53
9. Those who restrain self from lust will be lodged in the Paradise	236	LXXIX	40-41
10. To escape the Devil's lure, seek refuge in Allah	236	XLI	36

### PUBLIC OBLIGATIONS

#### RESPONSIBILITY OF THE HEAD OF FAMILY

1. Head of the family should guard his family also against Fire of Hell	237	LXVI	6
---	-----	------	---

#### TREATMENT OF OFFSPRING

2. The righteous pray for virtuous progeny	237	XLVI XIV	15 40
3. Suckling period for infants	238	XLVI	15

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
4. Neither wealth nor children should cause any distraction from Allah	238	LXIII LXIV XVIII	9 15 46
5. Some wives and children can be enemies	238	LXIV	14
6. Righteous wives and children will join the righteous in Paradise	239	XLIII LII	69-70 21

### DEALINGS WITH THE PARENTS

7. Parents' share in children's wealth	239	II II	180 215
8. Treatment of parents: be good, kind and considerate to them	239	II IV VI XLVI XVII XXXI	83 36 152 15 23 14
9. Show special regard in their old age to parents	240	XVII	23-24
10. When to disobey the parents	241	XXXI	15
11. Allah forgives children's inadvertent mistakes	241	XVII	25
12. Pray for your parents	241	XVII	24

### DEALINGS WITH THE WIFE

13. Be patient and tolerant	241	IV	19
-----------------------------	-----	----	----

### DEALINGS WITH RELATIVES

14. Treatment with relatives	242	XVII XVI XXIV IV	26 90 22 8-9
------------------------------	-----	---------------------------	-----------------------

15. Blood relations have a priority over others	243	VIII	75
---	-----	------	----

### DEALINGS WITH ORPHANS

16. Care of orphans' property	243	IV II	2 220
-------------------------------	-----	----------	----------

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
		IV	5-6
		IV	10
17. Dealings with women and children without parents	244	IV	127
18. Treatment of orphans	244	XCIII IV	9 36

### DEALINGS WITH OTHER CATEGORIES OF PEOPLE

19. Dealings with relatives, far and near neighbours and companions etc	245	IV CVII	36 7
20. Dealings with the poor, the indigent and the needy etc	245	II IV IX XCIII XVII	177 8 60 10 28
21. Dealings with prisoners	246	LXXVI	8
22. Dealings with wayfarers	246	II IX XVII	215 60 26
23. Dealings with male and female slaves	246	IV XXIV	36 33
24. Dealings with the needy	247	XVII IV	28 36
25. Dealings with debtors	247	II	280
26. Feeding the poor	247	LXXVI LXXXIX XC CVII	8-9 17-18 12-16 1-3

### LAW AND JUSTICE

#### EVIDENCE AND EQUITY

1. Allah commands justice and equity	249	VII V	29 42
2. Give true evidence and remain firm for justice	249	IV	135
3. Be just even to enemies	249	V	8
4. Do not give false evidence	250	XXV	72

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
ence and stand firm on your evidence		LXX	33
5. Do not hide testimony	250	II	283
6. In business matters call two men or one man and two women as witnesses	250	II	282
7. Four witnesses are required if honourable women are accused	251	XXIV	4
8. What should be done if four witnesses cannot be produced	251	XXIV	6-9
9. Witnesses necessary for making a will	251	V II	106-108 182
10. Witnesses are required if wife is retained before final divorce	251	LXV	2
11. Allah sends the wrong doers astray	251	XIV	27
12. Never accept evidence of men who fail to prove allegation against honourable women	252	XXIV	4
13. Holy Prophet given option in settling disputes of People of the Book	252	V	42
14. Do not be a pleader for the perfidious and the sinful	252	IV IV IV	105 107 109
15. Judge with justice	253	IV	58
16. Reward of good and bad recommendations	253	IV	85
<b>PUNISHMENTS FOR FORNICATION, ADULTERY AND SLANDER</b>			
1. Commandments in Surah 'Al-Noor' (No. XXIV) made obligatory	253	XXIV	1
2. Adultery and fornication prohibited	254	XVII XXV	32 68-69

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
3. Adulterers are transgressors	254	XXIII	5-7
4. Punishment for adultery and fornication	254	XXIV	2
5. Punishment for accusing honourable women	255	XXIV	4, 23
6. Accept evidence of such persons only after they repent and reform	255	XXIV	5
7. Marriage of vile men and women	255	XXIV	26, 3
8. Punishment for married slave girls is half that of free women	255	IV	25
9. Evidence needed to prove wife's adultery	256	XXIV	6-7
10. How an accused wife can be acquitted	256	XXIV	8, 9
11. Sodomy is prohibited	256	XXVI	165-166
12. Punish men guilty of lewdness	256	IV	16
<b>RETRIBUTION FOR HOMICIDE AND PUNISHMENTS FOR OTHER CARDINAL CRIMES</b>			
1. Guard yourself against tumult and discord	257	VIII XVII	25 53
2. Creating mischief is forbidden	257	XIII	25
3. Punishment for theft	257	V	38-39
4. Homicide forbidden: the murderer will go to Hell	258	V IV	32 93
5. Heirs of murdered person can seek retribution ('Qisas')	258	XVII	33
6. Punishment and compensation for homicide	258	II	178-179
7. Retribution allowed in case of injury also	259	V	45
8. Penalty for killing a Believer by mistake	259	IV	92



Subject	Page	Reference		Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse			Surah	Verse
9. Limits of avenging excesses	260	II	194	7. Difference between <i>Jihad</i> before and after victory	265	LVII	10
10. Infanticide forbidden	260	XVII	31	8. End of rejectors of <i>Jihad</i>	265	IX	81, 82, 84
11. Allah has ordained humiliation and severe punishments for creators of lawlessness in the land	260	V	33	9. People for whom <i>Jihad</i> is not obligatory	265	IX XLVIII	91-93 17
				10. Allah will admit those to Paradise who migrate and become martyrs in <i>Jihad</i>	266	III	195
<b>AMENDS AND RECOMPENSE</b>							
1. Penalty for breaking an oath	261	V	89	11. It is best to die or be slain in Allah's way	266	III	157-158
2. Penalty when wife is called mother	261	LVIII	2-4	12. Those who are slain in the way of Allah are not dead but alive	266	II	154
3. Penalty for hunting except fishing while in the state of <i>Ehram</i>	261	V	95	13. The martyrs are not dead rather they are getting sustenance from Allah	267	III	169-171
4. Deferment of Fast and its amends	261	II	185	14. Allah will give great reward to those who are either slain or victorious in <i>Jihad</i>	267	IV	74
				15. Allah seals the hearts of those who prefer to stay at home with women during <i>Jihad</i>	267	IX	93
<b>DEFENCE</b>				<b>DEFENCE</b>			
<b>HOLY WAR (JEHAD) AND MIGRATION</b>							
1. Allah bestows higher rank on those who fight for Him with wealth and lives	262	IV	95-96	1. Four Sacred Months in a year	268	IX V II	36 2 194
2. <i>Jihad</i> is obligatory for Believers	262	II LXVI XXII	216 9 78	2. Injunctions regarding defence preparations	268	VIII	60
3. <i>Jihad</i> is necessary to defend the oppressed	263	IV	75	3. Be like a solid structure while fighting in Allah's way	269	III LXI	200 4
4. Life, wealth and family should not stand in the way of <i>Jihad</i>	263	LXI IX XLIX	10-11 24 15	4. War of aggression is disallowed in <i>Islam</i>	269	II	190
5. Those who migrate and fight for the cause of Allah will be greatly exalted	264	IX	20	5. Disputes amongst you will create weakness and cowardice	269	VIII	46
6. You should migrate if it becomes impossible to practise <i>Al-Islam</i>	264	IV	97				

Subject	Page	Reference		Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse			Surah	Verse
6. Take up arms if war is thrust on you	269	XXII	39	20. Allah loves those who do not lose heart or give in but remain firm and steadfast	273	III	146
7. Fight for helpless old men, women and children	270	IV	75	21. Turning back in battle will earn Hell except when it be for tactical reasons	274	VIII	15-16
8. Fulfil your treaties even with idolators	270	IX	4	22. Wrong should be avenged in an appropriate manner	274	XLII	39, 41, 43
9. How to deal with people who repeatedly break peace treaties	270	VIII	56-57	23. Do not commit excesses in battle	274	II	193
10. You may throw back treaty if you fear treachery from the other party	271	VIII	58	24. You also incline to peace if unbelievers are inclined	275	VIII	61-62
11. March in detachments or in one body for battle	271	IV	71	25. Believer should neither lose heart nor despair due to any temporary reversal	275	III	139
12. Victory over unbelievers depends on strength of Faith	271	VIII	66	26. Honour the treaty even if it comes in the way of support to oppressed Believers	275	VIII	72
13. Information brought by an evil doer must be verified	271	XLIX	6	27. Pursue the enemy relentlessly	275	IV	104
14. The Believers' faith and morale increases in direct proportion to the enemy's strength	272	XXXIII	22	28. Do not falter or cry out for peace from a position of weakness	276	XLVII	35
15. Intimidate disbelievers by fighting the nearby enemies	272	IX	123	29. Disposal of booty captured in war	276	VIII	69, 41
16. How to fight unbelievers and to treat prisoners of war	272	XLVII	4	30. Give asylum if sought by an idolator	276	IX	6
17. Also pray to Allah for endurance and success in battle	273	II	250	31. Disposal of land and properties acquired by war	277	LIX	6-10
18. Remain steadfast in battle	273	XLVII II	31 177	32. What to do if two parties of Believers take up arms against each other	277	XLIX	9
19. To achieve victory remember Allah much, remain firm and be patient	273	VIII	45-46	33. Believers should not make friends with un-	278	III	28



Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
<b>THE RISE AND FALL OF NATIONS</b>			
1. Possibility of a change in a nation's condition	286	VIII XIII	53 11
2. Righteousness is essential for Here and Hereafter	286	XVI	97
3. Fixed term is allowed to a people to reform and amend	287	XV	4-5
4. No people falls or lasts beyond its appointed hour	287	XXIII X	42-43 49
5. Treatment of an ungrateful people	287	IV VI	133 6
6. Destruction of vain-glorious people	288	XXVIII	58
7. Every infidel settlement shall be chastised or destroyed	288	XVII	58
8. No people can escape consequences of moral decadence	288	XLIV	37
9. Test of nations through affluence and adversity	288	VII	168
10. Some of the causes of downfall of Muslims	289	LXV LIX LVIII LIII XLII XXXIX IV	8-9 19 20 29-30 30 9 75
11. Learn from the relics of the archaeological ruins	290	XXX	9-10
12. It is people who wrong themselves	290	X	44
13. Some of the conditions for the rise of the Muslims	291	XXXIX II III VIII	55 208 103 29

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
14. If you disobey Allah He will replace you	291	XLVII	38
15. Inheritors of the kingdom of the earth	292	XXI XXIV	105 88
16. Let not the pomp and show of the other nations deceive you	292	III	196-197
17. Grace and abundance is bestowed on those who fear Allah and act righteously	293	VII	96
18. Allah will not destroy a nation without cause or warning	293	VI	132
19. Allah has sent a messenger with His Message of Monotheism to every nation of the world	293	XVI X	36 47
20. All prophets sent by Allah have not been mentioned in Qur'an	294	IV	164

### NATURAL SCIENCES

#### CREATION OF THE UNIVERSE

1. How things happen	295	II	117
2. Allah created Heavens and Earth in six days	295	VII II	54 29
3. He raised Heavens without pillars, made the Moon the Earth's light and the Sun a lamp	295	XIII LXXI	2 16
4. He made the firmament with power and spread out the Earth	296	LI	47-48
5. Creation of oceans, seas and sub-terranean water	296	XXIII	18

#### CREATION OF HUMANKIND AND JINNS

6. Creation of Mankind and Jinns	296	XV	26-27
----------------------------------	-----	----	-------

Subject	Page	Reference		Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse			Surah	Verse
7. Allah breathed His spirit into man at the time of creation	297	XXXII	9	21. Allah's Signs for people who have vision	302	XXIV XXXV	43-44 12
8. Allah created Mankind from a single person	297	XXXIX	6	22. Another proof of Allah's Might	303	XXXVI	80
9. Allah shapes up the foetus in three dark-nesses (abdomen, uterus and membrane) within the mother's womb	297	XXXIX	6	23. Allah turned the trans- gressors into monkeys to make it a lesson for the later generations	303	II	65-66
10. Man is created from the gushing fluid arising between the loins and the ribs	297	LXXXVI	5-7	<b>ALLAH'S ATTRIBUTES OF CREATION AND REPRODUCTION</b>			
11. Allah has full control over creation of Man- kind and plants	298	XXII	5-6	24. Allah has subjected all the things in the Heavens and on the Earth to the use of Mankind	303	XXXI	20
12. All living creatures were born of a fluid	298	XXIV	45	25. Allah has made every- thing in Heavens and Earth subservient to man	304	XLV	13
13. Men and animals made in pairs for propagation	299	XLII	11	26. Allah has made oceans subservient to man	304	XVI	14
14. Everything created in pairs	299	LI XIII XXXVI	49 3 36	27. Allah has allowed man to penetrate with his developed power into outer space upto His sanctioned limits	304	LV	33
15. Allah created man and taught him how to speak	299	LV	1-4	28. After passing by and seeing the various mani- festations of the Earth and the Heavens the majority of Mankind pay no heed to them	304	XII	105-106
<b>SIGNS OF NATURE MEANT FOR REFLECTION</b>				29. Allah put constellations in the Heavens and adorned them for the onlookers	305	XV	16
16. Some of the Signs of Nature for the people of understanding	300	II	164	30. Guarding of Heavens	305	XV	17-18
17. Signs of Nature for the true Believers	300	XVI VI VI	79 100 96	31. He made the Sun a lamp and the Moon a light and fixed the phases of the Moon to facilitate counting of years	305	X II	5 189
18. There is a lesson for reflection even in cattle	301	XVI	66				
19. Allah's Signs for people of understanding	301	XIII XXX	4 21				
20. Signs of Allah for think- ers (Honey - a cure for many diseases)	302	XVI	68-69				

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
32. In the sight of Allah there are twelve months in a year	306	IX	36
33. To regulate balance and speed of Earth Allah placed mountains and made wide ravines	306	XXI	31
34. He fixed the Sun's path and Moon's phases and all will keep revolving on their orbits for an appointed term	306	XXI XXXVI XXXIX	33 38-40 5
35. Allah has inexhaustible treasures of everything	307	XV	21-22
36. He sends rain and lightning through the clouds and hail from the mountains whenever He pleases	307	XXIV	43
37. He has marked out rivers and paths and landmarks for communication	308	XVI	15-16
38. He made stars to tell the way in the darkness on land and sea	308	VI	98
39. Allah created cattle for Mankind to use them for food and transport	308	XL VI	79-80 143
40. Allah made olive tree to serve as food and oil	309	XXIII	20
41. Allah ordained the night for rest and Sun and the Moon for reckoning	309	VI	97
42. All this is Allah's creation, where are the creatures of those they associate with Him	309	XXXI	11
43. None except Allah can	309	X	34

Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse
originate and repeat Creation			
44. Allah's favours are countless	310	XVI	15
45. No one can understand how the whole Creation celebrates Allah's praises	310	XVII	44
46. Plants and trees also bow down to Allah in adoration	310	IV	6
47. The angels regulate the affairs of the World in accordance with Allah's will	310	LXXIX	1-5
48. Allah created iron so that weapons of war and articles of daily use are manufactured from this extremely powerful metal	311	LVII	25
49. Allah creates such things also of which man has no knowledge	311	XVI	8
50. Extent of the words of Allah	311	XXXI	27

### THE DOOMS-DAY

1. Creation of Universe for a fixed term	312	XXX	8
2. Dooms-day is essential for judgement of good and evil deeds	312	XXXIV	3-5
3. Only Allah knows the time of its occurrence	312	VII	187
4. The Day of Judgement may be at hand	313	XXXIII	63
5. Timings of universal planning are beyond human understanding	313	XXII LXX	47 4
6. Dooms-day is kept hid-	313	XX	15

Subject	Page	Reference		Subject	Page	Reference	
		Surah	Verse			Surah	Verse
den so that actions are fairly rewarded				17. Who shall be permitted to intercede	318	XIX LIII	87 26
7. Dooms-day will be a terrible event	313	XXII LIV	1 46	18. Mankind will be divided into various groups	319	LVI	7-10
8. Non-believers in Resurrection will be the losers on the Day of Judgement	314	LXXV VI XVII	3-4 31 49-51	19. The Paradise in which 'Foremost' will be given entry (1st category)	319	LVI	10-26
9. Some signs heralding Dooms-day	314	XXI	95-97	20. The Paradise to which people of the 'Right Hand' will be admitted (2nd category)	320	LVI	27-40
10. The Dooms-day	315	XXXVI LXIX CI LXXV LXX LXIX LXXXII LXXXI	49-50 13 4-5 7-9 8-9 14, 16, 17 1-4 1-6, 11-13	21. Where those of the 'Left Hand' will dwell (3rd category)	320	LVI	41-44, 52-57
11. Resurrection of Mankind after death	316	XXXIX	68	22. Some people will be on the heights between Paradise and Hell (4th category)	321	VII	46
12. On Resurrection man would think he had stayed in this world for a few hours and he would also recognise his fellows	316	X	45	23. Description of Paradise	321	III LV XLIV LV	133 46-58 (even No) 51-53 62-68, 76 (even No)
13. Everybody will be presented to Allah accompanied by his driving angels	317	L	21, 23	24. Admission into Paradise	323	LII LXXVI LXXVI	22-23 5-6 13-21
14. Everybody will be confronted with his record of actions	317	XVII XVIII XLV	13-14 49 28-29	25. Description of Hell	323	XXXIX X XXXII II XLIV XIV LXXIV	73-74 10 44 13 24 43-50 16-17 28-31
15. The sinners will long for a second chance	318	XXXII XXXIX	12 58	26. Admission into Hell	324	X XXXIX	7-8 71-72
16. Award shall be given with full justice	318	XXXVI	54	27. Then Hell will be asked if it was full	325	L	30

## تفصيل الموضوعات

الصفحة	سورة	آية	موضوع	الصفحة	سورة	آية	موضوع
٨٩	١٧	٨٣	فُصِّلَ الأشياء في القرآن بطرق مختلفة	١٨			
٢-١	١٨	٨٣	ليس في القرآن أي تعقيد	١٩			
٨٣	٤	٨٤	القرآن خال من كل عيب	٢٠	٧-٢	٥	٧٦
١٩-١٦	٧٥	٨٤	على الله جمع القرآن وقرآنه	٢١	٢٤	١٣	٧٦
			يعلم الله الذين يبغون آياته	٢٢	١٣	٤٢	
٤٠	٤١	٨٤	الواضحة عوجها	٢٣	٢٣	٣٩	
			على الله حفظ القرآن	٢٤	٢٨-٢٧	٨١	
٩	١٥	٨٤	ماذا سيكون مصير الذين يكفرون بأيات الله	٢٥	٢٧	٣١	٧٧
٥٦	٤	٨٥	اجتنبوا المجالس التي تناقش فيها آيات القرآن مناقشة لغو	٢٦	١١٧	٢	٧٧
			لا يمَس القرآن إلا في حالة الطهارة	٢٧	٣٥	١٩	
٩٨	١٦	٨٥	ماذا يفعل قبل قراءة القرآن	٢٨	٥٤	٧	٧٨
٢٠-٤	٧	٨٦	آداب الإستماع للقرآن	٢٩	٢٩	٢	
٧٨	٢	٨٦	فهم القرآن ضروري أيضا	٣٠	٨١	٣	٧٨
٢٥	٢	٨٦	مصير المؤمنين والذين يعملون الصالحات	٣١	٢٥-١١	٧	٧٩
٤٨	٥	٨٦	لولا لم يكن البلاهد فاجعل الله الناس أمة واحدة	٣٢	٣٧	٢	
			يضرب الله الأمثال في القرآن	٣٣	٢٧-٢٦	١٥	٨٠
٣٥	٢٤	٨٧	لهداية الناس	٣٤	١٩-١٢	٢٣	
٥٢	٦٨	٨٧	القرآن ذكر للعالمين	٣٥	١٨٥	٢	٨١
٥٤	١٨			٣٦	٥-١	٩٧	٨١
				٣٧	١٦٦	٤	٨١
				٣٨	٥-١	٩٦	٨٢
				٣٩	٩٧	٢	٨٣
				٤٠	٤٤	٤١	٨٢
				٤١	٤	١٤	٨٢
				٤٢	٤٩	٢٩	٨٢
				٤٣	١٧	٥٤	٨٣
				٤٤	١٠٦	١٧	٨٣
				٤٥			
				٤٦			
				٤٧			
				٤٨			
				٤٩			
				٥٠			
				٥١			
				٥٢			
				٥٣			
				٥٤			

## تعريف القرآن

- ١ من يهديه هذا الكتاب
- ٢ من يهدي إلى صراط المستقيم
- ٣ ماذا سعة كلام الله
- ٤ كيف تحدث الأشياء
- ٥ خلق العالم
- ٦ اخذ الله الميثاق من النبيين
- ٧ خلق آدم وإبليس
- ٨ خلق الانس والجن
- ٩ أنزل القرآن في رمضان
- ١٠ بدأ نزول القرآن في ليلة القدر
- ١١ والله يشهد أنه أنزل القرآن بعلمه
- ١٢ أول وحى نزل من السماء
- ١٣ بواسطة من أنزل القرآن الكريم
- ١٤ لماذا أنزل القرآن باللغة العربية
- ١٥ جعل القرآن محفوظا في صدور أهل العلم
- ١٦ لقد يستر القرآن للذكر
- ١٧ لأجل السهولة أنزل القرآن نجما نجما بالتدرج



الصفحة	سورة	آية	موضوع	حوالہ			موضوع	الصفحة
				سورة	آية	سورة		
۹۳	۲۰	۱۲	ما هو الضلال المبين	۸	۷	۸۷	۳۴	لن يدخل الجنة من يكذب بآيات الله ويبغونها عوجا
۹۳	۲۹	۱۷	عبادة الأصنام بهتان وإفك مبين	۹	۵	۸۸	۳۵	القرآن مصدق لما بين يديه من الكتب السماوية ومهيمن عليه
۹۳	۴	۴۸	لن يغفر الله للذين يجعلون له آندادا	۱۰	۳	۸۸	۳۶	سيعذب الله الذين تفرقوا في دين الله عذابا ألما
۹۳	۵۹	۲۴-۲۴	ما من شيء في السموات والأرض إلا يسبح بحمد الله	۱۱	۳۰	۲۵	۳۷	يشكو محمد يوم القيامة إعراض قومه عن القرآن
۹۴	۳	۱۸	شهد الله نفسه بوحدانيته	۱۲	۵۵	۲۹	۳۸	ليتبع الانسان القرآن قبل أن يحل عليه عذاب بغتة
<b>الرسالة - محمد ﷺ</b>				۱	۲۸	۳۵	۳۹	إن أصحاب العلم هم الذين يخشون الله الذين لا يحكون بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
۹۵	۳	۸۰	أخذ الله الميثاق من النبيين	۱	۴۴	۵	۴۰	التوحيد
۹۵	۷	۱۵۷	ذكر سيدنا محمد في التوراة والإنجيل	۲	۲۷	۲۰-۲۴	۹۰	الله هو خالق كل شيء
۹۵	۲۰	۶	بشر عيسى بن مريم برسالة أحمد	۳	۲	۲۵۵	۹۱	الله يطع على الغيب من يشاء ويطلع به بقدر ما يشاء
۹۶	۵	۱۹	لماذا بعث سيدنا محمد بعد فترة من الرسل	۴	۹۱	۱۳	۹۱	الله رب السموات والأرض
۹۶	۲۹	۴۸	محمد بنو أبي لم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة	۵	۹۲	۱۴	۹۲	يتضمن القرآن رسالة توحيد لكافة الناس
۹۶	۳۵	۵۶	لماذا بعث سيدنا محمد	۶	۹۲	۱۶	۹۲	عليكم أن تحافوا الله ولا تعبدوا اللهين
۹۶	۶	۵۰	لا ينطق سيدنا محمد عن الهوى بل ينطق بما يوحى إليه من الله	۷	۹۲	۱۶	۹۲	لا تشركوا بعبادة الله أحدا والذين يعبدون آلهة غير الله لن يدخلوا الجنة
۹۶	۵۳	۵	لقد فضل بعض الرسل على بعض	۸	۹۲	۱۶	۹۲	
۹۶	۷	۵۵	أمر الله سيدنا محمد أن يعلن رسالته	۹	۹۲	۱۶	۹۲	
۹۶	۷۴	۷-۱	النعمة الخاصة من الله على محمد	۱۰	۹۲	۱۶	۹۲	
۹۸	۲۱	۱۰۷	(۱) رحمة للعالمين		۳۶	۴	۹۲	
۹۸	۲۴	۲۸	(۲) خاتم النبيين		۱۱۰	۱۸	۹۳	
۹۸	۳۳	۴۰	(۳) نجات المعراج ليلة الإسراء		۲۱۳	۲۶	۹۳	
۹۸	۱۷	۱۸-۱۷			۷۲	۵		

موضوع	الصفحة	حواله		موضوع	الصفحة	حواله	
		سورة	آية			سورة	آية
كافة الناس ديناً	۹۹	۵	۳	يغفر الله ذنوب الذين يتبعون محمداً	۲۰	۳	۱۰۳
د. اعصى الكون	۹۹	۱۰۶	۱	إذا قصر الانسان في احترام النبي	۲۱	۴۹	۱۰۳
ان الله وملائكته يصلون على النبي	۹۹	۳۳	۵۰	خيف عليه من ضياع أعماله			
اعتبر الكفار معجزة شق نقر سحر محمد	۹۹	۵۴	۲-۱	لقد بعث الله محمداً بشيراً وسراجاً منيراً	۲۲	۳۳	۱۰۳
<b>عبادة الله</b>							
<b>الصلوة</b>							
ما خلق الله الجن والانس إلا لعبادته	۱			أين سيكون غير المصلين	۲	۷۴	۱۰۴
وفي بيان اقوة الروحانية لصاحب سليمان ايضاً إشارة الى التدبر في مستوى مكانة افراد خير الامم وهي أمة محمد	۱۱	۲۷	۴۰	ادعوا الله ان يجعل اولادكم واياكم مقيمي الصلوة	۳	۱۴	۱۰۴
جعل الله محمداً على شريعة من الأمر	۱۰۰	۴۵	۱۸	عليكم ان تأمروا اهلكم بالصلوة	۴	۲۰	۱۰۵
ان الذين يبايعون محمداً انما يبايعون الله	۱۰۰	۴۸	۱۰	لما اذا تقام الصلوة	۵	۲۹	۱۰۵
لا فرق في اطاعة الله واطاعة محمد	۱۰۱	۴	۸۰	ارشادات لإداء الصلوة	۶	۱۱	۱۰۵
تظهر آثار العبودية الصادقة على وجوه اصحاب محمد	۱۰۱	۴۸	۲۹	الأذان	۷	۵	۱۰۶
من يعص الله ورسوله فما واه جهنم	۱۰۲	۷۲	۲۳	لا تقربوا الصلوة وأنتم جنب	۸	۴	۱۰۶
على المؤمنين أن يصلوا ويسلبوا على محمد	۱۰۲	۳۳	۵۶	مانوع الثياب في الصلوة	۹	۷	۱۰۶
يغفر الله ذنوب الذين يستغفرونهم سيدنا محمد	۱۰۲	۴	۶۴	الموضوء والتيمم	۱۰	۵	۱۰۷
محمد أحق بالمؤمنين من انفسهم وازواجه كأمهاتهم	۱۰۲	۳۳	۶	كيف تقام الصلوة	۱۱	۲۳	۱۰۷
				ولتوا وجوهكم نحو الكعبة عند اداء الصلوة	۱۲	۲	۱۰۷
				يجب أداء الصلوة بالجماعة	۱۳	۲	۱۰۷
				أوقات أداء الصلوة والتيمم	۱۴	۱۷	۱۰۸
				وقراءة القرآن		۲۰	۱۰۸
				المحافظة على أوقات الصلوة	۱۵	۴	۱۰۸

آیت	سورہ	حوالہ	موضوع	آیت	سورہ	حوالہ	موضوع	آیت

## الحج والعمرة

۹۱-۹۶	۳	۱۱۵	اول بيت الله سبحانه وتعالى	۱	۲۳۸	۲	۱۰۸	يجب الحفاظ على جميع الصلوات وخاصة على الصلوة الوسطى (العصر)	۱۶
۲۸	۹	۱۱۵	لاحق للمشرکین أن یقربوا بیت اللہ	۲	۱۰-۹	۶۲	۱۰۹	أتركوا البيع والشراء لصلوة الجمعة	۱۷
۹۷	۳	۱۱۵	من كتب عليه الحج	۳					
۱۹۶	۲	۱۱۵	أشهر الحج	۴	۲۳۹	۲	۱۰۹	الصلوة في حالة الخطر	۱۸
۱۹۷	۲	۱۱۶	زاد السفر للحج	۵	۱۰۲	۴	۱۰۹	الصلوة في حالة القتال	۱۹
۱	۵	۱۱۶	حرم على المحرم أن يصطاد	۶	۱۰۱	۴	۱۱۰	قصر الصلوة في السفر	۲۰
۹۴-۹۵	۵	۱۱۶	على المحرم كفارة الصيد	۷	۸۴	۹	۱۱۰	لا تصل صلوة الجنازة على الكافرين ولا تقم على قبرهم	۲۱
			سوى صيد البحر						
۹۴	۵	۱۱۷	ألقصد من تحريم الصيد للحرم	۸	۱۸۶	۲	۱۱۰	يسبح الله دعاء عباده	۲۲
			هو الإبتلاء		۲۶	۴۲	۱۱۰	من يسبح الله دعائهم	۲۳
۱۹۱-۱۹۶	۲	۱۱۷	إتمام الحج	۹	۱۱۲	۱۱	۱۱۱	سعة العبادة	۲۴
۱۹۹									
۱۱۰-۱۱۲	۳۷	۱۱۸	الأضاحي - وفي ما يلي	۱۰					
			ذكر سيدنا ابراهيم		۱۸۵	۲	۱۱۱	شهر رمضان	۱
۲۸-۲۹	۳۳	۱۱۸	ولالأضاحي ايام معلومات	۱۱	۱۸۳	۲	۱۱۱	لماذا كتب الصيام	۲
۳۷	۲۲	۱۱۸	ما فائدة الأضاحي	۱۲	۱۸۵	۲	۱۱۱	قضاء الصوم أثناء السفر والمرض	۳
۲۹	۲۲	۱۱۹	طواف بيت الله الحرام	۱۳	۱۸۷	۲	۱۱۲	حكم المباشرة مع النساء	۴
۱۵۸	۲	۱۱۹	السعي بين الصفا والمروة	۱۴				خلال الصوم والإعتكاف	
۲۳-۲۰۰	۲	۱۱۹	القيام في منى	۱۵	۱۸۷	۲	۱۱۲	أوقات الصوم	۵

## ذكر الله سبحانه وتعالى

ذكر الله

۱۵۲	۲	۱۱۹
۲۱	۳۳	۱۲۰
۳۶-۳۶	۲۴	
۴۵	۲۶	
۴۱-۳۵	۳۳	
۱۹۸	۲	
۱۵-۱۴	۸۷	
۲۳	۳۹	
۱۰	۶۲	
۷-۶	۷۲	
۲۵	۷۶	

## الزكوة والعشر

۵۶	۲۴			
۵-۴	۲۱	۱۱۳		
۲۰	۷۲			
۳۹	۳۰	۱۱۳		
۵	۹۸	۱۱۳		
۹۰	۹	۱۱۴		
۲۶۷	۲	۱۱۴		
۱۴۲	۶			

۱	إيتاء الزكوة
۲	الفرق بين الربو والزكوة
۳	الزكوة أهل من اصول الدين
۴	من مستحقو الزكوة
۵	يجب أداء العشر

الصفحة	سورة	آیت	موضوع	الصفحة	سورة	آیت	موضوع	
								حوالد
۶۷	۲۸	۱۲۶	ترجى المغفرة بالتوبة والإيمان والعمل الصالح	۱۲	۲۰۵	۷	۱۲۱	كيف يكون ذكر الله
۸	۶۶	۱۲۶	ماهى احسن صورة للتوبة	۱۳	۱۹۱	۳	۱۲۱	متى يكون ذكر الله
۵۴-۵۳	۳۹	۱۲۶	لا تقنطوا من رحمة الله وأنبوا اليه	۱۴	۱۰۲	۴	۱۲۲	ذكر الله خلال الجهاد
۳۳-۳۲	۵۰	۱۲۷	والذين يؤمنون بالغيب ويخافون الله سيدخلهم الجنة	۱۵	۲۱	۱۳	۱۲۲	تطمئن القلوب بذكر الله
۷۱	۲۵	۱۲۷	والذين يتوبون إلى الله ويعملون عملا صالحا يقبل الله توبتهم	۱۶	۲۰۵	۷	۱۲۲	لا تنسوا ذكر الله
			<b>الدعاء</b>					يقبض الله الشيطان من يتغافل عن ذكره
			امر الله محمدا ان يطلب منه زيادة في علمه	۱	۳۶	۴۳	۱۲۲	<b>الصداقات</b>
۱۱۴	۲۰	۱۲۷	لا تدع مع الله احدا في قضاء حاجاتك وحل مشاكلك	۲				لاحظ عنوان الاقتصاديات الصفحة ۳۸
۱۴	۱۳	۱۲۸	الله أقرب الى الإنسان من حبل الوريد وهو الذى يسمع دعاءه	۳				<b>التوبة</b>
۶۳	۲۷	۱۲۸	يسمع الله دعاء المضطر إذا دعاه ويكشف الضر عنه	۴	۱۳۵	۳	۱۲۳	استغفروا الله لذنوبكم ولا تصروا على سيئاتكم
۵۹-۵۵	۷	۱۲۹	كيف يسأل الله عليكم ان تسألوا الله من فضله	۵	۷۰	۲۵	۱۲۳	من يبد لهم الله سيئاتهم حسرات
۳۲	۴	۱۲۹	عليكم ان تستغفروا الله لانفسكم ولا ياتكم	۶	۱۸	۴۷	۱۲۳	متى يفوت أو ان التوبة
۴۱	۱۴	۱۲۹	دعاء الوالدين للأولاد	۷	۵۸	۳۹	۱۲۳	يود الانسان ان يعود الى هذه الدنيا مرة ثانية عند ما يرى عذاب الله بين يديه
۴۰	۱۴	۱۲۹	عليكم ان تدعوا الله سبحانه تعالى أن يعجل اولادكم وازواجكم قرآ أعين لكم	۸				يقبل الله توبة عباده
۷۴	۲۵	۱۲۹		۹	۱۰۴	۹	۱۲۳	يعفو الله عن عباده
				۱۰	۲۵	۴۳	۱۲۴	من يستحق ان تقبل توبته
				۱۱	۱۵۳	۷	۱۲۴	من يقبل الله توبته
				۱۲	۸۲-۸۱	۲۰	۱۲۴	من يجتنب ارتكاب الكبائر يعفر الله صغائره
				۱۳	۱۲۶-۱۲۵	۳	۱۲۴	من لا يقبل الله توبته ماهى الذنوب التي لا يغفرها الله
				۱۴	۱۷	۴	۱۲۵	
				۱۵	۵۴	۶	۱۲۵	
				۱۶			۱۲۵	
				۱۷			۱۲۵	
				۱۸			۱۲۵	
				۱۹			۱۲۵	
				۲۰			۱۲۵	
				۲۱			۱۲۵	
				۲۲			۱۲۵	
				۲۳			۱۲۵	
				۲۴			۱۲۵	
				۲۵			۱۲۵	
				۲۶			۱۲۵	
				۲۷			۱۲۵	
				۲۸			۱۲۵	
				۲۹			۱۲۵	
				۳۰			۱۲۵	
				۳۱			۱۲۵	
				۳۲			۱۲۵	
				۳۳			۱۲۵	
				۳۴			۱۲۵	
				۳۵			۱۲۵	
				۳۶			۱۲۵	
				۳۷			۱۲۵	
				۳۸			۱۲۵	
				۳۹			۱۲۵	
				۴۰			۱۲۵	
				۴۱			۱۲۵	
				۴۲			۱۲۵	
				۴۳			۱۲۵	
				۴۴			۱۲۵	
				۴۵			۱۲۵	
				۴۶			۱۲۵	
				۴۷			۱۲۵	
				۴۸			۱۲۵	
				۴۹			۱۲۵	
				۵۰			۱۲۵	
				۵۱			۱۲۵	
				۵۲			۱۲۵	
				۵۳			۱۲۵	
				۵۴			۱۲۵	
				۵۵			۱۲۵	
				۵۶			۱۲۵	
				۵۷			۱۲۵	
				۵۸			۱۲۵	
				۵۹			۱۲۵	
				۶۰			۱۲۵	
				۶۱			۱۲۵	
				۶۲			۱۲۵	
				۶۳			۱۲۵	
				۶۴			۱۲۵	
				۶۵			۱۲۵	
				۶۶			۱۲۵	
				۶۷			۱۲۵	
				۶۸			۱۲۵	
				۶۹			۱۲۵	
				۷۰			۱۲۵	
				۷۱			۱۲۵	
				۷۲			۱۲۵	
				۷۳			۱۲۵	
				۷۴			۱۲۵	
				۷۵			۱۲۵	
				۷۶			۱۲۵	
				۷۷			۱۲۵	
				۷۸			۱۲۵	
				۷۹			۱۲۵	
				۸۰			۱۲۵	
				۸۱			۱۲۵	
				۸۲			۱۲۵	
				۸۳			۱۲۵	
				۸۴			۱۲۵	
				۸۵			۱۲۵	
				۸۶			۱۲۵	
				۸۷			۱۲۵	
				۸۸			۱۲۵	
				۸۹			۱۲۵	
				۹۰			۱۲۵	
				۹۱			۱۲۵	
				۹۲			۱۲۵	
				۹۳			۱۲۵	
				۹۴			۱۲۵	
				۹۵			۱۲۵	
				۹۶			۱۲۵	
				۹۷			۱۲۵	
				۹۸			۱۲۵	
				۹۹			۱۲۵	
				۱۰۰			۱۲۵	

الصفحة	سورة	آية	موضوع	الصفحة	حوالہ		موضوع	الصفحة
					سورة	آية		
۱۰	۱۳۵	۲	يود الكافرون لو كانوا مسلمين	۱۰	۱۰	۵۹	۱۳۰	عليكم أن تدعوا الله سبحانه وتعالى
۹۹	۱۰	۹۹	لو شاء الله لجعل كل الناس مسلمين	۱۱				أن لا يجعل في قلوبكم غلا للمؤمنين
۴۸	۵	۴۸	ولكنه لم يشاء هذا ابتلاءً		۲۸۶	۲	۱۳۰	عليكم أن تستغفروا الله ذنوبكم
۱۲۶	۶	۱۲۶	يهدى الله من يشاء ويضل من يشاء	۱۲	۵۳	۲۹	۱۳۰	لا تقنطوا من رحمة الله
۱۵۹	۶	۱۳۶	ليؤمن الناس قبل أن تأتيهم آيات ربهم	۱۳	۲۶	۴۲	۱۳۰	من يقبل الله دعائه
۲۵۶	۲	۱۳۶	لا إكراه في الدين	۱۴	۲۰۲-۲۰۰	۲	۱۳۱	ليكن الدعاء للدنيا والآخرة
۳۲	۲۰	۱۳۶	لا تكونوا مع الذين يسعون في	۱۵				كليهما
۱۶۰	۶	۱۶۰	دين الله فسادا ويقضون على		۱۲	۳۱	۱۳۱	من شكر الله فقد شكر نفسه
			وحدة الأمة المسلمة		۶۵	۲۵	۱۳۱	على الناس أن يدعوا الله سبحانه
۳۰	۳۰	۱۳۷	كونوا قوامين على صراط الله المستقيم	۱۶				وتعالى ليبعد عنهم عذاب جهنم
۹۷	۴	۱۳۷	هاجروا من الأرض التي أصبغ فيها	۱۷	۲۷۰	۲	۱۳۲	عند قضاء الحاجة المطلوبة يجب
۱۰۰	۴	۱۰۰	العمل بالإسلام مستجيلا		۷	۷۶		على الإنسان أن يوفي بما نذر
۷	۴۷	۱۳۸	إن تنصروا الله ينصركم	۱۸				
۶-۹	۶۱	۱۳۸	على الله أن يغلب الإسلام على	۱۹				
			سائر الأديان					
۷-۸	۸	۱۳۸	يجب أن يتعاون المؤمنون فيما بينهم	۲۰	۷۸	۲۲	۱۳۳	لقد سمى الله المسلمين مسلمين في الكتب
۱۲۵	۱۶	۱۳۸	يجب أن يكون البحث الديني	۲۱				السموية السابقة أيضا
			والمجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة		۳	۵	۱۳۳	أكمل الله الإسلام ورضيه ديناً
			من يحبهم الله		۱۹	۳	۱۳۳	إن الدين عند الله الإسلام
۲۵۷	۲	۱۳۹	يحب الله المؤمنين	۱	۸۵	۳	۱۳۴	لا يقبل الله أي دين غير الإسلام
۳۱	۳	۱۳۹	ومن يتبع رسوله	۲	۵	۹۸	۱۳۴	الإسلام هو دين الحق
۱۳۴-۱۱۷	۳	۱۳۹	والمتقين والعافين عن الناس	۳	۱۰۲	۳	۱۳۴	ليحمت الإنسان مسلماً
۲۲۲	۲	۱۳۹	والتواابين والظاهرين	۴	۷۸	۲۲	۱۳۴	لا يوجد أي عسر في أحكام الإسلام
۱۸۹-۱۲۴	۳	۱۳۹	والصابرين والصالحين	۵	۱۷	۴۹	۱۳۴	لقد من الله عليكم إذ جعلكم مسلمين
۱۵۹	۳	۱۴۰	والمتوكلين عليه	۶	۱۱۰	۳	۱۳۵	أمة محمد خير جميع الأمم

## دين الإسلام

### الإسلام

تسلسلہ نمبر	موضوع	صفحہ	حوالہ		تسلسلہ نمبر	موضوع	صفحہ	حوالہ	
			سورہ	آیت				سورہ	آیت
	والمقاتلين في سبيله صفا كأنهم	۱۴۰	۶۱	۴	۱۲	والمفسدين في الارض	۱۴۳	۲۸	۷۷
	بنیان مرصوص				۱۴	والفرحين	۱۴۴	۲۸	۷۶
۸	يحب الله المقسطين	۱۴۰	۵	۴۲	۱۵	والذين يطعون ولا يؤمنون بالآخرة	۱۴۴	۱۶	۲۳-۲۲
						<b>من المؤمنون</b>			
۹	والذين يمشون	۱۴۰	۳	۷۶	۱	الذين يدخلون في السلم كافة	۱۴۴	۲	۲۰۸
۱۰	والمحسين	۱۴۰	۵	۱۳	۲	والذين يمتنون اكل الربوا	۱۴۴	۲	۲۷۸
۱۱	والمطهرين	۱۴۰	۹	۱۰۸	۳	والذين يكتبون تداينهم	۱۴۵	۲	۲۸۲
۱۲	والذين يوفون بعهدهم	۱۴۱	۹	۴	۴	والذين لا يهنون ولا	۱۴۵	۳	۱۳۹
۱۳	والذين ينفقون في سبيله	۱۴۱	۲	۱۹۵		يخزنون			
۱۴	والمتقين	۱۴۱	۴۵	۱۹	۵	والذين يتوكلون على الله وحده	۱۴۵	۳	۱۶۰
۱۵	الرحمة للمؤمنين والأشداء على الكفار	۱۴۱	۵	۵۴	۶	والذين يخافون الله	۱۴۵	۳	۱۷۵
	<b>من لا يحبهم الله</b>				۷	والذين لا يأكلون أموالهم	۱۴۵	۴	۲۹
۱	لا يحب الله الذين لا يشكرونه	۱۴۱	۳۹	۷		بينهم بالباطل			
۲	والتكبرين والماشين على الارض مَرَحًا	۱۴۲	۴	۱۸	۸	والذين يقاتلون في سبيل الله	۱۴۵	۴	۷۶
۳	والمجادلين في آيات الله	۱۴۲	۴۰	۲۵	۹	والذين يميزون بين الأصدقاء	۱۴۶	۴	۹۴
۴	والظالمين	۱۴۲	۴۲	۲۰		والاعداء اذا ضربوا في سبيل الله			
۵	والذين يحترمون ما احل الله	۱۴۳	۵	۲۰	۱۰	والذين لا يجلسون مع الذين	۱۴۶	۴	۱۴۰
	من الطيبات					يستزون بآيات الله			
۶	والذين يسعون في الارض فسادا	۱۴۳	۲	۲۰۵	۱۱	والذين يتوبون الى الله ويصلحون أنفسهم	۱۴۶	۴	۱۴۶
۷	والخائنين والاثمين	۱۴۳	۴	۱۰۷	۱۲	والذين يؤمنون بالقرآن وبما	۱۴۶	۴	۱۶۳
۸	والمعتدين	۱۴۳	۲	۱۹۰		انزل من قبله			
۹	والمخالفين والفخوريين	۱۴۳	۵۷	۲۳	۱۳	والذين يدخلون الجنة غير خائفين	۱۴۶	۷	۴۹
۱۰	والناتقين والكافرين بنعم الله	۱۴۳	۲۲	۱۳۸	۱۴	صفات المؤمنين الصادقين	۱۴۷	۹	۱۱۳-۱
۱۱	البيذريين	۱۴۳	۶	۱۴۲	۱۵	الذين يأمرون بالمعروف	۱۴۷	۹	۷۱
۱۲	والخادعين	۱۴۳	۸	۵۸		وينهون عن المنكر			

الصفحة	السورة	آية	موضوع	الصفحة	حوالہ		موضوع	الصفحة
					سورة	آية		
۱۶	۱۵۳	۵۰-۱۶-۸	والذين يكسبون مالاً حلالاً	۱۴۷	۱۱	۸۶	۴	الله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد
۱۷	۱۵۳	۴۲-۴۷	والذين يظنون بالمؤمنين خيراً	۱۴۸	۲۴	۱۲	۵	ليؤمن الإنسان قبل الموت
۱۸	۱۵۳	۲۹-۳	والذين يجتنبون البهتان	۱۴۸	۲۴	۱۶-۱۷	۶	لا يكفي أن يقول الإنسان الآمنت بالله
۱۹	۱۴۸	۲۴	والذين لا يتبعون خطوات الشيطان	۱۴۸	۲۴	۲۱	۷	ما الفرق بين من يريد الحياة الدنيا ومن يريد الحياة الآخرة
۲۰	۱۴۸	۳۳	والذين يختلفون عن الفاسقين	۱۴۸	۳۳	۱۸	۷	اختلافاً تاماً
۲۱	۱۴۸	۳۳	والذين يزدادون إيماناً وهمة	۱۴۸	۳۳	۲۲	۸	انما الأموال والأولاد زينة الحياة الدنيا
۲۲	۱۴۹	۳۳	عند رؤيتهم العدا والقوى	۱۴۹	۳۳	۲۲	۹	ما حقيقة الحياة الدنيا
۲۳	۱۴۹	۳۳	والذين لا يريدون لانفسهم الخيرة	۱۴۹	۳۳	۲۱	۹	كيف تصيب الإنسان حسنة وسيئة
۲۴	۱۴۹	۴۰	إذا قضى الله ورسوله أمرهم	۱۴۹	۴۰	۳۵	۱۰	يذكر الإنسان الله عند الشدائد ولكن إذا نعم الله عليه يقول هذا من عندي
۲۵	۱۴۹	۴۷	والذين يقولون قولاً سديداً	۱۴۹	۴۷	۳۳	۱۱	ليس للإنسان إلا ما سعى
۲۶	۱۴۹	۶۰	والذين لا يحبون الفساد	۱۴۹	۶۰	۱۳	۱۲	لا تحسدوا على ما فضل الله به بعضكم على بعض
۲۷	۱۴۹	۶۰	والذين يتبعون الله ورسوله	۱۴۹	۶۰	۱۳	۱۳	يعطي الله الحكمة من يشاء
۲۸	۱۵۰	۶۱	والذين لا يتولون الذين	۱۵۰	۶۱	۲	۱۴	ان العزة لله ويعطيها من يشاء
۲۹	۱۵۰	۶۱	غضب الله عليهم	۱۵۰	۶۱	۲	۱۵	فوق كل ذي علم عليم
۳۰	۱۵۰	۶۱	والذين لا يقولون ما لا يفعلون	۱۵۰	۶۱	۲	۱۶	يبلو الله الإنسان بالشر والخير فتنة
۳۱	۱۵۰	۶۱	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۰	۶۱	۲	۱۷	يبلو الله الإنسان بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات
۳۲	۱۵۰	۶۱	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۰	۶۱	۲	۱۸	مما يقصد الحياة والموت
۳۳	۱۵۰	۶۱	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۰	۶۱	۲	۱۹	كل نفس ذائقة الموت
۳۴	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	نفع الله من روحه في الإنسان عند خلقه
۳۵	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	مما يقصد الحياة والموت
۳۶	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	كل نفس ذائقة الموت
۳۷	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	نفع الله من روحه في الإنسان عند خلقه
۳۸	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	مما يقصد الحياة والموت
۳۹	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	كل نفس ذائقة الموت
۴۰	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	نفع الله من روحه في الإنسان عند خلقه
۴۱	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	مما يقصد الحياة والموت
۴۲	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	كل نفس ذائقة الموت
۴۳	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	نفع الله من روحه في الإنسان عند خلقه
۴۴	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	مما يقصد الحياة والموت
۴۵	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	كل نفس ذائقة الموت
۴۶	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	نفع الله من روحه في الإنسان عند خلقه
۴۷	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	مما يقصد الحياة والموت
۴۸	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	كل نفس ذائقة الموت
۴۹	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	نفع الله من روحه في الإنسان عند خلقه
۵۰	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	مما يقصد الحياة والموت
۵۱	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	كل نفس ذائقة الموت
۵۲	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	نفع الله من روحه في الإنسان عند خلقه
۵۳	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	مما يقصد الحياة والموت
۵۴	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	كل نفس ذائقة الموت
۵۵	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	نفع الله من روحه في الإنسان عند خلقه
۵۶	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	مما يقصد الحياة والموت
۵۷	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	كل نفس ذائقة الموت
۵۸	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	نفع الله من روحه في الإنسان عند خلقه
۵۹	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	مما يقصد الحياة والموت
۶۰	۱۵۱	۳۲	والذين لا يصدّهم حب الزوجات	۱۵۱	۳۲	۷-۹	۲۰	كل نفس ذائقة الموت





حوالہ		الصفحة	موضوع	آیت	حوالہ		الصفحة	موضوع	آیت
آیت	سورہ				آیت	سورہ			
۲۲۹	۲	۱۷۴	المرحلة الخامسة بعد الطلاق مرتين	۳۲	۳۰	۲۶	۱۶۹	نكاح الخيثة والخيثة والزاني والزانية	۱۷
۲۰۱	۲	۱۷۵	اتخاذ القرار قبل انتهاء موعدها	۳۳				والمشرك والمشاركة	
	۲	۱۷۵	إعادة عقد الزواج بعد الطلاق الثالث	۳۴	۱۹	۴	۱۷۰	الاخلاق بين المرأة وزوجها	
۲۳۰	۲	۱۷۵	حرية الزواج الثاني بعد الطلاق	۳۵	۳۵	۴	۱۷۰	حكم المعاشرة المعروفة مع الزوجة	۱۸
۲۳۲	۲	۱۷۶	مدة الرضاعة	۳۶	۱۲۸	۴	۱۷۰	المعاملة مع الزوجة الناشئة	۱۹
۲۳۳	۲	۱۷۶	تعويض مربية الطفل	۳۷	۱۳۰	۴	۱۷۰	الشقاق بين المرء وزوجه	۲۰
۲۳۳	۲	۱۷۶	استرجاع ما أوتيت الأرملة من مال	۳۸				مخافة الزوجة من زوجها	۲۱
۲۴۰	۲	۱۷۷	قيام الأرملة في بيت الزوج السابق	۳۹	۲۲۶	۳	۱۷۱	التفرق بين الزوجين في حالة عدم الموافقة بينهما	۲۲
۲۴۱	۲	۱۷۷	النفقة للمطلقة	۴۰				حكم الإيلاء - الحلف بعدم المباشرة مع الزوجة	۲۳
۲۱-۲۰	۴	۱۷۷	المنوع استرجاع ما أعطيت المرأة من مال	۴۱	۴-۲	۵۸	۱۷۱	حكم الظهار - إذ قال الزوج لزوجته أنت علي مثل أمي	۲۴
			عدة المرأة					المهر	
۲۳۴	۳	۱۷۸	عدة الأرملة	۴۲	۲۴	۴	۱۷۲	دفع المهر	۲۵
۴۶	۳۳	۱۷۸	عدة المرأة التي لم يسها زوجها	۴۳	۲۳۶	۳	۱۷۲	الطلاق قبل مس الزوجة و فرض المهر	۲۶
۲۲۸	۲	۱۷۸	عدة المرأة المطلقة الحائض	۴۴				الطلاق قبل مس الزوجة وبعد فرض المهر	۲۷
۴	۶۵	۱۷۸	عدة المرأة المطلقة الحامل أو التي ليست حائضاً	۴۵	۲۳۷	۲	۱۷۳	الخلع - الفدية من قبل الزوجة في حالة رغبتها في الطلاق	۲۸
۶	۶۵	۱۷۹	عناية المطلقة	۴۶	۲۲۹	۳	۱۷۳	الطلاق متى يجب أن يتم الطلاق	۲۹
۱	۶۵	۱۷۹	عناية المرأة الحامل خلال العدة	۴۷				الطلاق قبل المس فترة من الانتظار للمطلقة	۳۰
			كيف يتم إحصاء العدة عند الطلاق	۴۸					۳۱
			المتفرقات						
۷	۶۵	۱۷۹	مقدار التعويض من قبل الوالد بشأن تربية الولد	۴۹	۴۹	۳۳	۱۷۴		
				۲۲۸	۳	۱۷۴			

الصفحة	سورة	آیت	موضوع	الصفحة	سورة	آیت	موضوع	الصفحة	سورة	آیت	موضوع
۱۸۶	۹	۳۴-۳۵	جمع الذهب والفضة	۱۸۰	۲	۲۲۲	العلاقات الزوجية عند الحيض	۱۸۰	۲	۲۲۲	العلاقات الزوجية عند الحيض
			عذاب أليم	۱۸۰	۲۴	۳۳	لا تكرر هوأفتياتكم على البغاء	۱۸۰	۲۴	۳۳	لا تكرر هوأفتياتكم على البغاء
۱۸۶	۸۹	۲۴-۳۰	حب المال عين الضلال	۱۸۰	۷	۸۱	اللواطعدوان على الله	۱۸۰	۷	۸۱	اللواطعدوان على الله
۱۸۶	۱۰۳	۲-۱	طلب المال المفرط يجعل الانسان غافلا	۱۸۰	۳۳	۵-۴	المعتبون	۱۸۰	۳۳	۵-۴	المعتبون
<b>احكام الحجاب</b>											
۱۸۷	۷۰	۱۸-۱۶	لا يجوز ايعاء المال بعد جسعه	۱۸۱	۷	۲۶	اللباس للإنسان	۱۸۱	۷	۲۶	اللباس للإنسان
				۱۸۱	۲۴	۲۴	الحجاب للرجال	۱۸۱	۲۴	۲۴	الحجاب للرجال
۱۸۷	۱۰۴	۴-۲	ليبذن في الحطمة الذي جمع مالا وعددا	۱۸۲	۲۴	۳۱	حدود الحجاب للمرأة	۱۸۲	۲۴	۳۱	حدود الحجاب للمرأة
				۱۸۲	۲۴	۶۰	من لا تتجيب من النساء	۱۸۲	۲۴	۶۰	من لا تتجيب من النساء
۱۸۷	۲	۲۷۸	البخل - الشيطان يعدكم الفقر	۱۸۲	۳۳	۵۹	كيف يجب أن تخرج النساء	۱۸۲	۳۳	۵۹	كيف يجب أن تخرج النساء
۱۸۷	۳	۱۸۰	البخل - لا يحسن البخل بالمال	۱۸۳	۲۴	۵۸	الاحكام لمخدوم البيت والذين لم يبلغوا الحلم	۱۸۳	۲۴	۵۸	الاحكام لمخدوم البيت والذين لم يبلغوا الحلم
۱۸۷	۴	۳۷	البخل - البخل يجعل ويعلم الناس البخل	۱۸۳	۲۴	۵۹	يجب أن يسأذن الأبناء عند بلوغهم الحلم	۱۸۳	۲۴	۵۹	يجب أن يسأذن الأبناء عند بلوغهم الحلم
۱۸۸	۷	۳۱	إن الله لا يحب المسرف المبذر	۱۸۳	۲۴	۵۹	بلوغهم الحلم	۱۸۳	۲۴	۵۹	بلوغهم الحلم
۱۸۸	۱۷	۲۷-۲۶	المبذرون إخوان الشياطين	<b>الاقتصاديات</b>							
۱۸۸	۱۷	۲۹	بيان كيفية الإنفاق								
۱۸۸	۲	۲۷۵	احل الله البيع	<b>المعيشة</b>							
۱۸۸	۴	۲۹	التجارة عن تراض								
۱۸۹	۷	۱۵۲-۱۵۲	إعدلوا عند الكيل	۱۸۴	۱۵	۶	على الله رزق كل دابة	۱۸۴	۱۵	۶	على الله رزق كل دابة
	۷	۳۵	والوزن	۱۸۴	۴۳	۳۲	قسم الله معاش ودرجات بين الناس	۱۸۴	۴۳	۳۲	قسم الله معاش ودرجات بين الناس
۱۹۰	۲	۱۸۳-۱۸۱	طريقة الاقراض لأجل مسمى والتجارة المحاضرة	۱۸۵	۱۷	۲۰	الله يبسط الرزق لمن يشاء	۱۸۵	۱۷	۲۰	الله يبسط الرزق لمن يشاء
		۹-۷		۱۸۵	۵۳	۴۸	ويقدر	۱۸۵	۵۳	۴۸	ويقدر
۱۹۰	۳	۲۸۲	طريقة الاقراض لاجل مسمى والتجارة المحاضرة	۱۸۵	۲۰	۳۷	والله يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب	۱۸۵	۲۰	۳۷	والله يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب
				۱۸۵	۲۴	۵۲	لا يجوز كون المال دولة بين الاغنياء	۱۸۵	۲۴	۵۲	لا يجوز كون المال دولة بين الاغنياء
۱۹۱	۱	۲۸۳	طريقة الاقراض اثناء السفر	۱۸۵	۶۵	۳	حيث لا يحتسب	۱۸۵	۶۵	۳	حيث لا يحتسب
۱۹۱	۲	۲۸۰	إذا كان الذي عليه دين في عسرة فنظرة إلى ميسرة أو معافاة	۱۸۵	۵۹	۷	لا يجوز كون المال دولة بين الاغنياء	۱۸۵	۵۹	۷	لا يجوز كون المال دولة بين الاغنياء

حواله		موضوع	آيت	حواله		موضوع	آيت		
سور	آيت			سور	آيت				
١٣٤	٣	١٩٧	انفقوا في السراء والصراء	٩	١٣٠	٣	١٩١	التأكد على ترك الربا وعدم أكله	٢٣
٤-٣	٨	١٩٨	أجر الانفاق ومنافعة	١٠	٢٧٥	٢	١٩٢	ما الفرق بين الربا والتجارة	٢٤
٢٤٥	٢								
١١	٥٧								
١٧	٦٤				٣٩	٣٠	١٩٢	ما الفرق بين الربا والزكوة	٢٥
٩	٥٩								
٢١٥	٢	١٩٨	بيان مستحقى الصدقات	١١	٢٧٦	٢	١٩٢	ما الفرق بين الربا والصدقات	٢٦
٢٧٣	٢								
٢٠	٩				٩٣-٩٢	٥	١٩٢	أكل المحرام شئ سيئ	٢٧
٢٦٧	٣	١٩٩	يجب انفاق الاجود في سبيل الله	١٢	٢	٤	١٩٣	لا تبدلوا مال اليتامى الطيب	٢٨
٢١٥	٣								
٢١٩	٢	١٩٩	كم مالا يجب انفاقه في سبيل الله	١٣				بما لكم الخبيث	٢٨
٢٧١	٢	١٩٩	كيف يجب انفاق المال في سبيل الله	١٤	١٨٨	٢	١٩٣	منع الرشاء	٢٩
٢٧٤	٢				٤٢	٥			
٣٨	٤	٢٠٠	لا تنفقوا رءاء الناس	١٥	١٦٨	٢	١٩٣	لا يجوز إلا أكل الحلال	٣٠
					٨٨	٥			
					١١٤	١٦			
٣٧	٤	٢٠٠	لا تبخلوا	١٦	٥٨	٤	١٩٤	يجب رد الامانات	٣١
					٨٤١	٢٣			
٢٩	١٧	٢٠٠	راقبوا الاعتدال في الإنفاق	١٧	٥٢	١٢	١٩٤	للخائنين خسران	٣٢
					١٦١	٣			
٢٨	١٧	٢٠٠	كيفية معاملة السائلين والفقراء	١٨					
٢٢	٢٤	٢٠٠	يجب على أولى الفضل الإنفاق على الأقارب والسائلين حتى في حالة عدم الرضى	١٩					
					٢٦١	٢	١٩٥	بيان الصدقات	١
٢٦٤	٢	٢٠١	اعطوا الصدقات بدون المن والأذى	٢٠	٢٦٥	٢	١٩٥	انفقوا المال ابتغاء مرضاة الله	٢
					٢٥-٢٤	٧٥			
٧٩	٩	٢٠١	لا تطغوا في كمية إنفاق الفقراء	٢١	٢١-١٨	٩٢	١٩٦	الانفاق تجارة لمن تبور	٣
					٣٠-٢٩	٣٥			
٧٥	٩	٢٠١	يجب الإيفاء بعهدة الله عند قضاء الحاجة إلى الرزق والمال	٢٢	١٠	٦٣	١٩٦	ماذا يجب على أولى سعة	٤
					١٨	٥٧			
					٢٧٤	٢	١٩٦	لا خوف على المنفقين ولا هم يحزنون	٥
					٢٦٨	٢	١٩٦	يعدكم الشيطان الفقر ويعدكم عن الانفاق	٦
١٠٦	٥	٢٠٢	كيفية القيام بالوصية	١			١٩٧	ما رد فعل الكفار للانفاق	٧
					٤٧	٢٦			
١٠٦	٥	٢٠٢	الوصية اثناء السفر	٢	٩٢	٣	١٩٧	أصول الانفاق	٨
					١٠	٩٣			
١٨١	٢	٢٠٢	أحكام تبديل الوصية	٣	٢٦٣	٢			
١٨٢	٢				٢٦٢	٢			
١٠٨-١٠٧	٥								

آیت	سورہ	الصفحہ	موضوع	آیت	سورہ	الصفحہ	موضوع	آیت	سورہ	الصفحہ	موضوع
۱۱	۴۶	۲۰۹	لا تسخرُوا من أحد ولا تلمزوا إخوانكم ولا تنازروا بالألقاب	۱۰			<b>الوراثۃ</b>				
					۵-۴	۳۳	۲۰۳	۴			العلاقۃ بالادعیاء
۱	۱۰۴	۲۰۹	لا تمشوا بالغمیمۃ	۱۱	۷۵	۱	۲۰۳	۵			أولوالأرحام بعضهم أدلی ببعض
					۶	۳۳					
۲۴۴	۲	۲۰۹	لا تجعلوا لله عرضة لأیما نکم	۱۲	۷	۴	۲۰۴	۶			ورثاء مال الیتیم
۱۲	۴۹	۲۰۹	اجتنبوا النظر والغیبۃ ولا تجسسوا	۱۳	۹-۸	۴	۲۰۴	۷			معاملۃ الفقراء عند القسمۃ
۱۱۹	۹	۲۱۰	كونوا مع الصادقین	۱۴	۱۴-۱۱	۴	۲۰۴	۸			بیان من له نصیب فی مال الیتیم
۱۰۱	۵	۲۱۰	لا تسئلوا عمالا یمسکم	۱۵	۱۷۷	۴	۲۰۹	۹			بیان الیتیم الذی لیس أبواه
۷۰	۳۳	۲۱۰	قولوا قولا سدیداً	۱۶							ولا أولادہ علی قید الحیاة
۹	۵۸	۲۱۰	لا تناجوا إلا بالبر والتقوی	۱۷	۳۳	۴	۲۰۹	۱۰			اعطوا کل ذی حق حقه
۹۶	۲۳	۲۱۰	كيف تعامل من أساء الیک	۱۸							حسب العقد
۳-۲	۶۱	۲۱۰	لا تقولوا مالا تفعلون	۱۹							
۲۴-۲۳	۱۸	۲۱۱	لا تقولوا شیئاً انما فعل ذلك غداً إلا ان یشاء الله	۲۰							<b>الحیاة الاجتماعیة</b>
											<b>آداب المجلس</b>
۴۴	۲	۲۱۱	لا تنسوا انفسکم وأنتم تأمرون بالمعروف	۲۱	۱۱	۵۸	۲۰۷	۱			تفسحوا فی المجالس للآخرین
					۵۳	۱۷	۲۰۷	۲			قولوا قولا حسناً
			<b>العلاقات الاجتماعیة</b>		۱۹	۳۱	۲۰۷	۳			اقصدوا فی مشیکم واغضضوا من اصواتکم
۱۳	۴۹	۲۱۱	جعل الله الناس شعوباً وقبائل لیتعرفوا	۱	۳۶	۴	۲۰۷	۴			لا تکبروا ولا تکلونوا مخزورین
۴۶	۸	۲۱۱	لا تنازعوا فتفشلوا وقد ذهب ریمکم	۲	۱۴۸	۴	۲۰۸	۵			لا تجهروا بالسوء من القول إلا فی حاله کونکم مظلومین
۲۸	۳	۲۱۲	لا یأخذ المؤمنون الکفرین أولیاء إلا أن یتقوا منهم تقية	۳	۱۸	۳۱	۲۰۸	۶			اجتنبوا التکبر فی سلوککم
۱۰-۹	۴۹	۲۱۲	إن اقتلت طائفتان من المؤمنین فاصلحوا بینهما	۴	۱۱۳	۴	۲۰۸	۷			لا ترموا الأبریاء بحظایاکم
					۶	۴۹	۲۰۸	۸			إن جاکم فاسق بنياً فبینوا
					۳۶	۱۷	۲۰۸	۹			لا تقفوا ما لیس لکم به علم
۱	۴	۲۱۲	اتقوا الله فی الأرحام	۵							

تسلسل	موضوع	الآية		موضوع	الآية		تسلسل
		سورة	آية		سورة	آية	
٦	يجب أن لا يرفض <sup>عن</sup> الحاجة رغد هم	٢١٢	١٠٧-٧	٣	٢١٦	٥-٩١	٣
٧	لا تدخلوا بيوت الآخرين حتى تسأذونهم وتسلموا عليهم	٢١٣	٢٤-٢٩	٤	٢١٧	٢-١٥٢	٤
٨	إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أهلكم	٢١٣	٢٤-٦١	٥	٢١٧	٤-٩٢	٥
٩	ردو السلام باحسن منه	٢١٣	٤-٨٦	٦	٢١٨	٥-٣٣	٥
١٠	كيف تعاقبون إن أردتم ان تعاقبوا	٢١٣	١٦-١٢٦	٧	٢١٨	١٧-٣٣	٥
١١	من عفا فاجرة على الله	٢١٤	٤٢-٤٠	٨	٢١٨	٤-١٨٨	٥
١٢	من عاقب بعد ما ظلم فما عليه من جناح	٢١٤	٤٢-٤١	٩	٢١٨	٥-٤٢	٥
١٣	من يظلم الناس فلهم عذاب اليم	٢١٤	٤٢-٤٢	١٠	٢١٨	١٦-٩٠	٥
١٤	من صبر وعفا فان ذلك من عزم الأمور	٢١٤	٤٢-٤٣	١١	٢١٨	٢٤-١٩	٥
١٥	من عفا إذا ما غضب فقد فعل فعلا عظيما	٢١٤	٤٢-٣٧	١٢	٢١٩	٤-٥٤	٥
١٦	لا تستنوا تستكثروا	٢١٥	٧٤-٦	١٣	٢١٩	١٠-١٠٢	٥
١٧	كونوا مع الصادقين	٢١٥	٩-١١٩	١٤	٢١٩	١٠-٧٧	٥
١٨	اداب الأكل والعاشرة في الحياة العائلية السيئات الإجتماعية	٢١٥	٢٤-٦١	١٥	٢١٩	١٢-٦٧	٥
١	ان الزنا فاحشة كبيرة	٢١٥	١٧-٣٢	١	٢٢٠	٤-١٥١	٥
٢	عقوبات الزنا والفاحشه والقذف الباطل	٢١٦	٢٤-٢٤	٢	٢٢٠	٩-٦٧	٥
			٢٤-٢٤	٣	٢٢١	٥-٨٢	٥
			٤-٤				
			٤-٤				

الصفحة	سورة	آية	موضوع	الصفحة	حواله		موضوع	الصفحة
					سورة	آية		
٤٨	٣٣	٢٢٦	لا يجوز اتباع الكفار والمنافقين	٢٠	٥٣	١٧	٢٢١	٤
٢٨	٣	٢٢٦	لا يجوز تولى المؤمنين للكفار ما دام ذلك غير ضروري لمجانبة شرهم	٢١				٤
			<b>الحلال والمحرام</b>					
٨٧	٥	٢٢٧	لا تحرموا ما أحل الله	١	٨٤	٣	٢٢١	٦
٣	٥	٢٢٧	لا تحلوا شعائر الله	٢	٢٥٦	٢	٢٢٢	٧
١١٩	٦	٢٢٧	لا يجوز أكل اللحم الا ما ذكر اسم الله عليه	٣	٤٥	٥٠		
١٢٠	٦	٢٢٧	أكل الاشياء المحرمة عند الإضطرار	٤	٨٠	٤		
١	٥	٢٢٨	أحلت لكم بهيمة الأنعام	٥	١٢٨-٢٢٧	١٦	٢٢٢	٥
٤	٥	٢٢٨	يجب أن يذكر اسم الله على ما أمسكه الجوارح وما أصابه السهم	٦	١٠	٧٣		
٣	٥	٢٢٨	اللحم الذي أكله السبع حلال بشرط أن تمت تركيته	٧	١٠٩	٦	٢٢٣	١٠
٣٢	٧	٢٢٩	الزيتة والطيب من الرزق في العالم للمؤمنين	٨	٤-٣	٩	٢٢٣	١١
١٤٤	٦	٢٢٩	أحل الله الانعام والابل ذكوراً وإناثاً وما في بطون الاناث منها	٩	٦٢-٦١	٨	٢٢٣	١٣
٣	٥	٢٢٩	اللحم المحرم	١٠	٤٦	٢٩	٢٢٤	١٤
١١٥	١٦	٢٣٠	شروط جواز أكل اللحم المحرم	١١	٤٦	٢٩	٢٢٤	١٥
٩٦-٩٤٠	٥	٢٣٠	الإصطياد في حالة الاحرام	١٢	٤٦	٢٩	٢٢٤	١٤
١٢٢	٦	٢٣٠	لا يحل أكل ما لم يذكر اسم الله عليه	١٣	١٤٤	٤	٢٢٤	١٢
					٥١	٥		
					٥٨-٥٧	٥		
					١١٨	٣	٢٢٥	١٧
١١٦	١٩	٢٣١	لا تقربوا هذا حرام وهذا حلال من تلقاء أنفسكم	١٤	١١٧	٦	٢٢٥	١٨
					٢٨	٩	٢٢٦	١٩

حوالہ	الصفحة	موضوع	ببین	حوالہ		الصفحة	موضوع	ببین
				آیت	سورہ			

٦ يعذب الله الذين يراؤن الناس  
في اعمالهم

٧ لا تنقضوا ما كسبت قلوبكم  
من الايمان

٨ ان النفس لأماراة بالسوء

٩ يدخل الجنة الذين لا يتبعون الهوى

١٠ عليكم ان تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم

## حقوق العباد

### مسئولية رب الأسرة

١ على رب الأسرة ان يقي أهله  
نار جهنم

### التعامل مع الأولاد

٢ دعاء الابوين الصالحين للأولاد  
الصالحين

٣ مدة الرضاعة

٤ لا تملهكم اموالكم ولا أولادكم  
عن ذكر الله

٥ ان من ازواجكم وأولادكم فتنة

٦ يلحق الازواج والأولاد الصالحة  
الصالحين

### التعامل مع الأبوين

٧ حق الابوين في مال الاولاد

٨ عاملوا الأبوين بإحسان

## المعاشرة

### حسن الخلق

١ اوفوا بالعهد إذا عاهدتم

٢ اوفوا بالوعد

٣ اذا كنتم على هداية فلن  
يضركم أحد

٤ عباد الله يمشون على الأرض  
هونا ويمرون بالجهلاء  
مرورا الكرام

٥ ردوا على السيئة بالحننة وذلك  
عمل ذي حظ عظيم

٦ ظنوا بالمؤمنين خيرا

٧ توكلوا على الله في أموركم

٨ ان الله سيجزي الصادقين

٩ إذا مررتم باللغو فمرأا كراما

١٠ من هو أكثره عزة عند الله

### الأخلاق السيئة

١ الانتحار حرام

٢ لا يهدي الله الكاذبين

٣ اللواط عدوان على الله

٤ يعلم الله خائنة الاعين وما  
في الصدور

٥ يتنزل الشيطان على كل  
أفك أثيم

الصفحة	سورة	آيت	موضوع	الصفحة	سورة	آيت	موضوع
٢٤٦	٢	٢١٥	التعامل مع المسافرين	٢٤٠	١٧	٢٤-٢٣	احتراموا الأبوين عند الكبر
٢٤٦	٩	٢٠		٢٤١	٣١	١٥	مالا يجوز اتباع الأبوين
٢٤٦	٤	٢٦	التعامل مع الأمة والعبد	٢٤١	١٧	٢٥	فيه
٢٤٧	١٧	٢٨	التعامل مع المحتاجين	٢٤١	١٧	٢٥	ان الله يعضون الأولاد ان
٢٤٧	٢	٢٨٠	التعامل مع المديون	٢٤١	١٧	٢٤	اخطأوا نسياناً في حق الوالدين
٢٤٧	٧٦	٩-٨	اطعام الفقراء والمساكين	٢٤١	١٧	٢٤	على الأولاد بالدعاء للوالدين
٢٤٨	٨٩	١٨-١٧		٢٤١	٤	١٩	التعامل مع الزوجة
٢٤٨	٩٠	١٤-١٣		٢٤١	٤	١٩	عاشراً للزوجة بالمعروف
٢٤٨	١٠٧	٣-١		٢٤٢	١٧	٢٦	التعامل مع الأقارب
				٢٤٢	١٤	٩٠	التعامل مع الأقارب
				٢٤٣	٨	٧٥	ولذوي الارحام حق بعضهم
				٢٤٣	٤	٢٢	على بعض
				٢٤٣	٤	٢٢	التعامل مع اليتامى
				٢٤٣	٤	٢٢	صيانة مال اليتامى
				٢٤٤	٤	١٢٧	التعامل مع يتامى النساء والصغار
				٢٤٤	٤	٩٣	التعامل مع اليتامى
				٢٤٥	٤	٣٦	التعامل مع الآخرين
				٢٤٥	٤	١٠٧	التعامل مع الاقارب الجيران
				٢٤٥	٤	١٧٧	والجيران ذوي الجنب والاصدقاء
				٢٤٥	٤	٨	التعامل مع المساكين والفقراء
				٢٤٥	٩	٢٠	ماذا يجب فعله عند عدم
				٢٤٥	٩	١٠	احضار الشهود الأربعة
				٢٤٥	٩٣	١٠	الشهادة فرض عند الوصية
				٢٤٥	١٧	٢٨	الشهادة فرض عند رجعة الزوجة
				٢٤٦	٧٦	٨	بعد مرتين من الطلاق

## القانون والعدالة

### الشهادة والعدل

٢٤٩	٧	٤٢	ان الله يأمر بالعدل والقسط	٢٤٣	٤	٩-٨	١
٢٤٩	٤	١٣٥	كونوا قوامين بالقسط وأتوا	٢٤٣	٨	٧٥	٢
			بشهادة حقة				
٢٤٩	٥	٨	كونوا قوامين بالقسط عند شأن قوم	٢٤٣	٤	٢٢٠	٣
٢٥٠	٢٥	٧٢	اجتنبوا شهادة الذور واستقيموا	٢٤٣	٤	٢٢٠	٤
			على شهادتكم	٢٤٣	٤	١٠	٤
٢٥٠	٢	٢٨٣	لا تكتموا الشهادة	٢٤٤	٤	١٢٧	٥
٢٥٠	٢	٢٨٢	استشهدوا رجلين أو رجلاً	٢٤٤	٤	٩٣	٦
			وامرأتين في العاملات التجارية			٣٦	٤
٢٥١	٢٤	٤	من الضروري احضار اربعة شهود	٢٤٥	٤	٣٦	٧
			لتبرير قذف النساء الطبيبات			٧	١٠٧
٢٥١	٢٤	٩-٦	ماذا يجب فعله عند عدم	٢٤٥	٤	١٧٧	٨
			احضار الشهود الأربعة			٨	٤
٢٥١	٥	١٠٨-١٠٦	الشهادة فرض عند الوصية	٢٤٥	٩	٢٠	٩
			١٨٢			١٠	٩٣
٢٥١	٦٥	٢	الشهادة فرض عند رجعة الزوجة	٢٤٥	١٧	٢٨	١٧
			بعد مرتين من الطلاق	٢٤٦	٧٦	٨	٧٦



موضوع	الصفحة		موضوع	الصفحة	
	سورة	آية		سورة	آية
١١	٢٥١	١٤	٢٧	١٢	١٦
١٢	٢٥٢	٢٤	٤	١٣	١٦
١٣	٢٥٢	٥	٤٢	١٣	٢٥
١٤	٢٥٢	٤	١٠٥	١٧	٢٢
١٥	٢٥٣	٤	٥٨	١٧	٢٣
١٦	٢٥٣	٤	٨٥	١٧	٢٣
<b>الزنا والقذف</b>					
١	٢٥٣	٢٤	١	١٧	٤٥
٣	٢٥٤	١٧	٣٢	١٧	٩٢
٣	٢٥٤	٢٣	٧-٥	١٧	١٩٤
٤	٢٥٤	٢٤	٢	١٧	٢١
٥	٢٥٥	٢٤	٢٣٠٤	١٧	٢٣
٦	٢٥٥	٢٤	٥	١٧	٢٣
٧	٢٥٥	٢٤	٣٠٢١	١٧	٢٣
٨	٢٥٥	٤	٢٥	١٧	٨٩
٩	٢٥٦	٢٤	٧-٦	١٧	٩٥
١٠	٢٥٦	٢٤	٩-٨	١٧	١٨٥
١١	٢٥٦	٢٦	١٣٢-١٢٥	١٧	١٨٥
١٢	٢٥٦	٢٧	١٤	١٢	١٦
١٣	٢٥٦	٥	٤٢	١٣	٢٥
١٤	٢٥٦	٤	١٠٥	١٧	٢٢
١٥	٢٥٦	٤	٥٨	١٧	٢٣
١٦	٢٥٦	٤	٨٥	١٧	٢٣
<b>القصاص والحدود الشرعية</b>					
١	٢٥٧	١	١	١٣	٢٥
٣	٢٥٧	٣	٤٢	١٣	٢٥
٣	٢٥٧	٣	٤٢	١٣	٢٥
٤	٢٥٨	٤	١٠٥	١٧	٢٢
٥	٢٥٨	٥	١٠٧	١٧	٢٢
٦	٢٥٨	٦	١٠٩	١٧	٢٣
٧	٢٥٩	٧	١	١٧	٤٥
٨	٢٥٩	٨	٣٢	١٧	٩٢
٩	٢٦٠	٩	٧-٥	١٧	١٩٤
١٠	٢٦٠	١٠	٢	١٧	٢١
١١	٢٦٠	١١	٢٣٠٤	١٧	٢٣
<b>الديات والكفارات</b>					
١	٢٦١	١	٢٥	١٧	٨٩
٣	٢٦١	٣	٢٥	١٧	٨٩
٣	٢٦١	٣	٧-٦	١٧	٩٥
٤	٢٦١	٤	٩-٨	١٧	١٨٥

حاله	الصفحة	موضوع	بَاب	حواله		الصفحة	موضوع	بَاب
				سورة	آيت			

## الدفاع

### الجهاد والهجرة

١٧٤١٦٩	٣	٢٦٧	١٣	الشهد ليسوا موأنا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون				
٧٤	٤	٢٦٧	١٤	سيتيب الله الشهيد او الغالب في الجهاد ثوابا عظيما	٩٦-٩٥	٤	٢٦٢	١ ان الله فضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم
٩٣	٩	٢٦٧	١٥	يطبع الله على قلوب المتخلفين القاعد من مع النساء في البيوت	٢١٦	٢	٢٦٢	٢ لقد فرض الجهاد
				<b>الدفاع</b>	٩	٦٤		
٣٦	٩	٢٦٨	١	حرمة اربعة اشهر في سنة	٧٥	٤	٢٦٣	٣ الجهاد في سبيل الله ولحماية المظلومين واجب
١٩٤	٢							
٦٠	٨	٢٦٨	٣	احكام التجهيزات والاعدادات الدفاعية	١١-١٠	٦١	٢٦٣	٤ العقبة في طريق المجاهدين المال والنفس والأسرة
٢٠٠	٣	٢٦٩	٣	كونوا بنينا من صرنا حين القتال في سبيل الله	٢٤	٩	٤٩	
٤	٦١				٢٠	٩	٢٦٤	٥ ارتفاع درجات المجاهدين بعد الهجرة
١٩٠	٢	٢٦٩	٤	الحرب الاعتدائية ممنوعة في الاسلام				
٤٦	٨	٢٦٩	٥	لاتنازعوا أنفسكم واتذهب بكم قاتلوا ان اكرهتم على القتال	٩٧	٤	٢٦٤	٦ وجوب الهجرة في حالة تعذر العمل بالاسلام
٣٩	٢٣	٢٦٩	٦	قاتلوا ان اكرهتم على القتال				
٧٥	٤	٢٧٠	٧	قاتلوا ضد الظلم على المستضعفين من الرجال والنساء والولدان	١٠	٥٧	٢٦٥	٧ الفرق بين الجهادين قبل الفتح وبعده
٤	٩	٢٧٠	٨	اوفوا بالمعاهدات مع المشركين	٨٤٨٢٦١	٩	٢٦٥	٨ عاقبة منكري الجهاد
٥٧-٥٦	٨	٢٧٠	٩	التعامل مع من ينقض المعاهدات والعقود ككرة بعد مرة	٩٣-٩١	٩	٢٦٥	٩ على من لم يكتب القتال
					١٧	٤٨		
٥٨	٨	٢٧١	١٠	اما تخافن من قوم خيانة فأنبذ اليهم على سوار	١٩٥	٣	٢٦٦	١٠ سيد خل الله شهداء في القتال بعد الهجرة جنات الفردوس
٧١	٤	٢٧١	١١	انفروا ثباتا وانفروا جميعا للقتال	١٥٨-١٥٧	٣	٢٦٦	١١ المقتل والاستشهاد في سبيل الله خير من كل شئ
٦٦	٨	٢٧١	١٢	توقف الغلبة على الكفار على كمية القوة الايمانية	١٥٤	٣	٢٦٦	١٢ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل هم أحياء

الصفحة	موضوع		الصفحة	موضوع	
	سورة	آية		سورة	آية
١٣	٢٧١	٤٩	٢٧	٦	٤٩
١٤	٢٧٢	٣٣	٢٨	٢٢	٣٣
١٥	٢٧٢	٩	٢٩	١٢٣	٩
١٦	٢٧٢	٤٧	٣٠	٤	٤٧
١٧	٢٧٣	٢	٣١	٢٥٠	٢
١٨	٢٧٣	٤٧	٣١	٣١	٤٧
١٩	٢٧٣	٨	٣٢	٤٤-٤٥	٨
٢٠	٢٧٣	٣	٣٣	١٤٦	٣
٢١	٢٧٤	٨	٣٤	١٤-١٥	٨
٢٢	٢٧٤	٤٢	٣٥	١٣٩	٤٢
٢٣	٢٧٤	٢	٣٦	١٩٣	٢
٢٤	٢٧٥	٨	٣٧	٦٢-٦١	٨
٢٥	٢٧٥	٣	٣٨	١٣٩	٣
٢٦	٢٧٥	٨	٣٩	١٣٩	٨
٢٧	٢٨٠	٣	٤٠	١٣٩	٣
٢٨	٢٨٠	٦	٤١	١٣٩	٦

## السياسة

١	٢٨٠	٣	٢٦	٣	٢٨٠
٢	٢٨٠	٦	١٦٦	٦	٢٨٠

الصفحة	سورة	آية	موضوع	الصفحة	سورة	آية	موضوع
٢٨٥	١٦	٩٠	نهى الله عن البغى والعدوان	٢٨٠	٦	١٦٦	يرفع الله بعض الناس فوق بعض درجات ليلبئوهم
٢٨٥	٢٨	٧٧	ان الله لا يحب المفسدين في الأرض	٢٨١	٤٨	١٤	بأنه ملك السموات والأرض
<b>عروج الاقوام وهبوطها</b>				٢٨١	٢	٢٤٧	يؤتى الله الملك من يشاء
٢٨٦	٨	٥٣	كيف يمكن تبديل حالة قوم	٢٨١	٣	١٠٣	اعتصموا بعجل الله جميعا ولا تفرقوا
٢٨٦	١٣	١١	لا يعتر المؤمن بحسن عمله آخرته	٢٨١	٦	١١٧	أكثر الناس ضالون
٢٨٦	١٦	٩٧	فحسب بل دنياه أيضا	٢٨٢	٢٤	٥٥	وعد الله المؤمنين وعاملي الصالحات ان يستخلفنهم في الأرض
٢٨٧	١٥	٥-٤	لكل أمة أجل محدد لصلاح اوضاعها	٢٨٢	٤	٥٩	اطيعوا الله ورسوله وذوي السلطة الذين يطيعون احكامهما
٢٨٧	٢٢	٤٣-٤٢	لا يستقدم قوم أجله ولا يتأخر	٢٨٢	١٨	٢٨	بيان احكام الذي لا تجوز اطاعته
٢٨٧	٤	١٣٣	معاملة اقوام كافرة بانعم الله	٢٨٢	٤٢	٣٨	المشاورة جزأها من اسلوب الحياة الاسلامية
٢٨٨	٢٨	٥٨	لقد اهلكت القرى التي بطرت معيشتها	٢٨٢	٣	١٥٩	النوع اناس الذي في نجواهم خير
٢٨٨	١٧	٥٨	سيتم اهلاك كل قرية كافرة او تعذيبها	٢٨٣	٤	١١٤	احكم بما انزل الله من الشريعة
٢٨٨	٤٤	٣٧	لا يمكن لأى قوم الانفلات من عواقب الهبوط الخلقى الرحمة	٢٨٣	٣٣	٣٦	لاخيرة لأحد في ما قضى الله ورسوله
٢٨٨	٧	١٤٨	تبلى أقوام بالخير والشر	٢٨٣	٤	٥٩	رد واما تنازعتم فيه الى الله والرسول
٢٨٩	٤٥	٩-٨	بعض اسباب هبوط المسلمين	٢٨٤	٣	١٠٤	ان توليتم في الأرض فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر
٢٨٩	٥٩	١٩		٢٨٤	٢٢	٤١	
٢٨٩	٥٣	٣٠-٢٩		٢٨٤	٥	٢	فيم يجب التعاون وفيم لا يجب
٢٨٩	٤٢	٢٠		٢٨٤	٣٨	٢٦	إذا استخلفتم فأحكموا بالعدل ولا تتبعوا الهوى
٢٨٩	٢٩	٩		٢٨٥	٨	٥٨	إن خفتن من قوم خيانة فابتدوا إليهم على سواء
٢٨٩	٤	٧٥					
٢٩٠	٣٠	١٠-٩	يجب أخذ العبرة من الآثار القديمة				
٢٩٠	١٠	٤٤	الناس يظلمون انفسهم				
٢٩١	٣٩	٥٥	بعض شروط حصول المسلمين على عروجهم				
٢٩١	٢	٢٠٨					
٢٩١	٣	١٠٣					
٢٩١	٨	٢٩					

الصفحة	موضوع	حاله		الصفحة	موضوع	الصفحة
		آيت	سورة			
٢٢	نفخ الله من روحه في الانسان عند خلقه	٣٨	٤٧	٢٩١	ان توليتم من امر الله يستخلف غيركم	١٤
٣٩	خلق الله البشر من نفس واحد	١٠٥	٢١	٢٩٢	من يرث ويسلك الارض	١٥
٣٩	انشأ الله الجنين في بطن الأم خلقاً من بعد خلق في ظلمت ثلاث (البطن والرحم والمشيمة)	١٩٧-١٩٦	٣	٢٩٢	لا يغرنكم تقلب اقوام أخرى في البلاد	١٦
٨٦	خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب	٩٦	٧	٢٩٣	يفتح الله ابواب بركاته على المتقين	١٧
٥-٧	ان الله قادر على خلق الانسان والنبات	١٣٢	٦	٢٩٣	لا يهلك الله قوماً بغير انذار	١٨
٢٤	خلق الله كل دابة من ماء واحد	٣٦	١٦	٢٩٣	لقد بعث الله أنبياء في كل قوم لتعريف رسالة التوحيد	١٩
٤٢	جعل الله الإنسان والحيوان ازواجاً وبثهما في الأرض	٤٧	١٠	٢٩٤	لقد بين الله في القرآن أحوال بعض الأنبياء	٢٠
٥١	جعل الله من كل شئ زوجين اثنين	١٦٤	٤	٢٩٤		
١٣	اثنين لعلكم تعتبرون					
٥٥	خلق الله الإنسان وعلمه البيان	١١٧	٢	٢٩٥	كيف تحدث الأشياء	١
٤١-٤	آيات الكون تستدعي التأمل	٥٤	٧	٢٩٥	خلق الله السموات والأرض في ستة أيام	٢
١٦٤	آيات لقوم يعقلون	٢٩	٢	٢٩٥	خلق السموات بغير عمد و جعل القمر نورا والشمس ضياء	٣
٧٩	آيات الكون لأهل الايمان	١٦	٧١	٢٩٦	خلق الله السموات بأيد و جعل الارض فراشا	٤
١٠٠	وان في الانعام لعبرة	٤٨-٤٧	٥١	٢٩٦	خلق البحار والبحيرات والماء تحت الارض	٥
٤٦	آياية لقوم يعقلون	١٨	٢٣	٢٩٦	خلق الانس والجن والحيوانات	٦
٣٠	آية لقوم يتفكرون (العلل فيه شفاء لعدة امراض)					
٢٩-٢٨	آيات الكون لقوم يبصرون	٢٧-٢٦	١٥	٢٩٦		
٤٤-٤٣						

## العلوم الكونية

### خلق الكائنات

١ كيف تحدث الأشياء

٢ خلق الله السموات والأرض في ستة أيام

٣ خلق السموات بغير عمد و جعل القمر نورا والشمس ضياء

٤ خلق الله السموات بأيد و جعل الارض فراشا

٥ خلق البحار والبحيرات والماء تحت الارض

٦ خلق الانس والجن والحيوانات

٧ خلق الانس والجن

موضوع	حواله		موضوع	حواله	
	سورۃ	آیت		سورۃ	آیت
آیة أخرى لقدرة الله	۳۰۳	۲۶	۸۰	۳۴	۳۳
جعل الله الضالين قرده لعبرة	۳۰۳	۲	۶۶-۶۵	۳۴	۳۴
الأجيال القادمة					
صفات الله التكوينية					
والإبداعية					
سخر الله للإنسان ما في السموات	۳۰۳	۳۱	۴۰	۳۵	۳۵
وما في الارض جميعا منه					
سخر الله للإنسان كل ما في الكون	۳۰۴	۴۵	۱۳	۳۶	۳۶
سخر الله للإنسان البحار	۳۰۴	۱۶	۱۴	۳۶	۳۶
لقد اذن الله للإنسان ان	۳۰۴	۵۵	۳۳	۳۸	۳۸
ينفذ بسلطان العلم والمعرفة					
من اقطار السموات والارض					
لا يتفكر اكثر الناس في مظاهر	۳۰۴	۱۳	۱۰۶-۱۰۵	۳۹	۳۹
الكون رغم مرورهم عليها الذي					
هو أمر مقضي					
جعل الله في السماء بروجاً	۳۰۵	۱۵	۱۶	۴۱	۹۷
وزينها للناظرين					
حفظ السموات	۳۰۵	۱۵	۱۸-۱۷	۴۱	۹۷
جعل الله الشمس ضياء والقمر	۳۰۵	۱۰	۵	۴۳	۱۱
نورا وقد را منازل لتعلموا	۳۰۵	۲	۱۸۹	۴۳	۳۴
عدد السنين والحساب					
ان عداة الاثنا عشر	۳۰۶	۹	۳۶	۴۴	۱۸
عند الله					
جعل الله في الارض رواسي	۳۰۶	۲۱	۳۱	۴۵	۴۴
كيلا تميد بسكانها					
جعل الله للشمس مستقراً	۳۰۶	۲۱	۳۳	۴۶	۳۳
قدر القمر منازل وكل في فلك	۳۰۶	۲۹	۵	۴۶	۳۳
يسبحون					
ومن كل شيء عند الله خزائنه	۳۰۷	۱۵	۲۳-۲۱	۴۶	۳۳
ينزل الله من السحاب المطر	۳۰۷	۲۴	۴۳	۴۶	۳۳
البرق ومن الجبال البرد					
حيث يشاء					
جعل الله في الارض انهارا	۳۰۸	۱۶	۱۶-۱۵	۴۶	۳۳
وسبلا وعلمت وفي السماء نجوما					
جعل الله النجوم للاهتداء في	۳۰۸	۶	۹۸	۴۶	۳۳
طللت البر والبحر					
خلق الله للإنسان الأنعام منها	۳۰۸	۴۰	۸۰-۷۹	۴۶	۳۳
يأكل ومنها يركب عليها	۳۰۸	۶	۱۴۳	۴۶	۳۳
أبنت الله شجر الزيتون صبغاً	۳۰۹	۲۳	۲۰	۴۶	۳۳
ودُهنا					
جعل الله الليل سكناً والشمس	۳۰۹	۶	۹۷	۴۶	۳۳
والقمر لمعرفة عدد السنين					
والحساب					
هذا خلق الله فماذا خلق غيرك	۳۰۹	۳۱	۱۱	۴۶	۳۳
هل من خالق يبدأ الخلق	۳۰۹	۱۰	۳۴	۴۶	۳۳
ثم يعيدها					
وان تعد وانعمة الله لن تحصوها	۳۱۰	۱۶	۱۸	۴۶	۳۳
تسبيح الكون بمرته لله وراء	۳۱۰	۱۷	۴۴	۴۶	۳۳
عقل الإنسان وفهمه					
النجم والشجر يسجدان لله	۳۱۰	۵۵	۶	۴۶	۳۳

تسلسل	موضوع	الصفحة	حواله		موضوع	الصفحة	حواله		
			سورة	آيت			سورة	آيت	
٤٧	الملائكة مدبروات امر السماء والارض باذن الله	٣١٠	٧٩	١-٥	١٣	٣١٧	٥٠	٢٣-٢١	
٤٨	خلق الله معادن الحديد كي يمكن اختراع الاسلحة وحاجات الحياة الأخرى بواسطة المعدن القوي للغاية المستخرج منها	٣١١	٥٧	٢٥	١٤	٣١٧	١٧	١٤-١٣ ٤٩ ٢٩-٢٨	
٤٩	يخلق الله للانسان أشياء لا يعلمها	٣١١	١٦	٨	١٥	٣١٨	٣٢	١٢ ٥٨	
٥٠	ماذا سعة كلام الله	٣١١	٣١	٢٧	١٦	٣١٨	٣٦	٥٤	
<b>القيامة</b>									
١	خلق الكون لأجل مسمى	٣١٢	٣٠	٨	١٧	٣١٩	٥٢	٨٧ ٢٦	
٢	آامة القيامة ضرورية للمجازاة على الحسنات والمعاقبة على السيئات	٣١٢	٣٤	٥-٣	١٨	٣١٩	٥٦	١٠-٤	
٣	وعند الله علم الساعة	٣١٢	٧	١٨٧	١٩	٣١٩	٥٦	٢٦-١٠	
٤	لعل الساعة تكون قريبة	٣١٣	٣٣	٦٣	٢٠	٣٢٠	٥٦	٤-٢٧	
٥	ان حساب اوقات تدبير الأمر الكوني وراء عقل الانسان وفهمه	٣١٣	٢٢	٤٧	٢١	٣٢٠	٥٦	٥٧-٥١	
٦	لقد أخض امر الساعة ليجزى كل امرئ بالحق	٣١٣	٢٢	٤٦	٢٢	٣٢١	٧	٤٦	
٧	ان زلزلة الساعة أمر عظيم	٣١٣	٥٤	٤٦	٢٣	٣٢١	٣	١٣٣	
٨	سيكون الكافرون خاسرين يوم القيامة	٣١٤	٧٥	٤-٣	٢٤	٣٢٢	٥٥	٥٨-٤٦	
٩	بعض اشراط القيامة قبل مجيئها	٣١٤	٢١	٩٧-٩٥	٢٥	٣٢٢	٥٥	٥٣-٥١	
١٠	يوم القيامة	٣١٥	٣٦	٥٠-٤٩	٢٦	٣٢٢	٥٢	١٧-٢١-٢٠	
١١	احياء الناس بعد الموت عند مجيئ القيامة	٣١٦	٣٩	٦٨	٢٧	٣٢٢	٥٢	٢٣-٢٢	
١٢	يفطن الإنسان عند احيائه انه مكث في الدنيا ساعة ويعرف بعض الناس بعضا	٣١٦	١٠	٤٥	٢٨	٣٢٢	١٥	١٧-١٦	
١٣	دخول الكفار في جهنم	٣١٦	١٠	٤٥	٢٩	٣٢٢	١٤	٢١-٢٨	
١٤	ثم يسئل جهنم من امتلئت	٣١٦	١٠	٤٥	٣٠	٣٢٢	١٤	٨-٧	
١٥	ثم يسئل جهنم من امتلئت	٣١٦	١٠	٤٥	٣١	٣٢٢	١٤	٧٢-٧١	
١٦	ثم يسئل جهنم من امتلئت	٣١٦	١٠	٤٥	٣٢	٣٢٢	١٤	٣٠	
١٧	ثم يسئل جهنم من امتلئت	٣١٦	١٠	٤٥	٣٣	٣٢٢	١٤		
١٨	ثم يسئل جهنم من امتلئت	٣١٦	١٠	٤٥	٣٤	٣٢٢	١٤		
١٩	ثم يسئل جهنم من امتلئت	٣١٦	١٠	٤٥	٣٥	٣٢٢	١٤		
٢٠	ثم يسئل جهنم من امتلئت	٣١٦	١٠	٤٥	٣٦	٣٢٢	١٤		
٢١	ثم يسئل جهنم من امتلئت	٣١٦	١٠	٤٥	٣٧	٣٢٢	١٤		
٢٢	ثم يسئل جهنم من امتلئت	٣١٦	١٠	٤٥	٣٨	٣٢٢	١٤		
٢٣	ثم يسئل جهنم من امتلئت	٣١٦	١٠	٤٥	٣٩	٣٢٢	١٤		
٢٤	ثم يسئل جهنم من امتلئت	٣١٦	١٠	٤٥	٤٠	٣٢٢	١٤		
٢٥	ثم يسئل جهنم من امتلئت	٣١٦	١٠	٤٥	٤١	٣٢٢	١٤		
٢٦	ثم يسئل جهنم من امتلئت	٣١٦	١٠	٤٥	٤٢	٣٢٢	١٤		
٢٧	ثم يسئل جهنم من امتلئت	٣١٦	١٠	٤٥	٤٣	٣٢٢	١٤		
٢٨	ثم يسئل جهنم من امتلئت	٣١٦	١٠	٤٥	٤٤	٣٢٢	١٤		
٢٩	ثم يسئل جهنم من امتلئت	٣١٦	١٠	٤٥	٤٥	٣٢٢	١٤		
٣٠	ثم يسئل جهنم من امتلئت	٣١٦	١٠	٤٥	٤٦	٣٢٢	١٤		

# تفصیلاتِ مضامین

صفحہ	حوالہ		مضمون	صفحہ	حوالہ		مضمون
	سورۃ	آیت			سورۃ	آیت	
۸۳	۱۷	۸۹	قرآن میں باتوں کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے	۱۸			تعارفِ قرآن
۸۳	۱۸	۲-۱	قرآن میں کسی طرح کی پیچیدگی نہیں رکھی گئی	۱۹	۲-۲ ۱۵	۲ ۵	۱ یہ کتاب کن کی رہنما ہے
۸۳	۴	۸۲	قرآن ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہے	۲۰	۲۷ ۱۳	۱۳ ۲۲	۲ کن کو صحیح راستہ دکھایا جائے گا
۸۳	۷۵	۱۹-۱۶	قرآن کا جمع کرنا اور پڑھانا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے	۲۱	۲۳ ۲۸-۲۷	۳۹ ۸۱	۳ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی وسعت کیا ہے
۸۳	۴۱	۴۰	قرآن کی سیدھی سادھی باتوں کو ٹور مٹور کر پیش کرنے والے اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہیں	۲۲	۱۱۷ ۳۵	۲ ۱۹	۴ چیزیں کیسے وقوع پذیر ہوتی ہیں
۸۳	۱۵	۹	قرآن کی عجببانی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے	۲۳	۲۵-۱۱ ۳۷	۷ ۲	۵ کائنات کی پیدائش
۸۵	۳	۵۶	قرآن کی آیتوں سے کفر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا	۲۴	۲۷-۲۶ ۱۶-۱۲	۱۵ ۲۳	۶ اللہ تعالیٰ کا پیغمبروں سے عہد لینا
۸۵	۶	۶۸	آیتوں کے متعلق یہ ہر وہ باتیں ہونے والی جگہ سے کنارہ کشی کر لو	۲۵	۵-۱	۹۷	۷ آدم اور ابلیس کی پیدائش
۸۵	۵۶	۴-۷۷	قرآن کو پاکیزگی کی حالت میں ہاتھ لگانا چاہیے	۲۶			۸ انسان اور جنات کی پیدائش
۸۵	۱۶	۹۸	قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے	۲۷	۵-۱	۹۶	۹ قرآن ماہِ رمضان میں نازل کیا گیا
۸۶	۷	۲۰۴	قرآن سننے کے آداب	۲۸	۹۷	۳	۱۰ نزولِ قرآن شبِ قدر میں ہوا
۸۶	۲	۷۸	قرآن کو سمجھنا بھی لازم ہے	۲۹	۴۴ ۴	۴۱ ۱۳	۱۱ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ اُس نے قرآن کو اپنے علم سے نازل کیا ہے
۸۶	۲	۲۵	ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کا ٹھکانا کہاں ہوگا	۳۰	۴۹	۲۹	۱۲ پہلی وحی جو نازل ہوئی
۸۶	۵	۴۸	اگر آزمائش مقصود نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی شریعت پر قائم کر دیتا	۳۱	۱۰۶	۱۷	۱۳ نزولِ قرآن کس کی وساطت سے ہوا
							۱۴ قرآن عربی زبان میں کیوں نازل ہوا
							۱۵ آیاتِ قرآنی کو اہل علم کے سینوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے
							۱۶ قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان بنایا گیا ہے
							۱۷ قرآن کو آسانی کے لئے تھوڑا تھوڑا اور آہستہ آہستہ کر کے نازل کیا گیا



صفحہ	مضمون	صفحہ	حوالہ		صفحہ	مضمون
			سورۃ	آیت		
۲۱۳	اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود پکارو گے	۸۷	۲۴	۳۵	۲۲	اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لئے طرح طرح کی مثالیں سے کریمان فرماتا ہے
۴۲	تو اللہ تم پر بہشت حرام کر دے گا	۹۲	۲۴	۳۵	۲۲	اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لئے طرح طرح کی مثالیں سے کریمان فرماتا ہے
۱۲	پرے درجے کی گرامی کونسی ہے	۹۳	۲۲	۵۲	۳۳	قرآن تو اہل عالم کے لئے نصیحت ہے
۱۷	بُت پرستی تو ایک طوفان باندھنا ہے	۹۳	۲۴	۴۰	۳۴	اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے اور ان کی سزا بنی کرنے والوں کا بہشت میں داخلہ ناممکن ہوگا
۲۸	اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والے کی بخشش نہیں ہوگی	۹۳	۳	۴۸	۳۵	قرآن اپنے سے پہلی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ان سب کتابوں کا محافظ ہے
۲۴-۲۲	جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی ہی تسبیح کرتے ہیں	۹۳	۵۹	۱۰۵	۳۶	متفرق ہونے والوں اور اختلاف کرنے والوں کو سخت عذاب دیا جائے گا
۱۸	اللہ تعالیٰ نے اپنی واحدانیت کے متعلق خود بھی گواہی دی ہے	۹۳	۳	۳۰	۳۷	محمدؐ قیامت کے دن اپنی قوم کی قرآن جیسی واجب العمل کتاب کو نظر انداز کرنے کی شکایت کریں گے
<b>رسالت محمد ﷺ</b>						
۸	اللہ تعالیٰ کا پیغمبروں سے عہد لینا	۹۵	۳	۵۵	۳۸	اس سے پہلے کہ انسان پر ناگہان عذاب آئے اُسے قرآن کی پیروی کر لینی چاہیے
۵۷	حضرت محمدؐ کا تورات اور انجیل میں ذکر عیسیٰؑ نے احمد کے متعلق پیش گوئی کی	۹۵	۶۱	۲۸	۳۹	صاحب علم درحقیقت وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں
۵	پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ منقطع رہنے کے بعد محمدؐ کے آنے کی وجوہات	۹۶	۵	۲۴	۴۰	قرآنی احکام کے مطابق حکم نہ دینے والے کافر ہیں
۲۸	محمدؐ امی (جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے)	۹۶	۲۹	۲۴	۴۱	اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق و کاساز
۵۶	حضرت محمدؐ کو بھیج جانے کی وجوہات	۹۶	۲۵	۶۴-۶۰	۴۲	اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جس کو چاہے اُس قدر معلوم کرا دیتا ہے
۵۰	حضرت محمدؐ اپنی خواہش نفسانی سے بات نہیں کرتے بلکہ ان کا ارشاد تو نوری وحی ہوتی ہے	۹۷	۶	۲۵۵	۴۳	آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار تو اللہ ہی ہے
۵-۱	بعض پیغمبروں کو دوسروں پر فضیلت ہی گئی ہے	۹۷	۵۳	۱۶	۴۴	قرآن انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ کا پیغامِ توحید ہے
۵۵	اللہ تعالیٰ نے حضرت محمدؐ کو نبوت کا اعلان کر دینے کا حکم فرمایا	۹۷	۱۴	۵۲	۴۵	اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور دود و معجزہ بناؤ
۷-۱	اللہ تعالیٰ نے حضرت محمدؐ کو نبوت کا اعلان کر دینے کا حکم فرمایا	۹۷	۱۴	۵۲	۴۶	اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ

صفحہ	مضمون	حوالہ		صفحہ	مضمون	حوالہ	
		آیت	سورہ			آیت	سورہ
۱۰۲	حضرت محمدؐ کا مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ	۱۹		۹۸	۲۱	۲۸	۱۰۶
۱۰۳	حق ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں	۲۰		۹۸	۳۳	۴۰	۲۸
۱۰۳	اتباع رسول (محمدؐ) کرنے والوں کے گناہ	۲۱		۹۸	۱۴	۱	۱۰۶
۱۰۳	اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا	۲۱		۹۹	۵	۳	۱۰۶
۱۰۳	حضرت محمدؐ کے احترام میں ذرا سی کمی رہ جانے پر	۲۲		۹۹	۵۶	۳۳	۱۰۶
۱۰۳	انسان کے تمام اعمال ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے	۲۲		۹۹	۵۲	۲-۱	۱۰۶
۱۰۳	اللہ تعالیٰ نے حضرت محمدؐ کو خوشخبری سنانے والا	۲۲		۹۹	۳	۱۱۰	۱۰۶
۱۰۳	اور روشن چراغ بنا کر بھیجا	۲۲		۹۹	۲۴	۴۰	۱۰۶
۱۰۴	اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے	۱		۱۰۰	۳	۱۱۰	۱۰۶
۱۰۴	پیدا کیا کہ اُس کی عبادت کریں	۱		۱۰۰	۲۴	۴۰	۱۰۶
۱۰۴	نماز نہ پڑھنے والے کہاں ہوں گے	۲		۱۰۰	۴۵	۱۸	۱۰۶
۱۰۴	اپنی اور اپنی اولاد کے لئے پابندی نماز	۳		۱۰۰	۴۸	۱۰	۱۰۶
۱۰۴	کے لئے دعا کرنی چاہیئے	۳		۱۰۰	۳۳	۲۱	۱۰۶
۱۰۵	اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم دینا بھی لازم ہے	۴		۱۰۱	۴	۸۰	۱۰۶
۱۰۵	نماز کیوں پڑھنی چاہیئے	۵		۱۰۱	۲۲	۵۲	۱۰۶
۱۰۵	نماز کے لئے ہدایات و فوائد	۶		۱۰۱	۳۳	۳۱	۱۰۶
۱۰۶	اذان	۷		۱۰۱	۴۸	۲۹	۱۰۶
۱۰۶	جنابت کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ	۸		۱۰۲	۴۲	۲۳	۱۰۶
۱۰۶	نماز میں لباس کیسا ہو	۹		۱۰۲	۳۳	۵۶	۱۰۶
۱۰۶	وضو اور تیمم	۱۰		۱۰۲	۳۳	۵۶	۱۰۶
۱۰۶	نماز کیسے پڑھنی چاہیئے	۱۱		۱۰۲	۳۳	۵۶	۱۰۶
۱۰۶	نماز میں رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنا چاہیئے	۱۲		۱۰۲	۴	۶۴	۱۰۶
۱۰۶	نماز باجماعت پڑھنی چاہیئے	۱۳		۱۰۲	۴	۶۴	۱۰۶
۱۰۶	حضرت محمدؐ پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی تعامات	۱۰		۹۸	۲۱	۲۸	۱۰۶
۱۰۶	تمام جہانوں کے لئے بامش رحمت	۱۰		۹۸	۳۳	۴۰	۱۰۶
۱۰۶	خاتم النبیین	۱۰		۹۸	۱۴	۱	۱۰۶
۱۰۶	معراج کا مقدس سفر	۱۰		۹۹	۵	۳	۱۰۶
۱۰۶	دین اسلام مکمل کر دیا گیا اور پسند فرمایا	۱۰		۹۹	۱۰۸	۱	۱۰۶
۱۰۶	کوثر عطا فرمائی گئی	۱۰		۹۹	۳۳	۵۶	۱۰۶
۱۰۶	اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا محمدؐ پر درود بھیجا	۱۰		۹۹	۵۲	۲-۱	۱۰۶
۱۰۶	چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا	۱۰		۱۰۰	۳	۱۱۰	۱۰۶
۱۰۶	محمدؐ کی امت کو بہترین قرار دیا گیا	۱۰		۱۰۰	۲۴	۴۰	۱۰۶
۱۰۶	حضرت سلیمان کے ایک امتی کی رومانی طاقت کے بیان سے	۱۰		۱۰۰	۳	۱۱۰	۱۰۶
۱۰۶	نسل انسانی کی بہترین امت یعنی امت محمدؐ کے افراد	۱۰		۱۰۰	۳	۱۱۰	۱۰۶
۱۰۶	کے مقام کے بارے میں غور و فکر کا اشارہ ملتا ہے	۱۰		۱۰۰	۳	۱۱۰	۱۰۶
۱۰۶	حضرت محمدؐ کو دین کے کھلے راستے پر قائم کر دیا گیا	۱۰		۱۰۰	۳	۱۱۰	۱۰۶
۱۰۶	حضرت محمدؐ سے بیعت کرنے والے اللہ تعالیٰ سے بیعت	۱۰		۱۰۰	۳	۱۱۰	۱۰۶
۱۰۶	کرتے ہیں	۱۰		۱۰۰	۳	۱۱۰	۱۰۶
۱۰۶	اللہ تعالیٰ اور محمدؐ کی اطاعت و فرمانبرداری	۱۰		۱۰۱	۴	۸۰	۱۰۶
۱۰۶	میں کوئی فرق نہیں	۱۰		۱۰۱	۲۲	۵۲	۱۰۶
۱۰۶	حضرت محمدؐ کے سمت یافتہ لوگوں (صحابہؓ) کے چہروں	۱۰		۱۰۱	۳۳	۳۱	۱۰۶
۱۰۶	پر حقیقی بندگی کے آثار نمایاں ہیں	۱۰		۱۰۱	۴۸	۲۹	۱۰۶
۱۰۶	اللہ تعالیٰ اور محمدؐ کے نافرمان لوگوں کا	۱۰		۱۰۲	۴۲	۲۳	۱۰۶
۱۰۶	ٹھکانا جہنم ہوگا	۱۰		۱۰۲	۴۲	۲۳	۱۰۶
۱۰۶	مومنوں کو حضرت محمدؐ پر درود اور سلام بھیجنا	۱۰		۱۰۲	۳۳	۵۶	۱۰۶
۱۰۶	لازم ہے	۱۰		۱۰۲	۳۳	۵۶	۱۰۶
۱۰۶	حضرت محمدؐ کی طرف سے بخشش مانگنے پر اللہ تعالیٰ	۱۰		۱۰۲	۴	۶۴	۱۰۶
۱۰۶	معاف فرمادیتا ہے	۱۰		۱۰۲	۴	۶۴	۱۰۶

صفحہ	مضمون	حوالہ		صفحہ	مضمون	صفحہ
		سورۃ	آیت			
	<b>حج و عمرہ</b>					
	اللہ تعالیٰ کا پہلا گھ	۱	۱۰۳	۲۰	۱۰۸	۱۳
۱۱۵	مشرکوں کے خانہ کعبہ کے قریب جانے پر پابندی ہے	۲	۲۳۸	۲	۱۰۸	۱۵
۱۱۵	حج کس پر فرض ہے	۳	۱۰-۹	۶۲	۱۰۹	۱۶
۱۱۶	حج کے مہینے	۴	۲۳۹	۲	۱۰۹	۱۸
۱۱۶	راستے کا خرچ	۵	۱۰۲	۴	۱۰۹	۱۹
۱۱۶	احرام کی حالت میں شکار ممنوع ہے	۶	۱۰۱	۴	۱۱۰	۲۰
۱۱۶	احرام میں شکار کر لینے کا کفارہ سولے سمندری شکار کے	۷	۸۴	۹	۱۱۰	۲۱
۱۱۷	احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت کا مقصد آزمائش ہے	۸	۱۸۶	۲	۱۱۰	۲۲
۱۱۷	حج کی ادائیگی	۹	۱۱۲	۱۱	۱۱۱	۲۳
۱۱۸	قربانی میں بعد کی نسلوں کے لئے ابراہیمؑ کا ذکر خیر بھی ہے	۱۰				۲۴
۱۱۸	قربانی کے دن مقرر کئے ہوئے ہیں	۱۱	۱۸۳	۲	۱۱۱	روزہ
۱۱۸	قربانی کا مقصد کیا ہے	۱۲	۱۸۵	۲	۱۱۱	۱
۱۱۹	خانہ کعبہ کا طواف	۱۳	۱۸۷	۲	۱۱۲	۲
۱۱۹	صفا اور مروہ کی سعی	۱۴	۱۸۷	۲	۱۱۲	۳
۱۱۹	منیٰ میں قیام	۱۵				۴
۱۱۹	<b>اللہ تعالیٰ کا ذکر</b>		۵۶	۲۴	۱۱۳	۵
۱۱۹	ذکر اللہ	۱	۲۰	۲۱	۱۱۳	روزوں کا مہینہ (ماہِ رمضان)
۱۱۹			۲۹	۳۰	۱۱۳	روزے کیوں فرض کئے گئے
۱۱۹					۱۱۳	سفر اور بیماری کے دوران روزہ کی قضا
۱۱۹					۱۱۳	روزہ اور اعتکاف کے دوران مباشرت
۱۱۹					۱۱۳	روزہ رکھنے کے اوقات
۱۱۹					۱۱۳	زکوٰۃ و عشر
۱۱۹					۱۱۳	زکوٰۃ کا ادا کرنا
۱۱۹					۱۱۳	سود اور زکوٰۃ میں فرق
۱۱۹					۱۱۳	زکوٰۃ دین کا ایک جزو ہے
۱۱۹					۱۱۳	زکوٰۃ کے لئے مستحق لوگ کون ہیں
۱۱۹					۱۱۳	عشر ادا کرنا چاہیے

صفحہ	حوالہ		مضمون	صفحہ	حوالہ		مضمون
	سورت	آیت			سورت	آیت	
۱۲۶	۲۸	۶۷	توبہ ایمان اور نیک عمل سے نجات کی امید کی جاسکتی ہے	۱۲۱	۷۳	۲۰۵	اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے
۱۲۶	۶۶	۸	توبہ کی بہترین صورت کیا ہے	۱۲۱	۳	۱۹۱	اللہ کا ذکر کب کیا جائے
۱۲۶	۲۹	۵۴-۵۳	اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی ناامید نہیں ہونا چاہیے اور اسی کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے	۱۲۲	۴	۱۰۳	جنگ کے دوران اللہ کا ذکر
۱۲۶	۵۰	۳۳-۳۲	قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنے والے اور رجوع لانے والے رکھنے والے جنت میں جائیں گے	۱۲۲	۱۳	۲۸	ذکر سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے
۱۲۶	۲۵	۷۱	جو توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے	۱۲۲	۷	۲۰۵	ذکر سے غافل نہ ہونے کی تاکید
۱۲۶	۲۰	۱۱۳	اللہ تعالیٰ نے محمدؐ کو علم میں اضافے کیلئے دُعا کرنے کے لئے ارشاد فرمایا	۱۲۲	۴۳	۳۶	اللہ تعالیٰ ذکر سے لغافل برتنے والوں پر شیطان مقرر فرمادیتا ہے
۱۲۸	۱۳	۱۳	حاجت روائی اور مشکل کشائی کی دُعا اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے	۱۲۳	۳	۱۳۵	اپنے اعمال پر بڑے رہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہو
۱۲۸	۵۰	۱۶	اللہ تعالیٰ تو انسان کی رگ جان سے بھی قریب ہے اور وہ پکارنے والے کی دُعا قبول فرماتا ہے	۱۲۳	۲۵	۷۰	کن لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا
۱۲۸	۲۷	۶۲	اللہ تعالیٰ ہی بیقرار کی التجا قبول کر کے اُس کی تکلیف کو دور فرماتا ہے	۱۲۳	۴۷	۱۸	کب اصلاح کا موقع نہ رہے گا
۱۲۹	۷	۵۶-۵۵	اللہ تعالیٰ سے دُعا کیسے مانگنی چاہیے	۱۲۳	۲۰	۸۲-۸۱	عذاب دیکھنے پر انسان ایک اور موقع لینے کی خواہش کرے گا
۱۲۹	۴	۳۲	اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم مانگتے رہنا چاہیے	۱۲۳	۳	۱۳۵-۱۳۶	اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے
۱۲۹	۱۳	۳۱	اپنی اور اپنے والدین کی مغفرت کے لئے دُعا کرنی چاہیے	۱۲۳	۴	۱۷	توبہ کی قبولیت کا حق کن کو پہنچتا ہے
				۱۲۵	۲	۱۶-۱۵۹	اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے
				۱۲۵	۳	۳۱	بڑے گناہوں سے بچے رہو تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ معاف کر دے گا
				۱۲۵	۳	۱۸	اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں فرماتا
				۱۲۶	۲	۲۸	وہ گناہ کون سے ہیں جن کی معافی نہیں ہے

### صدقات

(ملاحظہ فرمائیں تعاضبات صفحہ ۶۲)

### توبہ

صفحہ	حوالہ		مضمون	صفحہ	حوالہ		مضمون
	سورۃ	آیت			سورۃ	آیت	
۱۰۲	۳	۱۳۴	انسان کا خاتمہ تو اسلام پر ہی ہونا چاہیے	۶	۲۰ ۱۵	۱۲۹	۸ والدین کی اولاد کے لئے دُعا
۷۸	۲۲	۱۳۴	اس دین کے احکام میں کسی قسم کی تنگی نہیں	۷	۷۴	۱۲۹	۹ اپنے اہل و عیال کی طرف سے راحت حاصل ہونے کے لئے دُعا کرنی چاہیے
۱۷	۲۹	۱۳۴	مسلمان بنا دیا جانا تو اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے	۸	۱۰	۵۹	۱۰ دوسرے مومنوں کے متعلق اپنے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے کے لئے دُعا کرنی چاہیے
۱۱۰	۳	۱۳۵	محمدؐ کی اُمت کو بہترین قرار دیا گیا ہے	۹	۲۸۶	۲	۱۳۰ اللہ تعالیٰ سے بخشش کے لئے دُعا کرو
۲	۱۵	۱۳۵	کافر آرزو کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے	۱۰	۵۳	۳۹	۱۳۰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا اُمید نہ ہونا چاہیے
۵۹ ۴۸	۱۰ ۵	۱۳۵	اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو زمین میں سب ہی ایمان لے آتے اگر اس میں آزمائش مقصود ہوتی	۱۱	۲۶	۴۲	۱۳۰ اللہ تعالیٰ کن کی دُعا قبول فرماتا ہے
۱۲۶	۶	۱۳۶	اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بدایت بخشتا یا گمراہی کے رستہ پر ڈال دیتا ہے	۱۲	۲۰۲-۲۰۰	۲	۱۳۱ دُنیا اور آخرت دونوں ہی کے لئے دُعا مانگنی چاہیے
۱۵۹	۶	۱۳۶	ایمان شروع میں لے آنا چاہیے	۱۳	۱۲	۳۱	۱۳۱ اللہ تعالیٰ کا شکر بحالانے سے خود انسان ہی کو فائدہ پہنچتا ہے
۲۵۶	۲	۱۳۶	غیر مسلموں کے بارے میں اسلام میں کوئی جبر نہیں	۱۴	۶۵	۲۵	۱۳۱ اللہ تعالیٰ سے دوزخ کے عذاب کو دور رکھنے کے لئے دُعا مانگتے رہنا چاہیے
۳۲ ۱۶۰	۳۰ ۶	۱۳۶	دین میں فرقہ بندی اور تقسیم کرنے والوں سے تعلق قائم نہ کرو	۱۵	۲۷۰ ۷	۷۶	۱۳۲ جائز امر کی مُراد برآنے پر اللہ تعالیٰ سے مافی ہوتی نذر کو پورا کرنا چاہیے
۳۰ ۵۷ ۱۰۰	۳۰ ۲ ۲	۱۳۷	اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر قائم رہو اسلام پر عمل کرنا ناممکن ہو تو، ہجرت کر جانا چاہیے	۱۶	۱۸		
۷	۴۷	۱۳۸	اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا	۱۷	۴۸	۲۲	۱۳۳ پہلی کتابوں میں بھی نام مسلمان ہی رکھا تھا
۹-۸	۶۱	۱۳۸	اس دین کو دوسرے تمام دینوں پر غالب کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے	۱۹	۳	۵	۱۳۳ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام مکمل کر دیا اور پسند فرمایا
۷۳	۸	۱۳۸	مومنوں کو آپس میں مدد کرنی چاہیے	۲۰	۱۹	۳	۱۳۳ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے
۱۲۵	۱۶	۱۳۸	دینی بحث اور مناظرہ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ کرنا چاہیے	۲۱	۸۵	۳	۱۳۴ دوسرا کوئی مذہب قبول نہیں ہوگا
					۵	۹۸	۱۳۴ یہی سچا دین ہے

## دین اسلام

### الاسلام

صفحہ	مضمون	صفحہ	حوالہ		صفحہ	مضمون	صفحہ
			سورت	آیت			

صفحہ	مضمون	صفحہ	سورت	آیت	صفحہ	مضمون	صفحہ
۸۷	پاکیزہ اور حلال چیزوں کو حرام کرنیوالوں کو	۵			۱۳۹	ایمان والوں کو	۱
۲۰۵	فتنہ انگیزی کرنے والوں کو	۶			۱۳۹	اتباع رسول کرنے والوں کو	۲
۱۰۷	جو نائن ہوں اور جہاد کرتے ہوں	۷	۲۵۷	۲	۱۳۹	سب کرنے اور انسانوں کو معاف کرنیوالوں کو	۳
۱۹۰	جو زیادتی کرنے والے ہوں	۸	۳۱	۳	۱۳۹	توبہ کرنے اور پاک صاف رہنے والوں کو	۴
۲۳	جو اترانے اور شیخی بگھارنے والے ہوں	۹	۱۳۴-۱۷	۳	۱۳۹	استقلال رکھنے والوں اور نیکو کاروں کو	۵
۳۸	جو خیانت اور کفرانِ نعمت کرنے والے ہوں	۱۰	۲۲۲	۲	۱۳۹	اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والوں کو	۶
۱۴۲	بے جا اڑانے والوں کو	۱۱	۴۸-۱۴۶	۳	۱۴۰	اللہ تعالیٰ کی راہ میں حج کر لٹنے والوں کو	۷
۵۸	جو دغا باز ہوں	۱۲	۱۵۹	۳	۱۴۰	انصاف کرنے والوں کو	۸
۷۷	جو ملک میں طالبِ فساد ہوں	۱۳	۴	۶۱	۱۴۰	اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو	۹
۷۶	اترانے والوں کو	۱۴	۴۲	۵	۱۴۰	احسان کرنے والوں کو	۱۰
۲۳-۲۲	جو سرکشی کرتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں	۱۵	۷۶	۳	۱۴۰	صفائی پسندوں کو	۱۱

## مومن کون ہیں

۲۰۸	جو اسلام میں پورے پورے داخل ہوں	۱	۴	۹	۱۴۱	عبدالپورا کرنے والوں کو	۱۲
۲۷۸	جو سود خوری سے اجتناب کرتے ہیں	۲	۱۹۵	۲	۱۴۱	اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور نیکی کرنے والوں کو	۱۳
۲۸۲	جو آپس کے قرض کو لکھ لیتے ہیں	۳				پرہیزگاروں کو	۱۴
۱۳۹	جو بے دل اور غمناک نہیں ہوتے	۴	۱۹	۴۵	۱۴۱	جو مومنوں سے نرمی کرنے اور کافروں سے سختی برتنے والے ہوں	۱۵
۱۶۰	جو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں	۵	۵۴	۵	۱۴۱	ناشکری کرنے والوں کو	۱۶
۱۷۵	جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں	۶				تکبر کرنے والوں اور زمین پر اٹک کر چلنے والوں کو	۱۷
۲۹	جو ایک دوسرے کا مال ناحق نہیں کھاتے	۷				آیتوں میں جھگڑنے والوں کو	۱۸
۷۶	جو اللہ تعالیٰ کے لئے لڑتے ہیں	۸				ظلم کرنے والوں کو	۱۹
۹۴	جو جہاد کے لئے سفر میں دوست دشمن میں تمیز کر لیتے ہیں	۹	۷	۳۹	۱۴۱		۲۰
۱۴۰	جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ہنسنا اور تکذیب کرنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے	۱۰	۱۸	۳۱	۱۴۲		۲۱
			۳۶	۴	۱۴۲		۲۲
			۳۵	۴۰	۱۴۲		۲۳
			۴۰	۴۲	۱۴۲		۲۴

## اللہ تعالیٰ کون پسند فرماتا ہے

۱	ایمان والوں کو	۱۳۹	۲	۲۵۷	۲
۲	اتباع رسول کرنے والوں کو	۱۳۹	۳	۳۱	۳
۳	سب کرنے اور انسانوں کو معاف کرنیوالوں کو	۱۳۹	۳	۱۳۴-۱۷	۳
۴	توبہ کرنے اور پاک صاف رہنے والوں کو	۱۳۹	۲	۲۲۲	۲
۵	استقلال رکھنے والوں اور نیکو کاروں کو	۱۳۹	۳	۴۸-۱۴۶	۳
۶	اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والوں کو	۱۴۰	۳	۱۵۹	۳
۷	اللہ تعالیٰ کی راہ میں حج کر لٹنے والوں کو	۱۴۰	۶۱	۴	۶۱
۸	انصاف کرنے والوں کو	۱۴۰	۵	۴۲	۵
۹	اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو	۱۴۰	۳	۷۶	۳
۱۰	احسان کرنے والوں کو	۱۴۰	۵	۱۳	۵
۱۱	صفائی پسندوں کو	۱۴۰	۹	۱۰۸	۹
۱۲	عبدالپورا کرنے والوں کو	۱۴۱	۹	۴	۹
۱۳	اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور نیکی کرنے والوں کو	۱۴۱	۲	۱۹۵	۲
۱۴	پرہیزگاروں کو	۱۴۱	۴۵	۱۹	۴۵
۱۵	جو مومنوں سے نرمی کرنے اور کافروں سے سختی برتنے والے ہوں	۱۴۱	۵	۵۴	۵

## اللہ تعالیٰ کون پسند فرماتا ہے

۱	ناشکری کرنے والوں کو	۱۴۱	۲۹	۷	۳۹
۲	تکبر کرنے والوں اور زمین پر اٹک کر چلنے والوں کو	۱۴۲	۳۱	۱۸	۳۱
۳	آیتوں میں جھگڑنے والوں کو	۱۴۲	۴۰	۳۶	۴۰
۴	ظلم کرنے والوں کو	۱۴۲	۴۲	۴۰	۴۲

صفحہ	مضمون	حوالہ		صفحہ	مضمون	صفحہ
		سورۃ	آیت			
۱۵۰	جو اللہ تعالیٰ کے آگے صاف دل سے توبہ کرتے ہیں	۲۹	۱۴۶	۴	۱۴۶	۱۱
۱۵۰	جو اس کتاب اور پہلی نازل کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں	۱۶۲	۳	۱۴۶	۳	۱۲
۱۵۰	سچے مومن کون ہیں	۳۰				
۱۴۶	جو رنج و خوف سے آزاد بہشت میں داخل ہونگے	۴۹	۷	۱۴۶	۷	۱۳
۱۴۶	سچے مومنوں کی خوبیاں	۱۱۳	۹	۱۴۶	۹	۱۴
۱۴۶	جو اچھے کام کرنے کو کہتے اور بُری باتوں سے روکتے ہیں	۱	۷۱	۹	۱۴۶	۱۵
۱۴۶	جو جائز آمدنی کو ہی بہتر سمجھتے ہیں	۲	۸۶	۱۱	۱۴۶	۱۶
۱۴۶	جو بدگمانی کی بجائے حسن ظن سے کام لیتے ہیں	۳	۱۲	۲۴	۱۴۸	۱۷
۱۴۶	جو جھوٹے الزام نہیں لگاتے	۴	۱۷-۱۷	۲۴	۱۴۸	۱۸
۱۴۶	جو شیطان کے قدموں پر نہیں چلتے	۲۱	۲۴	۲۴	۱۴۸	۱۹
۱۴۶	جو فاسق سے بالکل مختلف ہیں	۵	۱۸	۳۲	۱۴۸	۲۰
۱۴۶	طاقتور دشمن کو دیکھ کر جن کی قوتِ ایمان میں اضافہ اور حوصلے بلند ہو جاتے ہیں	۶	۲۲	۳۳	۱۴۸	۲۱
۱۴۶	جو اللہ تعالیٰ اور رسولؐ کے مقرر کردہ امر میں اپنا کچھ اختیار نہیں سمجھتے	۷	۳۶	۳۳	۱۴۹	۲۲
۱۴۶	جو سیدھی بات کہتے ہیں	۸	۷۰	۳۳	۱۴۹	۲۳
۱۴۶	جو جھگڑے کو ناپسند کرتے ہیں	۹	۳۵	۴۰	۱۴۹	۲۴
۱۴۶	جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ملتے اور رسولؐ کی فرمانبرداری کرتے ہیں	۱۰	۳۳	۴۷	۱۴۹	۲۵
۱۴۶	جو ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ہے دوستی نہیں کرتے	۱۱	۱۳	۶۰	۱۴۹	۲۶
۱۴۶	جو ایسی بات نہیں کہتے جو کرتے نہیں	۱۲	۶۱	۱۵۰	۶۱	۲۷
۱۴۶	جو بیوی بچوں کی محبت کو دین کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیتے	۱۳	۶۴	۱۵۰	۶۴	۲۸
۱۴۶	انسان کو وہی ملتا ہے جسکی وہ کوشش کرتا ہے	۱۴				

## حقائقِ زندگی

صفحہ	مضمون	حوالہ		صفحہ	مضمون	حوالہ	
		سورۃ	آیت			سورۃ	آیت
۱۶۰	اللہ تعالیٰ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا	۴	۴۰	۱۵۶	دوسروں کی فضیلت پر حسد مت کرو	۴	۳۲
۱۶۰	عین ممکن ہے کہ انسان کو بُری لگنے والی چیز اس کے لئے اچھی اور اچھی لگنے والی چیز اس کے لئے بُری ہو	۲	۲۱۶	۱۵۶	اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دانائی بخش دیتا ہے	۲	۲۶۹
۱۶۱	مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ بھی تلاش کرنا چاہیے	۵	۳۵	۱۵۶	اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور وہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے	۳۵	۱۰
۱۶۱	بھول چوک سے غلطی سرزد ہونے پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا	۳۳	۵	۱۵۶	ہر صاحب علم سے بالاتر ایک اور علم والا ہے	۱۲	۷۶
۱۶۱	اللہ تعالیٰ صرف دنیا کی آسودگی مانگنے والوں کی خواہش کو جلد پورا کر کے ان کا ٹھکانا جہنم مقرر فرمادیتا ہے	۱۴	۱۸	۱۵۷	اللہ تعالیٰ انسان کو بُرے اور اچھے حالات میں ڈال کر اس کی آزمائش کرتا ہے	۲۱	۳۵
۱۶۲	آخرت کے لئے خواہش اور مناسب کوشش کرنے والے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا	۱۴	۱۹	۱۵۷	اللہ تعالیٰ انسان کے خوف بھوک مال جان اور فضل کے نقصان سے آزمائش کرتا ہے	۶	۱۶۶
۱۶۲	اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں، زبان اور ہونٹ دے کر خیر و شر کے دونوں راستے دکھائے	۹۰	۱۰-۸	۱۵۷	انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش (یعنی مصیبت) کی صورت میں کیا کرنا چاہیے	۸	۲۸
۱۶۲	موت تو انسان کو ہر جگہ آئے گی دچاہے خلا میں یا گہرے پانی ہی میں کیوں نہ ہو	۴	۷۸	۱۵۷	بہت مال کی طلب تو انسان کو غافل کر دیتی ہے	۲	۱۵۵
۱۶۳	عورت کا پیدا کیا جانا	۳۰	۲۱	۱۵۸	دنیوی زندگی کی آرائش کی چیزوں سے رزق حلال بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے	۲۰	۱۳۱
۱۶۳	مرد اور عورت کے حقوق	۲	۲۲۸	۱۵۸	اللہ تعالیٰ انسان کی رسی دراز کر کے مہلت دیتا ہے	۱۶	۶۱
۱۶۳	مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے	۱۶	۲۲۸	۱۵۹	اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اُس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا	۲۳	۴۵-۲۲
۱۶۳	مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ کیوں دیا گیا ہے	۴	۲۲۸	۱۵۹	اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کو انسان کے قابو میں کر دیا	۳۱	۲۰
۱۶۳	عورت کا پیدا کیا جانا	۳۰	۲۱	۱۶۰	اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اولاد عطا فرماتا یا بے اولاد رکھتا ہے	۲۲	۵۰-۴۹
۱۶۳	مرد اور عورت کے حقوق	۲	۲۲۸	۱۶۰	اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے مقرر فرمادے گا	۶	۱۳۲
۱۶۳	مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے	۱۶	۲۲۸	۱۶۰	دوبارہ زندہ ہونے پر انسان خیال کرے گا کہ دنیا میں تو گھڑی بھر ہی رہا تھا	۱۰	۴۵
۱۶۳	مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ کیوں دیا گیا ہے	۴	۲۲۸				

## عالمی قوانین پر وہ کے احکام مسلمان مرد اور عورت



صفحہ	مضمون	حوالہ		صفحہ	مضمون	صفحہ
		سورۃ	آیت			

۲۲۰	۲	۱۵۱	بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھالینا	۲۳	۱۹	۴	۱۶۴	عورت کو مال میراث نہ سمجھو	۵
۲۲۱	۲	۱۵۱	اپنی بیوی کو مال کہہ بیٹھنے کی سورت میں (انہما)	۲۳				نکاح	

## حق مہر

۲۲۲	۲	۱۵۲	حق مہر کی ادائیگی	۲۵	۲۳۴	۲	۱۶۵	رکن عورتوں سے نکاح حلال اور رکن سے حرام ہے	۶
۲۲۳	۲	۱۵۲	عورت کے پاس جانے اور مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق	۲۶	۲۳۵	۲	۱۶۶	بیوہ عورتوں سے نکاح کے پیغام کا طریقہ	۸
۲۲۴	۲	۱۵۳	ہاتھ لگانے سے پہلے اور مہر مقرر کرنے کے بعد طلاق	۲۷	۲۳۵	۲	۱۶۶	یتیم عورتوں سے نکاح	۹
۲۲۵	۲	۱۵۳	عورت کی طرف سے شوہر سے ربائی حاصل کرنے کے لئے رقم کی ادائیگی (خلع)	۲۸	۲۳۵	۵	۱۶۷	لوڈیوں سے نکاح	۱۰
			طلاق					مجرد افراد اور غلاموں کی شادی	۱۱
			طلاق کن اوقات میں دی جانی چاہیے	۲۹	۲۳۵	۳	۱۶۷	اہل کتاب کا کھانا اور ان کی عورتیں	۱۲
			ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق	۳۰	۲۳۶	۲	۱۶۸	مشرک مرد یا عورت سے نکاح	۱۳
			مطلقہ عورتوں کے لئے انتظار کا وقفہ	۳۱	۲۳۶	۲	۱۶۸	مثنیٰ کا مطلقہ کے ساتھ نکاح	۱۴
			دوسری دفعہ طلاق کے بعد فیصلہ کن دعوہ	۳۲	۲۳۶	۲	۱۶۸	ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی شرائط	۱۵
			عدت کی میعاد ختم ہونے سے پہلے فیصلہ کا انتخاب کرو	۳۳	۲۳۶	۲	۱۶۹	زیادہ سے زیادہ چار بیویاں رکھنے کی شرائط	۱۶
			تیسری دفعہ طلاق دیئے جانے کے بعد دوبارہ زوجیت میں لیا جانا	۳۴	۲۳۶	۲	۱۶۹	ناپاک بدکردار، زانی اور مشرک مردوں اور عورتوں کا نکاح	۱۷
			طلاق کے بعد دوسری شادی کی زادی	۳۵	۲۳۶	۲	۱۷۰	میاں بیوی کے درمیان باتفاق	
			بچہ کو دودھ پلانے کی میعاد	۳۶	۲۳۶	۲	۱۷۰	بیوی کے ساتھ بجلے طریقے سے زندگی بسر کرنے کی ہدایت	۱۸
			بچہ پالنے والی عورت کا معاوضہ	۳۷	۲۳۶	۲	۱۷۱	سرکش عورت کے ساتھ برتاؤ	۱۹
			بیوہ عورت سے دیئے ہوئے مال سے ایس لینا	۳۸	۲۳۶	۲	۱۷۱	میاں بیوی میں جھگڑا	۲۰

## میاں بیوی کے درمیان باتفاق

۲۲۲	۲	۱۵۲	عورت کو شوہر سے زیادتی کا ڈر	۳۶	۱۲۸	۳	۱۷۰	میاں بیوی میں اتفاق نہ ہونے کی صورت میں علیحدگی	۲۱
۲۲۳	۲	۱۵۲	بیوہ عورت سے دیئے ہوئے مال سے ایس لینا	۳۷	۱۳۰	۲	۱۷۱		۲۲

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	حوالہ		صفحہ	مضمون
				سورۃ	آیت		

۶۰	۲۴	۱۸۲	کونسی عورتیں پردہ اتار سکتی ہیں (گھر، محلہ، نہ)	۴	۲۴۰	۲	۱۶۶	بیوہ ہونے کے بعد مرد کے گھر میں رہائش
۵۹	۳۳	۱۸۲	عورتوں کو کیسے باہر نکلنا چاہیئے	۵	۲۴۱	۲	۱۶۶	مرحلۃ عورتوں کے لئے نان و نفقہ
۵۸	۲۴	۱۸۳	گھریلو ملازمین اور نابالغوں کیلئے احکام	۶	۲۱-۲۰	۴	۱۶۶	پہلی عورت سے مال کی واپسی ممنوع ہے
۵۹	۲۴	۱۸۳	بیٹوں کے لئے بھی بالغ ہونے پر اجازت لازم ہے	۷				<b>عورت کے لئے عدت</b>

## معاشیات معیشت

۶	۱۱	۱۸۳	برجائز کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے	۱	۳	۶۵	۱۶۸	بیوہ کے لئے عدت
۲۰	۱۵	۱۸۳	معیشت اور درجات کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے	۲	۶	۶۵	۱۶۸	ان عورتوں کے لئے عدت جن کو ہاتھ نہ لگایا گیا ہو
۳۲	۴۳	۱۸۳	اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے فراخ یا تنگ کر دیتا ہے	۳	۱	۶۵	۱۶۹	مطلقہ یا حیض عورتوں کے لئے عدت
۳۰	۱۶	۱۸۵	اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے بھی رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو	۴	۶	۶۵	۱۶۹	مطلقہ بیوہ یا حاملہ عورتوں کے لئے عدت
۳۸	۵۳	۱۸۵	اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے بھی رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو	۵	۶	۶۵	۱۶۹	مطلقہ عورت کی عدت کے دوران نگہداشت
۳۴	۳۰							حاملہ عورت کی عدت کے دوران نگہداشت
۳۶	۳۲							طلاق میں عدت کا شمار کیسے کیا جائے
۵۲	۳۹							
۳	۶۵	۱۸۵	مال دو لہتمندوں کے ہاتھوں میں نہ پھرتے رہنا چاہیئے	۷	۶	۶۵	۱۶۹	والد کی طرف سے بچے کی دیکھ بھال کرنے پر معاوضہ کی مقدار
۳۵-۳۴	۹	۱۸۶	سونا چاندی جمع کرنا تو عذاب الیم ہے	۸	۶	۶۵	۱۶۹	والد کی طرف سے بچے کی دیکھ بھال کرنے پر معاوضہ کی مقدار
۲۴-۲۰	۸۹	۱۸۶	مال کو بہت ہی عزیز رکھنا عین گمراہی ہے	۹	۶	۶۵	۱۶۹	والد کی طرف سے بچے کی دیکھ بھال کرنے پر معاوضہ کی مقدار
۲-۱	۱۰۲	۱۸۶	بہت مال کی طلب تو انسان کو غافل کر دیتی ہے	۱۰	۶	۶۵	۱۶۹	والد کی طرف سے بچے کی دیکھ بھال کرنے پر معاوضہ کی مقدار
۱۸-۱۶	۷۰	۱۸۶	مال کو جمع کر کے بند نہیں کرنا چاہیئے	۱۱	۶	۶۵	۱۶۹	والد کی طرف سے بچے کی دیکھ بھال کرنے پر معاوضہ کی مقدار
۴-۲	۱۰۳	۱۸۶	حرص سے مال جمع کر کے اس کو بار بار گننے والے توڑ پھوڑ کر نیوالی آگ (حطہ) میں ڈالے جائیں گے	۱۲	۶	۶۵	۱۶۹	والد کی طرف سے بچے کی دیکھ بھال کرنے پر معاوضہ کی مقدار

## متفرق

۲۲۲	۲	۱۸۰	حیض کے دوران بیوی سے تعلقات	۱۳	۶	۶۵	۱۶۹	والد کی طرف سے بچے کی دیکھ بھال کرنے پر معاوضہ کی مقدار
۳۵-۳۴	۹	۱۸۶	سونا چاندی جمع کرنا تو عذاب الیم ہے	۱۴	۶	۶۵	۱۶۹	والد کی طرف سے بچے کی دیکھ بھال کرنے پر معاوضہ کی مقدار
۲۴-۲۰	۸۹	۱۸۶	مال کو بہت ہی عزیز رکھنا عین گمراہی ہے	۱۵	۶	۶۵	۱۶۹	والد کی طرف سے بچے کی دیکھ بھال کرنے پر معاوضہ کی مقدار
۲-۱	۱۰۲	۱۸۶	بہت مال کی طلب تو انسان کو غافل کر دیتی ہے	۱۶	۶	۶۵	۱۶۹	والد کی طرف سے بچے کی دیکھ بھال کرنے پر معاوضہ کی مقدار
۱۸-۱۶	۷۰	۱۸۶	مال کو جمع کر کے بند نہیں کرنا چاہیئے	۱۷	۶	۶۵	۱۶۹	والد کی طرف سے بچے کی دیکھ بھال کرنے پر معاوضہ کی مقدار
۴-۲	۱۰۳	۱۸۶	حرص سے مال جمع کر کے اس کو بار بار گننے والے توڑ پھوڑ کر نیوالی آگ (حطہ) میں ڈالے جائیں گے	۱۸	۶	۶۵	۱۶۹	والد کی طرف سے بچے کی دیکھ بھال کرنے پر معاوضہ کی مقدار
۳۰	۲۴							نوںڈیوں کو قحبہ گری پر مجبور نہ کرو
۲۸-۲۷	۲۲							لواطت تو حد سے نکل جانا ہے
۳۱	۲۴	۱۸۲	عورتوں کے لئے پردہ کی حدود					متبنی

## پردہ کے احکام

۱	۲۶	۷	۱۸۱	انسان کے لئے لباس
۲	۳۰	۲۴	۱۸۱	مردوں کے لئے پردہ
۳	۲۸-۲۷	۲۲	۱۸۱	عورتوں کے لئے پردہ کی حدود

صفحہ	مضمون	صفحہ	حوالہ		صفحہ	مضمون	صفحہ
			سورت	آیت			
	<b>زکوٰۃ و عشر</b>						
	ملاحظہ فرمائیں عبادات صفحہ ۴۰						
	<b>صدقات</b>						
۲۶۱	۲	۱۹۵	۱	۲۴-۲۶	۱۴	۱۸۸	۱۱
۲۶۵	۲	۱۹۵	۲	۲۹	۱۴	۱۸۸	۱۲
۲۱۰-۲۱۱	۹۲		۳	۲۴۵	۲	۱۸۸	۱۳
۲۱۰-۲۱۱	۳۵	۱۹۶	۳	۲۴۵	۲	۱۸۸	۱۴
۱۰	۹۳	۱۹۶	۴	۲۹	۴	۱۸۸	۱۵
۱۰	۵۶	۱۹۶	۵	۴-۴	۸۳	۱۸۹	۱۶
۲۸۲	۲	۱۹۶	۶	۱۵۳-۱۵۳	۶		۱۷
۲۹۸	۲	۱۹۶	۷	۸۵	۴		۱۸
				۳۵	۱۴		۱۹
				۱۸۳-۱۸۱	۲۶		۲۰
				۹-۴	۵۵		۲۱
۳۷	۳۶	۱۹۷	۷	۲۸۲	۲	۱۹۰	۲۲
۵۲	۳	۱۹۷	۸	۲۸۳	۲	۱۹۱	۲۳
۱۰	۴۳						۲۴
۲۶۳	۲			۲۸۰	۲	۱۹۱	۲۵
۲۶۳	۲						۲۶
۲۶۳	۳	۱۹۷	۹				۲۷
۲۰۳	۶	۱۹۸	۱۰	۱۳۰	۳	۱۹۱	۲۸
۲۰۵	۲			۲۷۸	۲		۲۹
۱۰	۵۷			۲۷۵	۲	۱۹۲	۳۰
۱۰	۵۸						۳۱
۲۰	۵۹	۱۹۸	۱۱	۳۹	۳	۱۹۲	۳۲
۲۰	۶۰	۱۹۸	۱۲	۲۷۶	۲	۱۹۲	۳۳
۲۰	۶۱	۱۹۸	۱۳	۶۳-۶۲	۵	۱۹۲	۳۴
۲۰	۶۲	۱۹۹	۱۴	۲	۳	۱۹۳	۳۵
۲۴۳	۲	۱۹۹	۱۵	۱۸۸	۲	۱۹۳	۳۶
۳۸	۷	۲۰۰	۱۶	۴۲	۵	۱۹۳	۳۷
۳۷	۳	۲۰۰	۱۷	۱۶۸	۲	۱۹۳	۳۸
۷۵	۱۷	۲۰۰	۱۸	۸۸	۵	۱۹۳	۳۹
۷۵	۱۷	۲۰۰	۱۹	۱۱۳	۱۶	۱۹۳	۴۰
۷۵	۱۷	۲۰۰	۲۰	۵۸	۳	۱۹۳	۴۱
۷۵	۱۷	۲۰۰	۲۱	۸۶۱	۳	۱۹۳	۴۲
۷۵	۱۷	۲۰۰	۲۲	۵۲	۱۲	۱۹۳	۴۳
۷۵	۱۷	۲۰۰	۲۳	۱۶۱	۳	۱۹۳	۴۴

صفحہ	مضمون	حوالہ		صفحہ	مضمون	صفحہ
		سورۃ	آیت			

## سماجی زندگی آدابِ مجلس

۱۱	۵۸	۲۰۷	مجلسوں میں دوسروں کو جگہ دو	۱	۷۹	۹	۲۰۱
۵۳	۱۷	۲۰۷	پسندیدہ باتیں ہی کہو	۲	۷۵	۹	۲۰۱
۱۹	۳۱	۲۰۷	بول چال میں اعتدال رکھو	۳			
۳۶	۴	۲۰۷	تکبر نہ کرو اور نہ ہی بڑائی مارو	۴			
۱۴۸	۴	۲۰۸	ظالم کے سوا کسی کو منہ پھوڑ کر برا نہ کہو	۵			
۱۸	۳۱	۲۰۸	اپنے رویے میں غور سے اجتناب کرو	۶			
۱۱۲	۴	۲۰۸	اپنے گناہ کو دوسرے کے ذمہ نہ لگاؤ	۷	۱۰۶	۵	۲۰۲
۶	۴۹	۲۰۸	بدکردار کی لائی ہوئی خبر کی تحقیق کر لیا کرو	۸	۱۰۶	۵	۲۰۲
۳۶	۱۷	۲۰۸	ایسی بات نہ کہو جس کا علم نہ ہو	۹	۱۸۱	۲	۲۰۲
۱۱	۴۹	۲۰۹	نہ مذاق اڑاؤ نہ طعنہ دو اور نہ ہی برانا نام رکھو	۱۰	۱۰۸-۱۰۷	۵	
۱	۱۰۴	۲۰۹	طعنہ زنی اور چغلی خوری نہ کرو	۱۱	۷۵	۸	۲۰۳
۲۲۲	۲	۲۰۹	بات بات پر قسمیں نہ کھاؤ	۱۲			
۱۲	۴۹	۲۰۹	گمانِ حبس اور غیبت سے پرہیز کرو	۱۳	۷	۴	۲۰۳
۱۱۹	۹	۲۱۰	سچے لوگوں کا ساتھ دو	۱۴			
۱۰۱	۵	۲۱۰	گریہ گریہ نہ پوچھو	۱۵	۹-۸	۴	۲۰۳
۷۰	۳۳	۲۱۰	سیدھی بات کہا کرو	۱۶	۱۳-۱۱	۴	۲۰۳
۹	۵۸	۲۱۰	نیکی کی باتوں کے سوا آپس میں سرگوشیاں نہ کرو	۱۷	۱۷۷	۴	۲۰۶
۹۶	۲۳	۲۱۰	سخت کلامی کا جواب کیسے دو	۱۸	۳۳	۴	۲۰۶
۳-۲	۶۱	۲۱۰	ایسی بات نہ کہو جو خود کرتے نہیں	۱۹			
۲۳-۲۳	۱۸	۲۱۱	کسی کام کو کرنے کی نسبت میں انشاء اللہ کہو	۲۰			

۹	۲۰۰	۲۴	۲۰	صاحبِ فضل کو رشتہ داروں اور محتاجوں کے ساتھ ناراضگی کی حالت میں بھی خرچہ دینا چاہیے
۲۰	۲۰۱	۲	۲۹۲	خیرات احسان جتائے اور دکھ دیکھے بغیر دو
۲۱	۲۰۱	۹	۷۹	غریب کی خیرات کا مذاق نہ اڑاؤ
۲۲	۲۰۱	۹	۷۵	رزق و مال کی خواہش پوری ہونے پر اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے نیرات کے عہد کو پورا کرنا چاہیے

## احکامِ وصیت و وراثت

### وصیت

۱ وصیت کیسے کرنی چاہیے

۲ سفر کے دوران وصیت

۳ وصیت میں تبدیلی کے احکام

### وراثت

۴ لے پالک بیٹوں سے کیا رشتہ ہے

۵ خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے

زیادہ حقدار ہیں

۶ میت کے مال میں کس کس کو حق

پہنچتا ہے۔

۷ تقسیم کے وقت غریبوں کے ساتھ برتاؤ

۸ میت کے مال میں کس کس کو کتنا ملنا چاہیے

۹ ایسا مال میت جس کے نہ ماں باپ نہ اولاد

زندہ ہوں

۱۰ عہد و پیمان کے مطابق سب حقداروں

کو حصہ دو

صفحہ	مضمون	حوالہ		صفحہ	مضمون	صفحہ
		سورۃ	آیت			
۲۱۴	صبر کرنا اور قصور معاف کر دینا تو بہت کا کام ہے	۴۲	۴۳	۲۱۱	۲	۴۴
۲۱۴	غصہ کی حالت میں دوسروں کے قصور معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے	۴۲	۱۳۳	۲۱۱	۲	۴۴
۲۱۵	زیادہ بدلہ لینے کی فرض سے احسان نہیں کرنا چاہیے	۴۴	۶	۲۱۱	۴۹	۱۳
۲۱۵	راستبازوں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے	۹	۱۱۹	۲۱۱	۸	۴۶
۲۱۵	گھریلو زندگی میں کھانا کھانے اور میل جول کے آداب	۲۴	۶۱	۲۱۲	۳	۲۸
<b>سماجی تعلقات</b>						
۲۱۵	زنا تو بہت ہی برا فعل ہے	۱۴	۳۲	۲۱۲	۱۰۶	۶-۷
۲۱۹	زنا- بدکاری اور زنا کی جھوٹی تہمت کی سزائیں	۲۲	۲۳۲-۲۳۴	۲۱۳	۲۴	۲۹-۳۶
۲۱۹	شراب، جرابت اور پانسے یہ سب کام اعمالِ شیطان ہیں	۵	۹۱-۹۰	۲۱۳	۲۴	۶۱
۲۱۶	اللہ تعالیٰ نے اولاد اور دوسرے کے قتل کو حرام قرار دیا ہے	۶	۵۲	۲۱۳	۴	۸۶
۲۱۶	مسلمان کو قصداً قتل کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں جلتا رہے گا	۴	۹۳	۲۱۳	۱۶	۱۲۶
۲۱۸	چوری، فساد اور قتل کی سزائیں اور قصاص	۵	۳۳-۳۸	۲۱۳	۴۲	۴۱
۲۱۸	بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ	۴	۱۵۲	۲۱۳	۴۲	۴۱
۲۱۸	رشوت کی ممانعت کی گئی ہے	۲	۱۸۸	۲۱۳	۴۲	۴۲
۲۱۸	اللہ تعالیٰ نے بے حیائی اور نامتقول کام کرنے سے منع فرمایا ہے	۱۶	۹۰	۲۱۳	۴۲	۴۲
۲۱۱	اللہ تعالیٰ نے قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکیں	۲۱۱	۴۹	۲۱۱	۴۹	۱۳
۲۱۱	آپس میں جھگڑنے سے تمہارا اقبال بگڑے گا	۲۱۱	۸	۲۱۱	۸	۴۶
۲۱۲	مومنوں کو کافروں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے جب تک یہ شریعت سے بچنے کیلئے ضروری نہ ہو	۲۱۲	۳	۲۱۲	۳	۲۸
۲۱۲	اگر مومن بھائی آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرادو	۲۱۲	۹-۱۰	۲۱۲	۴۹	۱۰-۹
۲۱۲	رشتہ و قرابت کے تعلقات کو نہ بگاڑو	۲۱۲	۱	۲۱۲	۴	۱
۲۱۲	برتنے کی چیزیں ضرورت مند کو دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے	۲۱۲	۱۰۶	۲۱۲	۱۰۶	۶-۷
۲۱۳	دوسرے لوگوں کے گھروں میں اجازت لئے اور سلام کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے	۲۱۳	۲۴	۲۱۳	۲۴	۲۹-۳۶
۲۱۳	اپنے گھر میں داخل ہونے پر گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے	۲۱۳	۲۴	۲۱۳	۲۴	۶۱
۲۱۳	سلام کا جواب بہتر سلام سے دو	۲۱۳	۴	۲۱۳	۴	۸۶
۲۱۳	اگر بدلہ ہی لینا ہو تو کیسے لینا چاہیے	۲۱۳	۱۶	۲۱۳	۱۶	۱۲۶
۲۱۳	معاف کر دینے والے کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے	۲۱۳	۴۲	۲۱۳	۴۲	۴۲
۲۱۳	ظلم ہونے کے بعد بدلہ لینے کو جائز قرار دیا گیا ہے	۲۱۳	۴۲	۲۱۳	۴۲	۴۱
۲۱۳	لوگوں پر ظلم کرنے والوں کو عذاب ملے گا	۲۱۳	۴۲	۲۱۳	۴۲	۴۲

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	حوالہ		حوالہ	
				سورہ	آیت	سورہ	آیت
۲۲۲	کیا کافروں اور منافقوں کا کہا ماننا چاہیے	۲۱۸	مومنوں میں بے حیائی پھیلانے والوں کو دنیا اور	۲۴	۱۹	۲۱۸	آخرت دونوں میں عذاب سے گ
۲۲۲	غیر مسلم ایذا دین تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے	۲۱۸	جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے	۴	۵۴	۲۱۸	دسے رکھتا ہے ان سے حسد نہیں کرنا چاہیے
۲۲۳	کیا غیر مسلم کے معبود کو بڑا کہنا چاہیے	۲۱۹	پتے دل سے کمائی ہوئی قسموں کا حساب	۲	۲۲۵	۲۱۹	دینا ہوگا
۲۲۳	کیا غیر مسلموں کے ساتھ عہد و پیمانہ وفا کرنا چاہیے	۲۱۹	بہتان باندھنے والوں کے سروں پر گناہ	۳۳	۵۸	۲۱۹	کا بوجھ ہوگا
۲۲۳	جب غیر مسلم صلح کی طرف مائل ہوں تو کیا ان سے صلح کر لینی چاہیے	۲۱۹	جادو کرنے اور کروانے والوں کا آخرت	۲	۱۰۲	۲۱۹	میں کچھ حصہ نہیں
۲۲۳	کیا مشرک کو پناہ دینی چاہیے	۲۱۹	نذر برد ایک امر واقعہ ہونے کے باوجود	۱۲	۶۷	۲۱۹	اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں
۲۲۳	کیا اہل کتاب سے حج گزارنا چاہیے	۲۱۹	اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں	۲۸	۵۱	۲۱۹	دے سکتی
۲۲۳	اہل کتاب زیادتی کریں تو کیا کرنا چاہیے	۲۱۹	غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بناؤ	۴	۱۵۱-۱۵۰	۲۲۰	کافر کون ہیں
۲۲۳	اللہ نے کن لوگوں کو دوست بنانے سے منع فرمایا ہے	۲۱۹	دنیا کی اکثریت کا کہا مان لینے سے گراہ	۹	۶۷	۲۲۰	منافق کون ہیں
۲۲۳	منع فرمایا ہے	۲۱۹	مشرکوں کا خانہ کعبہ کے پاس جانا ممنوع قرار دیا گیا ہے	۵	۸۲	۲۲۱	مومنوں کے ساتھ دشمنی یا دوستی کرنے
۲۲۵	غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بناؤ	۲۱۹	مشرکوں کا خانہ کعبہ کے پاس جانا ممنوع قرار دیا گیا ہے	۱۴	۵۳	۲۲۱	والے غیر مسلم کون کون سے ہیں
۲۲۵	دنیا کی اکثریت کا کہا مان لینے سے گراہ ہو جاؤ گے	۲۱۹	مشرکوں کو کافروں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ یہ شر سے بچنے کے لئے ضروری نہ ہو	۱۴	۱۲۶	۲۲۱	مخالفین اسلام سے گفتگو کیسے کرنی چاہیے
۲۲۶	مشرکوں کا خانہ کعبہ کے پاس جانا ممنوع قرار دیا گیا ہے	۲۲۱	غیر مسلم سے کیسے لینا چاہیے	۱۴	۱۲۶	۲۲۱	تبلیغ کے دوران پہنچی ہوئی تکلیف کا بدلہ
۲۲۶	کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا چاہیے	۲۲۱	غیر مسلموں کے بارے میں اسلام کی واداری	۳	۸۳	۲۲۱	غیر مسلموں کے بارے میں اسلام کی واداری
۲۲۶	مومنوں کو کافروں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ یہ شر سے بچنے کے لئے ضروری نہ ہو	۲۲۱	دینی معاملات میں غیر مسلم کے ساتھ زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے	۲	۲۵۶	۲۲۲	دینی معاملات میں غیر مسلم کے ساتھ زبردستی
۲۲۶	اللہ تعالیٰ کی حلال قرار دی ہوئی چیزوں کو حرام نہ کرو	۲۲۲	کرنے کی اجازت نہیں ہے	۵۰	۲۵	۲۲۲	کرنے کی اجازت نہیں ہے

## حلال و حرام

صفحہ	مضمون	صفحہ	حوالہ		صفحہ	مضمون	صفحہ
			سورۃ	آیت			
۶۳	اللہ کے بندے تو زمین پر آہستہ چلتے اور جاہلوں کو (بحث میں پڑے بغیر) سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں	۲۲۲	۲	۵	۲۲۷	اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی مت کرو	۲
۳۵-۳۴	سخنت کلامی کا جواب اچھے طریقے سے دینا بڑے نصیب کی بات ہے	۲۳۳	۵	۱۲۰	۲۲۷	مجبوری کی حالت میں حرام چیزوں کا کھانا	۳
۱۲	مومنوں کے متعلق گمانی کی بجائے حسن ظن کا نام لینا چاہیے	۲۳۳	۶	۱	۲۲۸	مولشی قسم کے زیادہ ترچرنے والے چروپائے تم پر حلال قرار دیئے گئے ہیں	۵
۱۵۹	اللہ ہی کے بھروسہ پر کام کرنا چاہیے	۲۳۳	۷	۳	۲۲۸	سدھائے ہوئے جانوروں (اور تیر وغیرہ کو)	۶
۲۳	اللہ سچ بولنے والوں کو بدلہ دے گا	۲۳۳	۸			شکار پر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لینا چاہیے	
۷۲	بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرتے وقت بزرگانہ انداز قائم رکھنا چاہیے	۲۳۴	۹	۳	۲۲۸	درندے کا چھاڑا ہوا گوشت حلال ہے بشرطیکہ مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے	۷
۱۳	اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا کون ہے	۲۳۴	۱۰	۳۲	۲۲۹	دنیا میں زینت اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں ایمان والوں کے لئے ہیں	۸
	<b>اخلاقی برائیاں</b>						
۲۹	خودکشی حرام ہے	۲۳۴	۱	۳	۲۲۹	اللہ تعالیٰ نے چروپاؤں اور اونٹوں کے نر اور مادہ اور ان کے بیٹوں میں بچوں کو بھی حلال قرار دیا	۹
۲۲	اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے کو بدایت نہیں دیتا	۲۳۵	۲	۱۱۵	۲۳۰	حرام گوشت کو کن حالات میں کھایا جاسکتا ہے	۱۰
۳۱	لواطت تو حد سے نکل جانا ہے	۲۳۵	۳	۱۲۲	۲۳۰	احرام کی حالت میں شکار	۱۱
۱۹	اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے	۲۳۵	۴	۱۱۶	۲۳۱	جس جانور کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے کھانا حرام ہے	۱۲
۲۲۳-۲۲۱	شیاطین ہر جعل ساز بدکار پر اترتے ہیں	۲۳۵	۵			حرام اور حلال کے خود مختار نہ بنو	۱۳
۱۱	ریا کاری اور دکھاوے کی نیکیاں کرنے والوں کو عذاب ملے گا	۲۳۵	۶				
۹۱	پنختہ اور جان بوجھ کر کھائی ہوئی قسموں کو مت توڑو	۲۳۶	۷				
	<b>معاشرت حسن اخلاق</b>						
	عہد کرو تو اس کو پورا کرو	۲۳۲	۱	۱۷	۲۳۲	عہد کرو تو اس کو پورا کرو	۱
	اپنے اقرار کو پورا کرو	۲۳۲	۲	۸	۲۳۲	اپنے اقرار کو پورا کرو	۲
	اگر تم بدایت پر ہو تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا	۲۳۲	۳	۱۰۵	۲۳۲	اگر تم بدایت پر ہو تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا	۳

صفحہ	حوالہ		مضمون	صفحہ	حوالہ		مضمون
	سورۃ	آیت			سورۃ	آیت	

۲۳-۲۴	۱۷	۲۴۰	والدین کا بڑھاپے میں خاص ادب کرو	۹	۵۲	۱۲	۲۳۶	نفس تو انسان کو بُرائی کی طرف ہی راغب کرتا ہے
۱۵	۳۱	۲۴۱	والدین کا کس حالت میں بہانا مانو	۱۰				
۲۵	۱۷	۲۴۱	اولاد سے بھول کر کوئی فریاد نہ کرنا اور توبہ کرنا	۱۱	۴۰-۴۱	۷۹	۲۳۶	نفس کو بُری خواہشات سے باز رکھنے والے جنت میں ہوں گے
۲۴	۱۷	۲۴۱	اولاد کو ماں باپ کے لئے دعا کرنی چاہیے	۱۲	۳۶	۴۱	۲۳۶	شیطان کے فریب سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے

## بیوی کے ساتھ سلوک

۱۹	۴	۲۴۱	بیوی کے ساتھ تعذبات میں صبر و تحمل رکھنے کا حکم	۱۳				
----	---	-----	---	----	--	--	--	--

## رشتہ داروں کے ساتھ سلوک

۲۶	۱۷	۲۴۲	رشتہ داروں کے ساتھ سلوک	۱۳	۶	۶۶	۲۳۷	خاندان کے سربراہ کو اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے
۹۰	۱۶							
۲۲	۲۲							
۹-۸	۴							
۷۵	۸	۲۴۳	خون کے رشتہ داروں کا ایک دوسرے پر زیادہ حق ہے	۱۵				

## یتیموں کے ساتھ سلوک

۲	۴				۱۵	۲۶	۲۳۷	نیک والدین کی نیک اولاد کے لئے دعا
۲۲۰	۲	۲۴۳	یتیموں کے مال کی حفاظت	۱۲	۴۰	۱۳		بچے کو دودھ پلانے کی میناد
۶-۵	۴				۱۵	۲۶	۲۳۸	مال اور اولاد کی وجہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے
۱۰	۴				۲۶	۱۸		
۱۲۷	۴	۲۴۴	یتیم عورتوں اور بچوں کے ساتھ سلوک	۱۷	۹	۶۳	۲۳۸	بعض عورتیں اور اولاد دشمن بھی ہوتے ہیں
		۲۴۴	یتیموں کے ساتھ بڑاؤ	۱۸	۶۰-۶۵	۲۳	۲۳۹	صالح بیویاں اور اولاد جنت میں نیکوں کے ساتھ مل جائیں گی

## دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک

۳۰	۴	۲۴۵	رشتہ دار ہمسائے اجنبی ہمسائے اور رُفقائے پہلو کے ساتھ سلوک	۱۹				
۷	۱۷				۱۸۰	۲	۲۳۹	اولاد کے مال میں والدین کا حق
۷۷	۲	۲۴۵	مساکین، غریب، فقرا اور محتاجوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے	۲۰	۲۱۵	۲		
۸	۳				۸۳	۲	۲۳۹	والدین کے ساتھ نیکی احسان اور بھلائی کا سلوک کرو
۱۰	۹۳				۱۵۲	۲		
۳۸	۷				۱۵	۲۶		
					۲۳	۱۷		
					۱۳	۳۱		

## حقوق العباد

### خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری

۱								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

### اولاد کے ساتھ سلوک

۲								
۳								
۴								
۵								
۶								

### والدین کے ساتھ سلوک

۷								
۸								



صفحہ	مضمون	صفحہ	حوالہ		صفحہ	مضمون	صفحہ
			آیت	سورہ			

۲۱	قیدی کے ساتھ سلوک	۲۴۶	۸	۶۶	۱۲	جو پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگائیں ان کی	۲۵۲	۲۰	۴
۲۲	مسافر کے ساتھ سلوک	۲۴۶	۲	۲۱۵		کو ابی کبھی قبول نہ کرو			
۲۳	لونڈی اور غلام کے ساتھ سلوک	۲۴۶	۳	۳۶	۱۳	اہل کتاب کے تنازعات میں رسولؐ کو	۲۵۲	۵	۲۲
۲۴	ضرورت مندوں کے ساتھ سلوک	۲۴۶	۱۶	۳۳		فیصلہ یا عدم فیصلہ کا اختیار دیا گیا			
۲۵	مقروض کے ساتھ سلوک	۲۴۶	۲	۲۸۰	۱۳	دغا بازوں اور متکبر جرائم کی نکالت	۲۵۲	۴	۱۵
۲۶	غریب کو کھانا کھلانا	۲۴۶	۸-۹	۱۸-۱۶	۱۵	فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے	۲۵۳	۴	۵۱
			۹۰	۱۹-۱۲	۱۶	اچھی اور بُری سفارش کا اجر	۲۵۳	۴	۵۵
			۱۰۶	۳-۱					

## زنا اور قذف

## قانون و عدالت

### شہادت و عدل

۱	اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے	۲۴۹	۵	۲۹	۱	سورہ نور شمارہ ۲۴ کے احکام کو	۲۵۳	۲۴	۲۴
۲	سچی گواہی دو اور انصاف پر قائم رہو	۲۴۹	۴	۱۳۵	۲	فرض قرار دیا گیا ہے			
۳	لوگوں کی دشمنی میں بھی انصاف پر قائم رہو	۲۴۹	۵	۸	۳	زنا و بدکاری کی ممانعت	۲۵۳	۱۶	۳۲
۴	جھوٹی گواہی مت دو اور شہادت پر قائم رہو	۲۵۰	۲۵	۶۲	۴	زنا کاری تو حد سے گزر جاتا ہے	۲۵۳	۲۳	۸-۵
۵	شہادت کو چھبانا نہیں چاہیے	۲۵۰	۲	۲۸۳		زنا و بدکاری کرنے والے مرد و عورت	۲۵۳	۲۲	۰
۶	کاروباری معاملات میں دو مرد یا ایک مرد اور	۲۵۰	۲	۲۸۲	۵	زنا کی جھوٹی تہمت لگانے پر سزا	۲۵۵	۲۲	۰-۰-۲
	دو عورتوں کی گواہی لے لو				۶	زنا کی تہمت لگانے والوں کی گواہی تو بہ	۲۵۵	۲۴	۵
۷	اگر پاکیزہ عورتوں کو بدکاری کا عیب لگانا ہو	۲۵۱	۲۴	۴		اور اصلاح کے بعد ہی ممکن ہے			
	تو چار گواہ پیش کرنا لازم ہے				۷	ناپاک اور بدکار مرد اور عورتوں کا نکاح	۲۵۵	۲۴	۳۰-۲۰
۸	اگر چار گواہ نہ لائے جاسکیں تو کیا کرنا چاہیے	۲۵۱	۲۴	۹-۶	۸	مکسور لونڈیوں کے زنا کی سزا آزاد عورتوں	۲۵۵	۳	۲۵
۹	وصیت کے لئے گواہی لازم ہے	۲۵۱	۵	۱۰۸-۱۰۶		سے نصف ہے			
۱۰	دو دفعہ طلاق دینے کے بعد زوجیت میں	۲۵۱	۶۵	۲	۹	خاوند بیوی پر زنا کی تہمت لگانے تو کیا	۲۵۶	۲۴	۷-۶
	لینے کے لئے گواہی لازم ہے					ثبوت ہونا چاہیے			
۱۱	اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے	۲۵۱	۱۴	۲۷	۱۰	عورت کی برأت کیسے ہو سکتی ہے	۲۵۶	۲۲	۷-۸

صفحہ	مضمون		صفحہ	مضمون	
	سورت	آیت		سورت	آیت
۲۱۶	۲	۲۶۲	۲۵۶	۲۶	۱۶۶-۱۶۵
۹	۶۶	۲۶۲	۲۵۶	۳	۱۶
۷۸	۲۲	۲۶۳	۲۵۶	۳	۱۶
۷۵	۴	۲۶۳	۲۵۶	۳	۱۶
۱۱-۱۰	۶۱	۲۶۳	۲۵۶	۳	۱۶
۲۳	۹	۲۶۳	۲۵۶	۳	۱۶
۱۵	۴۹	۲۶۳	۲۵۶	۳	۱۶
۲۰	۹	۲۶۳	۲۵۶	۳	۱۶
۹۷	۳	۲۶۳	۲۵۶	۳	۱۶
۱۰	۵۷	۲۶۵	۲۵۸	۱۷	۳۳
۸۲-۸۱	۹	۲۶۵	۲۵۸	۲	۱۷۹-۱۷۸
۸۲		۲۶۵	۲۵۹	۵	۳۵
۹۳-۹۱	۹	۲۶۵	۲۵۹	۴	۹۲
۱۷	۴۸	۲۶۶	۲۶۰	۲	۱۶۳
۱۹۵	۳	۲۶۶	۲۶۰	۵	۳۳
۱۵۸-۱۵۷	۳	۲۶۶	۲۶۰	۱۰	۳۳
۱۵۴	۲	۲۶۶	۲۶۱	۵	۸۹
۱۷۱-۱۶۹	۳	۲۶۶	۲۶۱	۵۸	۴-۲
۷۴	۴	۲۶۶	۲۶۱	۵	۹۵
۹۳	۹	۲۶۶	۲۶۱	۲	۱۸۵
۹۳	۹	۲۶۶	۲۶۲	۲	۹۶-۹۵

## قصاص و حد و شرعیہ

۱ اپنے آپ کو فتنہ اور فساد سے بچاؤ

۲ فساد برپا کرنے کی ممانعت ہے

۳ چور کو کیا سزا ملنی چاہیے

۴ قتل کی ممانعت - قاتل تو جہنمی ہوگا

۵ وارث کو قاتل سے قصاص لینے کا اختیار ہے

۶ قتل کے لئے سزا و قصاص اور خون بہا

۷ زخم رسانی کی صورت میں بھی قصاص ہے

۸ مومن کے خطا قتل ہو جانے پر خون بہا و کفارہ

۹ دست درازی کا بدلہ لینے کی حد

۱۰ اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت

۱۱ اللہ تعالیٰ نے ملک میں بد امنی پھیلانے والوں

کے لئے رسوائی اور عذاب مقرر فرمایا ہے

## دیات و کفارات

۱ قابل مواخذہ قسم کا کفارہ

۲ اپنی بیوی کو ماں کہہ دینے کی صورت میں کفارہ

۳ احرام کی حالت میں شکار کر لینے کا کفارہ

۴ روزے کی قضا اور کفارہ

## دفاع

## جہاد و ہجرت

۱ اللہ تعالیٰ نے طان وائل کھاتہ جہاد کرنے والوں کو فضیلت بخش ہے

صفحہ	مضمون		صفحہ	مضمون	
	سورۃ	آیت		سورۃ	آیت

صفحہ	سورۃ	آیت	مضمون	صفحہ	سورۃ	آیت	مضمون
۱۶	۲۷۳	۴۰	کافروں سے جنگ کھینے کی جائے اور قیہ لیں	۱۶	۲۶۸	۹	سال کے چار مہینوں کی حرمت (نسہ)
			سے کیسا سلوک ہونا چاہئے				
۱۵	۲۷۳	۲	لڑائی میں صبر اور فتح کے لئے اللہ تعالیٰ سے	۱۷	۲۶۸	۵	دفاعی تیاریوں کے متعلق احکام
			دُعا بھی مانگو				
۳۱	۲۷۳	۴۰	جنگ میں ثابت قدم رہو	۱۸	۲۶۹	۲	اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے وقت سیسہ پلائی
۱۵۴		۲					
۴۶-۴۵	۲۷۳	۱	جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ	۱۹			ہوئی دیواریں بن جاؤ
			کا ذکر کثرت سے کرو اور ثابت قدمی اور صبر				
			کام لو تاکہ گنہگار نہ بنے	۱۹	۲۶۹	۲	اسلام میں جارحانہ جنگ ممنوع ہے
۲۰	۲۷۳	۳	اللہ تعالیٰ ہمت نہ ہرنے، بزدلی نہ دکھانے اور	۲۰	۲۶۹	۸	آپس میں جھگڑنے سے کمزوری اور بزدلی
			نہ ہی کافروں سے ڈبے یعنی استقلال				پیدا ہوگی
			رکھنے والوں کو دوست رکھنا ہے				
۱۵	۲۷۳	۸	لڑائی سے بھاگنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ	۲۱	۲۶۹	۲۲	اگر تم پر خواہ مخواہ لڑائی ٹھونس جائے تو
			ہوگا سوائے ان کے جو کہ جنگی پیال کے طور پر				تم بھی لڑو
			ایسا کریں				
۱۵	۲۷۳	۴۲	ظلم کا بدلہ تو مٹا سب طاقت سے ہی لینا چاہئے	۲۱	۲۷۰	۴	بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں پر ظلم کے خلاف
							لڑائی کرو
۱۵۳	۲۷۳	۲	لڑائی میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے	۲۱	۲۷۰	۴	مشرکوں کے بھی ساتھ کئے ہوئے عہد کو وفا کرو
۱۵۳	۲۷۳	۸	دشمن کے صلح کی طرف مائل ہونے پر تم	۲۱	۲۷۰	۸	صلح کا کیا ہو عہد بار بار توڑنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو
			بھی مائل ہو جاؤ				
۳۵	۲۷۳	۳	مومنوں کو کسی کا زہنی شکست سے میل	۲۱	۲۷۰	۸	دوسری قوموں سے کئے ہوئے عہد میں خیانت
			یا غمزدار نہ ہونا چاہئے				
۴۰	۲۷۳	۸	انگلوں، مسلمانوں کی مادیوں کو غیر مسلم کے	۲۱	۲۷۰	۸	کا خوف ہو تو عہد کو ان کی طرف پھینک دو
			ساتھ معاہدہ نہ کرنا ہے جو تو فوقیت معاہدہ				
			ہی کو دو				
۴۰	۲۷۳	۲	کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو	۲۱	۲۷۰	۸	لڑائی کے لئے ٹولیوں میں یا اکٹھے ہو کر
							بڑھا کرو
۳۵	۲۷۳	۲	کمزوری کی وجہ سے دشمنوں کو صلح کی طرف	۲۱	۲۷۰	۸	کافروں پر غالب آنے کا انحصار ایمان کی
			معاہدہ نہ کرنا چاہئے				قوت مقدار پر ہے
۳۵	۲۷۳	۲	کمزوری کی وجہ سے دشمنوں کو صلح کی طرف	۲۱	۲۷۰	۸	بدر کردار کی لائی ہوئی جذبہ کی تحقیق کر لینی چاہیے
			معاہدہ نہ کرنا چاہئے				
۳۵	۲۷۳	۲	کمزوری کی وجہ سے دشمنوں کو صلح کی طرف	۲۱	۲۷۰	۸	مومنوں کی قوت ایمان میں طاقتور دشمن کو
			معاہدہ نہ کرنا چاہئے				دیکھ کر افسانہ اور جوصلے بند ہو جاتے ہیں
۳۵	۲۷۳	۲	کمزوری کی وجہ سے دشمنوں کو صلح کی طرف	۲۱	۲۷۰	۸	نزدیک کے کافروں پر اپنی سختی کا خون بڑی جنگ لڑو
			معاہدہ نہ کرنا چاہئے				

صفحہ	حوالہ		مضمون	صفحہ	حوالہ		مضمون	صفحہ
	سورت	آیت			سورت	آیت		
۲۸۰	۶	۱۶۶	اللہ تعالیٰ تو ایک کے دوسرے پر درجے بند کر کے آزمائش میں ڈالتا ہے	۲۷۶	۸	۶۹	لڑائی میں حاصل کئے مالِ غنیمت کی تفسیر کیسے ہونی چاہیے	۲۹
۲۸۱	۲۸	۱۳	آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو اللہ سہی کی ہے	۲۷۶	۹	۶	مشرک پناہ کا خواستکار ہو تو اس کو پناہ دے دو	۳۰
۲۸۱	۲	۲۴۷	اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہی بخشے ہے	۲۷۷	۵۶	۱۰-۶	ارضی مفقود اور جائیداد دینے پر کن مصرف کیلئے مخصوص کی جانی چاہیے	۳۱
۲۸۱	۲	۱۰۳	اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پڑے رکھو اور اتحاد قائم کرو	۲۷۷	۲۹	۹	مومنوں کے دو ذوق آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کرنا چاہیے	۳۲
۲۸۱	۶	۱۱۷	زمین پر اکثریت تو لوگوں کی ہے	۲۷۸	۳	۲۸	مومنوں کو کافروں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ یہ شر سے بچنے کے لئے ضروری نہ ہو	۳۳
۲۸۲	۲۳	۵۵	اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو حاکم بنا دینے کا وعدہ فرمایا ہے	۲۷۸	۴	۱۰۲	میدانِ جنگ میں نماز کیسے ادا کرنی چاہیے	۳۴
۲۸۲	۴	۵۹	اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور ان کے احکام کی پیروی کرنے والے صاحبِ حکومت کی اطاعت لازم ہے	۲۷۹	۴	۸۲	دشمن کے متعلق خبر کو اپنے ذمہ دار افسر کے پاس ہی پہنچانا چاہیے	۳۵
۲۸۲	۱۸	۲۸	کیسے حاکم کی فرمانبرداری نہیں کرنی چاہیے	۲۷۹	۱۶	۸۱	اللہ تعالیٰ نے پناہ گاہیں، غاریں، لباس اور زہریں بنائیں تاکہ تم اپنے آپ کو جنگ کے غزیر سے محفوظ رکھ سکو	۳۶
۲۸۲	۲	۱۵۹	مشاورتِ اسلامی طرزِ زندگی کا اہم جزو ہے	۲۷۹	۵۷	۲۵	اللہ تعالیٰ نے موبایا پیدا کیا تاکہ اس انتہائی طاقتور دھنات سے اسلحہ جنگ اور دوسری ضروریاتِ زندگی بنائی جاسکیں	۳۷
۲۸۳	۴	۱۱۲	کیسے لوگوں کی مشورت بہتر سمجھی جانی چاہیے	۲۸۰	۳	۲۶	بادشاہی، عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے	۱
۲۸۳	۵	۲۸	تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کرو	۲۸۰	۳	۲۶	اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے	۲
۲۸۳	۲۳	۳۶	اللہ تعالیٰ اور رسول کے مقرر کئے ہوئے احکام میں کسی اور کو کچھ اختیار نہیں ہے	۲۸۰	۳	۲۶	اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے	۲
۲۸۳	۳	۱۰۳	اختلافات کی صورت میں اللہ تعالیٰ اور رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو	۲۸۰	۳	۲۶	اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے	۲
۲۸۳	۲۲	۱۰۳	اقتدارِ ملنے پر نیکی کا حکم داور بُرائی سے منع کرو	۲۸۰	۳	۲۶	اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے	۲
۲۸۳	۵	۲	کونسے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی اور کونسے میں نہیں کرنی چاہیے	۲۸۰	۴	۱۶۶	اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے	۲

## سیاست

صفحہ	مضمون	صفحہ	حوالہ		صفحہ	مضمون	صفحہ
			سورۃ	آیت			
۲۸۸	قوموں کی آسائشوں اور تلیفوں سے آزمائش کی جاتی ہے	۲۸۴	۲۶	۳۸	۱۸	جب حکومت ملے تو انصاف سے کام لو اور خرابیوں کی پیروی مت کرو	۱۹۸
۲۸۹	مسلمانوں کے زوال کی چند وجوہات	۲۸۵	۵۸	۸	۱۹	دوسری قوموں سے کئے ہوئے معاہدے میں خیانت کا خوف ہو تو معاہدے کو ان کی طرف پھینک دو	۱۹۸-۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵
۲۹۰	آثارِ قدیمہ سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے	۲۸۵	۹۰	۱۶	۲۰	اللہ تعالیٰ نے بغاوت یا سرکشی کرنے سے منع فرمایا ہے	۱۰۰-۱۰۱
۲۹۰	لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں	۲۹۰	۱۲				۲۰۲
۲۹۱	مسلمانوں کے عروج حاصل کرنے کی چند شرائط	۲۸۵	۷۷	۲۸	۲۱	اللہ تعالیٰ ملک میں فساد کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے	۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵
۲۹۱	اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا	۲۹۱	۱۳				۲۰۶
۲۹۲	ملک کی وراثت اور حاکمیت کن کو ملتی ہے	۲۸۶	۵۳	۸	۱	کسی قوم کی حالت کیسے بدل سکتی ہے	۱۰۵ ۱۰۶
۲۹۲	دنیا کی دوسری قوموں کی شان و شوکت سے دھوکا نہ کھاؤ	۲۸۶	۹۷	۱۶	۲	مومن کی نیک عمل کرنے سے آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا بھی بنتی ہے	۱۰۷-۱۰۸
۲۹۳	تقدویٰ اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے	۲۸۷	۵-۳	۱۵	۳	قوموں کو اپنے آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے مہلت کی حد مقرر کر دی جاتی ہے	۱۰۹
۲۹۳	اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بغیر وجہ اور خبردار کرنے کے تباہ نہیں کرے گا	۲۸۷	۲۳-۲۲	۲۳	۴	کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوتی ہے اور نہ اُس کے بعد ٹھہرتی ہے	۱۱۰-۱۱۱
۲۹۳	اللہ تعالیٰ نے پیغامِ توحید پہنچانے کے لئے دنیا کی ہر قوم میں پیغمبر بھیجے ہیں	۲۸۷	۱۳۲	۴	۵	کفرانِ نعمت کرنے والی قوموں سے کیا سلوک کیا جاتا ہے	۱۱۲
۲۹۳	اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا گیا ہے	۲۸۸	۵۸	۲۸	۶	معیشت پر اترانے والے لوگوں کی بستیاں تباہ کر دی گئیں	۱۱۳
		۲۸۸	۵۸	۱۷	۷	کفر کرنے والوں کی برستی کو ہلاک کیا یا عذاب دیا جائے گا	
		۲۸۸	۳۷	۴۴	۸	اخلاقی زوال کے نتائج سے کوئی قوم نہیں بچ سکتی ہے	

صفحہ	مضمون	صفحہ	حوالہ		صفحہ	مضمون	صفحہ
			سورۃ	آیت			

## کائناتی علوم تخلیق کائنات

۲۲	۲۴۸	۱۱	۱۱۷	۲	۲۹۵	۱	بہتر کیسے وقوع پذیر ہوتی ہیں
۲۲	۲۴۸	۱۲	۵۴	۷	۲۹۵	۲	اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو جوڑنے میں پیدا کیا
۲۲	۲۹۹	۱۳	۲۹	۲	۲۹۵	۳	ستونوں کے بغیر آسمان، چاند کو زمین کا نور اور سورج کو چراغ بنایا
۲۲	۲۹۹	۱۴	۲	۱۳	۲۹۵	۴	اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اپنے زور سے بنایا اور زمین کو فرش کے طور پر بچھایا
۲۲	۲۹۹	۱۵	۱۸	۲۳	۲۹۶	۵	سمندر، بحیرے اور آبِ زیر زمین کی پیدائش
۲۲	۳۰۰	۱۶	۱۸	۲۳	۲۹۶	۶	انسان اور جنات کی پیدائش
۲۲	۳۰۰	۱۷	۹	۳۲	۲۹۷	۷	آفرینش کے وقت اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح پھونک دی
۲۲	۳۰۱	۱۸	۶	۳۹	۲۹۷	۸	اللہ تعالیٰ نے نسلِ انسانی کو ایک فرد واحد سے پیدا کیا
۲۲	۳۰۱	۱۹	۶	۳۹	۲۹۷	۹	اللہ تعالیٰ نے پچھلے پچھلے میں تین اندھیروں (ایٹ، رحم اور شیم) کے اندر شکیں دیتا چلا جاتا ہے
۲۲	۳۰۲	۲۰	۶	۳۹	۲۹۷	۱۰	انسان اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو میٹھی اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے
۲۲	۳۰۳	۲۱	۷	۳۹	۲۹۷	۱۱	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا
۲۲	۳۰۳	۲۲	۷	۳۹	۲۹۷	۱۲	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا
۲۲	۳۰۳	۲۳	۷	۳۹	۲۹۷	۱۳	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا
۲۲	۳۰۳	۲۴	۷	۳۹	۲۹۷	۱۴	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا
۲۲	۳۰۳	۲۵	۷	۳۹	۲۹۷	۱۵	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا
۲۲	۳۰۳	۲۶	۷	۳۹	۲۹۷	۱۶	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا
۲۲	۳۰۳	۲۷	۷	۳۹	۲۹۷	۱۷	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا
۲۲	۳۰۳	۲۸	۷	۳۹	۲۹۷	۱۸	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا
۲۲	۳۰۳	۲۹	۷	۳۹	۲۹۷	۱۹	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا
۲۲	۳۰۳	۳۰	۷	۳۹	۲۹۷	۲۰	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا
۲۲	۳۰۳	۳۱	۷	۳۹	۲۹۷	۲۱	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا
۲۲	۳۰۳	۳۲	۷	۳۹	۲۹۷	۲۲	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا
۲۲	۳۰۳	۳۳	۷	۳۹	۲۹۷	۲۳	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا
۲۲	۳۰۳	۳۴	۷	۳۹	۲۹۷	۲۴	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا
۲۲	۳۰۳	۳۵	۷	۳۹	۲۹۷	۲۵	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا
۲۲	۳۰۳	۳۶	۷	۳۹	۲۹۷	۲۶	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا
۲۲	۳۰۳	۳۷	۷	۳۹	۲۹۷	۲۷	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا
۲۲	۳۰۳	۳۸	۷	۳۹	۲۹۷	۲۸	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا
۲۲	۳۰۳	۳۹	۷	۳۹	۲۹۷	۲۹	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا
۲۲	۳۰۳	۴۰	۷	۳۹	۲۹۷	۳۰	اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی نوع انسان کے قابو میں کر دیا

## غور و فکر کیلئے قدرت کی نشانیاں

## انسانوں جنوں اور حیوانوں کی پیدائش

صفحہ	مضمون	صفحہ	حوالہ		صفحہ	مضمون	صفحہ
			سورۃ	آیت			
۱۶-۱۵	اللہ تعالیٰ نے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کے لئے زمین رستے، زمینی نشانات اور ستارے بنا دیئے	۳۰۸	۱۶	۱۳	۳۰۳	۲۵	اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں سب کو انسان کے کام میں لگا دیا ہے
۶	اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو جنکوں اور ریاضوں سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کے لئے بنایا	۳۰۸	۶	۱۴	۳۰۳	۲۶	اللہ تعالیٰ نے دریا (سمندر) کو انسان کے قابو میں کر دیا ہے
۲۰-۱۹	اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے چار پائے پیدا کئے تاکہ وہ بعض کو کھائیں اور بعض پر سواری کریں	۳۰۸	۲۰	۲۳	۳۰۳	۲۷	اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حاصل کردہ طاقت کے ذریعے بیرونی خلائق میں اپنی رضامندی کی حد تک نکل جانے کی اجازت دی ہوئی ہے
۲۳	اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کو روغن سلان کے لئے اگایا	۳۰۹	۲۳	۱۲	۳۰۳	۲۸	زمین اور آسمانوں کے جملہ مظاہر پر سے گزرنے کے باوجود انسانوں کی اکثریت ان پر غور و فکر نہیں کرتی
۶	اللہ تعالیٰ نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو ذرا لے شمار بنایا	۳۰۹	۶	۱۹	۳۰۵	۲۹	اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے اور اس کو دیکھنے والوں کے لئے سجا دیا
۳۱	یہ تو ہے اللہ کی تخلیق اب اس کے سوازیں ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے	۳۰۹	۳۱	۱۵	۳۰۵	۳۰	آسمانوں کی حفاظت
۱۰	بھلا کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو ابتدا پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے	۳۰۹	۱۰	۱۸-۱۶	۳۰۵	۳۱	اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ برسوں کا شمار ہو سکے
۱۹	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی ناممکن ہے	۳۱۰	۱۹	۲۱	۳۰۶	۳۲	اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے بارہ مہینے ہیں
۱۶	تمام کائنات کا اللہ تعالیٰ کے لئے تسبیح کرنا انسان کی عقل و فہم سے باہر ہے	۳۱۰	۱۶	۲۲	۳۰۶	۳۳	زمین کی رفتار اور توازن میں انضباط پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ اور ان میں رستوں کے لئے گھاٹیاں بنا دیں
۵۵	بڑیاں اور درخت بھی اللہ تعالیٰ کو سجد کرتے ہیں	۳۱۰	۵۵	۲۱	۳۰۶	۳۴	اللہ تعالیٰ نے سورج کا راستہ اور چاند کی منزلیں مقرر کر دیں اور سب اپنے اپنے دائرے میں وقت مقرر تک تیرتے رہیں گے
۵-۱	فرشتے ہی دنیا کا تمام نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلا رہے ہیں	۳۱۰	۵-۱	۲۲-۲۱	۳۰۶	۳۵	اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں
۵۰	اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا تاکہ اس انتہائی طاقتور وحی سے اسلحہ جنگ اور دوسری ضروریات زندگی بنائی جاسکیں	۳۱۱	۵۰	۲۲	۳۰۶	۳۶	اللہ تعالیٰ بادلوں سے مینہ اور بجلی اور پہاڑوں سے جہاں بھی چاہتا ہے اودے نازل کرتا ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	حوالہ		صفحہ	مضمون
				سورۃ	آیت		
۳۱۶	دوبارہ زندہ ہونے پر انسان خیال کرے گا کہ وہ دنیا میں تو گھڑی بھر ہی رہا تھا اور وہ ایک دوسرے کو شناخت بھی کرے گا	۱۲	۸	۱۶	۳۱۱	اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی انسان کو خبر نہیں ہے	
۳۱۷	ہر انسان اپنے دونوں فرشتوں کے ساتھ عدالتِ الہی میں پیش ہوگا	۱۳	۲۷	۳۱	۳۱۱	اللہ تعالیٰ کی باتوں کی وسعت کیا ہے	
۳۱۷	ہر ایک کو اس کی اپنی اپنی کتاب عمل دکھائی جائے گی	۱۴	۸	۳۰	۳۱۲	کائنات مقدرہ وقت کے لئے پیدا کی گئی ہے	
۳۱۸	گنہگار ایک اور موقع لینے کی خواہش کریں گے	۱۵	۵-۳	۳۲	۳۱۲	نیکی کا انعام در بدری کی سزا دینے کے لئے قیامت کا نام ضروری ہے	
۳۱۸	قیامت کے دن ہر ایک کو انصاف کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا	۱۶	۱۸۷	۷	۳۱۲	قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے	
۳۱۸	سفارش کا اختیار کن کو ہوگا	۱۷	۶۳	۲۲	۳۱۳	شاید قیامت قریب ہی آگئی ہو	
۳۱۹	وقوع قیامت کے بعد انسان کی گروہوں میں منقسم کر دیئے جائیں گے	۱۸	۲۷	۲۲	۳۱۳	کائنات منسوب بندگی کے اوقات کا حساب انسان کی عقل و فہم سے باہر ہے	
۳۱۹	آگے بڑھنے والے جنت کے کونسے باغ میں داخل کئے جائیں گے (پہلی قسم)	۱۹	۱۵	۲۰	۳۱۳	قیامت کو خفیہ رکھنا تاکہ عمل کا بدلہ صحیح دیا جائے	
۳۲۰	دائیں ہاتھ والے جنت کے کونسے باغ میں داخل کئے جائیں گے (دوسری قسم)	۲۰	۱	۲۲	۳۱۳	قیامت ایک عظیم حادثہ ہے جو بڑا سخت اور تلخ ہوگا	
۳۲۰	بائیں ہاتھ والے کہاں ہوں گے (تیسری قسم)	۲۱	۲-۳	۷۵	۳۱۴	انسانوں کو دوبارہ زندہ کئے جانے پر ایمان نہ رکھنے والے قیامت کے روز گھاٹے میں رہیں گے	
۳۲۱	بہشت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد پر اصحاب الاعراف ہوں گے (چوتھی قسم)	۲۲	۵۱	۱۷	۳۱۴	قیامت آنے سے پہلے کی کچھ نشانیاں	
۳۲۱	بہشت کا بیان	۲۳	۹۷-۹۵	۲۱	۳۱۴	قیامت کا دن	
۳۲۲	بہشت میں داخلہ	۲۴	۵۰-۴۹	۳۶	۳۱۵		
۳۲۳	جہنم یا دوزخ کا بیان	۲۵	۱۳	۶۹	۳۱۵		
۳۲۳	کافروں کا جہنم میں داخلہ	۲۶	۵-۴	۱۰۱	۳۱۶	قیامت کے آنے پر انسانوں کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا	
۳۲۵	پھر دوزخ سے پوچھا جائیگا کیا تو بھر گئی	۲۷	۶۸	۳۹	۳۱۶		



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## INTRODUCTION TO THE QUR'AN

### 1. FOR WHOM IS THIS BOOK OF GUIDANCE

2. This is the scripture whereof there is no doubt, a guidance unto those who ward off (evil). 3. Who believe in the unseen, and establish worship, and spend of that We have bestowed upon them; 4. And who believe in that which is revealed unto thee (Muhammad) and that which was revealed before thee, and are certain of the Hereafter. 5. These depend on guidance from their Lord. These are the successful. 6. As for the disbelievers, whether thou warn them or thou warn them, not it is all one for them; they believe not. 7. Allah hath sealed their hearing and their hearts, and on their eyes there is a covering. Theirs will be an awful doom.

(II - 2 - 7) P

O people of the Scripture! Now hath Our Messenger come unto you, expanding unto you that which ye used to conceal in the Scripture, and bringing much. Now hath come unto you light from Allah and a plain Scripture.

(V - 15) P

### 2. WHO SHALL BE GUIDED

Those who disbelieve say, If

## تعریف القرآن

۱۔ من یمہد ید هذا الكتاب

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى  
لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ  
وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝  
وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا  
اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۝ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ  
يُوقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ  
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ  
كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ  
تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى  
قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ  
غَشَاوَةً ۝ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

(۷ - ۲: ۲)

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا  
يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ  
مِّنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَن كَثِيْرَةٍ ۝ قَدْ  
جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۝

(۱۵: ۱۵)

۲۔ من یمہدی الی الصراط المستقیم

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا اُنزِلَ

## تعارف قرآن

۱۔ یہ کتاب کن کی رہنما ہے

یہ کتاب (قرآن مجید) اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام اللہ ہے۔ اللہ سے نازل ہوئی اور اس کی رہنمائی ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ۵ اور جو کتاب (الے محمد) تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے (پیغمبروں پر) نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں ۶ یہی لوگ اپنے پروردگار (کی طرف) سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں ۷ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کیلئے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کے ۸ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور انکی آنکھوں پر پردہ (پڑھا ہوا) ہے اور انکے لئے بڑا عذاب (تیار) ہے ۹

(۷ - ۲: ۲)

اسے کتاب تہا ہے پس ہم نے پیغمبر اور ان زمانے آگئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی سے چھپاتے تھے وہ اسمیں سببت کچھ تمہیں کہول کہول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے صومعاف کر دیتے ہیں بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی ہے

(۱۵: ۱۵)

۲۔ کن کو صحیح راستہ دکھایا جائے گا

اور کافر کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر) پر اس کے پروردگار کی طرف

only a portent were sent down upon him from his Lord! Say: Lo! Allah sendeth whom He will astray, and guideth unto Himself all who turn (unto Him).

(XIII : 27) P

....Allah chooseth for Himself whom He will, and guideth unto Himself him who turneth (toward Him).

(XLII : 13) P

Allah hath (now) revealed the fairest of statements, a Scripture consistent, (wherein promises of reward are) paired (with threats of punishments), whereat doth creep the flesh of those who fear their Lord, so that their flesh and their hearts soften at Allah's reminder. Such is Allah's guidance, wherewith He guideth whom He will. And him whom Allah sendeth astray, for him there is no guide.

(XXXIX : 23) P

27. This is naught else than a reminder unto creation, 28. Unto whomsoever of you willeth to walk straight.

(LXXXI : 27, 28) P

### 3. WHAT IS THE EXTENT OF THE WORDS OF ALLAH

And if all the trees in the earth were pens, and the sea, with seven more seas to help it, (were ink), the words of Allah could not be exhausted. Lo! Allah is Mighty, Wise.

(XXXI : 27) P

### 4. HOW THINGS HAPPEN

The Originator of the

عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ  
يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ  
مَن يُنَابِ

(۲۷: ۱۳)

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي  
إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۝

(۱۳: ۴۲)

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا  
مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ  
الَّذِينَ يُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۖ ثُمَّ تَلِينُ  
جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ  
ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ  
وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۝

(۲۳: ۳۹)

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝  
لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۝

(۲۸-۲۷: ۸۱)

### ۳- ما ذا اسعة كلام الله

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ  
وَالْبَحْرِ يَدَاهُ مِمَّا بَعْدَهَا سَبْعَةُ أَبْحُرٍ  
مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ ۝

(۲۷: ۳۱)

### ۴- كيف تحدث الاشياء

بِدَعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا

سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ  
جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا  
ہے اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے

(۲۷: ۱۳)

....اللہ جسکو چاہتا ہے سنی، بگواہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے اور جو  
اسکی طرف رجوع کرنے کے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے۔

(۱۳: ۴۲)

اللہ نے نہایت سچی باتیں نازل فرمائی ہیں یعنی کتاب جسکی  
کتابت جبرم مسمیٰ تسمیٰ میں اور فرمانی ہدیٰ میں جو لوگوں اپنے  
بیزگار سے تھے ہیں انکے بدن کے (اس سے) دنگے کھٹے ہوتے ہیں  
پھر ان بدن اور ذمہ (جو کہ اللہ کی یہ کیفیت استوہجہ ہوتے ہیں  
یہی شکل ہدیت اور اسے جسکو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسکو اللہ  
گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں

(۲۳: ۳۹)

یہ تو جہان کے لوگوں کیلئے نصیحت ہے ۝ (یعنی اس کیلئے  
جو تم میں سے کسی پال چننا چاہے ۝)

(۲۸-۲۷: ۸۱)

### ۳- اللہ تعالیٰ کی باتوں کی وسعت کیا ہے

اور اگر یوں سو کر زمین میں جتنے درخت ہیں، سب کے سب قلم  
ہوں اور سمندر کا تمام پانی، سیاہی ہو اور اس کے بعد سات  
سمندر اور سیاہی ہو جائیں، تو اللہ کی باتیں (یعنی اسکی صفیں)  
ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

(۲۷: ۳۱)

### ۴- چیزیں کیسے وقوع پذیر ہوتی ہیں

وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جب کوئی

heavens and the earth! When He decreeth a thing, He saith unto it only "Be!" and it is.

(II: 117) P

It is not befitting to (the majesty of) Allah that He should beget a son. Glory be to Him! When He determines a matter, He only says to it, "Be", and it is.

(XIX: 35) Y

## 5. CREATION OF THE UNIVERSE

Lo! your Lord is Allah Who created the heavens and the earth in six days, then mounted He the Throne. He covereth the night with the day, which is in haste to follow it, and hath made the sun and the moon and the stars subservient by His command. His verily is all creation and commandment. Blessed be Allah, the Lord of the Worlds!

(VII: 54) P

He it is Who created for you all that is in the earth. Then turned He to the heaven, and fashioned it as seven heavens. And He is knower of all things.

(II: 29) P

## 6. ALLAH MADE COVENANT WITH THE PROPHETS

Behold! Allah took the Covenant of the Prophets, saying "I give you a Book and Wisdom; then comes to you an Apostle confirming what is with you: do ye believe him and render him help". Allah said: "Do ye agree, and take this My Covenant as binding on you?" They said: "We agree". He said: "Then bear witness and I am

قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

(II: 117)

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحٰنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

(XIX: 35)

## ۵۔ خلق العالم

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ نُفُوحُ الْيٰسِ النَّهَّٰسِ يَطْلُبُهُ حَنِيْنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌ بِأَمْرِهٖ ۝

(VII: 54)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمٰوٰتِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

(II: 29)

## ۶۔ اخذ الله الميثاق من النبيين

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتَتَّوَمَّنَّنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ طَقَالَءَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ اٰصْرِي قَالُوْا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ

کام کرتا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرمادیتا ہے کہ ہو یا تو وہ ہو جاتا ہے۔

(II: 117)

اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنا لے وہ پاک ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔

(XIX: 35)

## ۵۔ کائنات کی پیدائش

کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا بٹھا اور وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا سب کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہیں دیکھو سب مخلوق جو اسی کی ہے درجہ پر اسی کا ہے نیچے رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔

(VII: 54)

وہی تو ہیں جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کیں پھر آسمانوں کو بنی تو چھ دنوں میں آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔

(II: 29)

## ۶۔ اللہ تعالیٰ کا پیغمبروں سے عہد لینا

اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہو گا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے مناسبت چھرایا، انہوں نے کہا (ہاں) ہم نے اقرار کیا (اللہ نے) فرمایا کہ تم اس عہد و پیمانہ کے گواہ

with you among the witnesses".

(III: 81) Y

### 7. CREATION OF ADAM AND IBLIS (DEVIL)

11. And We created you, then fashioned you, then told the angels: Fall ye prostrate before Adam! and they fell prostrate, all save Iblis, who was not of those who make prostration. 12. He said: What hindred thee that thou didst not fall prostrate when I bade thee? (Iblis) said: I am better than him. Thou createdst me of fire while him Thou didst create of mud. 13. He said: Then go down hence! It is not for thee to show pride here, so go forth! Lo! thou art of those degraded. 14. He said: Reprieve me till the day when they are raised (from the dead). 15. He said: Lo! thou art of those reprieved. 16. He said: Now, because Thou hast sent me astray, verily I shall lurk in ambush for them on Thy Right Path. 17. Then I shall come upon them from before them and from behind them and from their right hands and from their left hands, and Thou will not find most of them beholden (unto thee). 18. He said: Go forth from hence, degraded, banished. As for such of them as follow thee, surely I will fill Hell with all of you. 19. And (unto man): O Adam! Dwell thou and thy wife in the Garden and eat from whence ye will, but come not nigh this tree lest ye become wrong doers. 20. Then Satan whispered to them that he might manifest unto them that which was hidden from them of their shame, and he said: Your Lord forbade you from this tree

مِّنَ الشَّاهِدِينَ ○

(۸۱:۳)

### ۱- خلق آدم و ابلیس

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝۱۱  
قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ  
قَالَ أَن خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝۱۲  
قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝۱۳  
قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝۱۴  
قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝۱۵  
قَالَ فَمَا آخُرَتِنِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝۱۶  
ثُمَّ آتَيْنَاهُمْ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝۱۷  
قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْذُورًا مَّدْحُورًا لَّن نَّبْعَثَ مِنْكُم مِّنكُمْ أَجْمَعِينَ ۝۱۸  
وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝۱۹  
فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِحِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا

رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔  
(۸۱:۳)

### ۲- آدم اور ابلیس کی پیدائش

اور ہم نے تم کو ابتدائے ہی سے پیدا کیا پھر تمہاری شکل صورت بنائی پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ تو اسے سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس کو وہ سجدہ کرنے میں شام نہ ہو ۱۱۔ اللہ نے فرمایا جب میں تم کو حکم دیا تو اس نے سجدہ کرنے سے باز رہا۔ اس لیے ابلیس سے افسوس ہوں۔ مجھے تو نے کب پیدا کیا ہے اور نے ہی سجدا نہ کیا ۱۲۔ ذرا تو بہشت سے اتار دیا تجھے شیطان نہیں کہ یہاں ڈر کرے۔ پس نکل جا۔ تو ابلیس بتا ۱۳۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک بہشت میں ڈرانا جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں ۱۴۔ ذرا ابھی تم کو بہشت دی جاتی ہے ۱۵۔ ابھی شیطان نے کہا کہ مجھے تو تو نے معون کیا ہی بت میں مجھ پر سے سیدھے سے پران کو مار کر کے لے لے بیٹھوں گا ۱۶۔ پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے (غرض ہر طرف) آؤں گا اور ان کی ماہ ماروں گا اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا ۱۷۔ اللہ نے ہر مایا نکل جایاں سے پاجی۔ مدد دو۔ جو لوگ ان میں سے تیرے پیروی کریں گے میں انکو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ۱۸۔ اور اب ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں ہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو مگر اس درخت کے پاس جانا اور نہ گھبراؤ۔ ۱۹۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لئے منع کیا ہے کہ تم فرشتے زمین جاؤ یا

only lest ye should become angels or become of the immortals. 21. And he swore unto them saying: Lo! I am a sincere advisor unto you. 22. Thus did he lead them on with guile. And when they tasted of the tree, their shame was manifest to them and they began to hide (by heaping) on themselves some of the leaves of the Garden. And their Lord called them (saying): Did I not forbid you from that tree and tell you: Lo! Satan is an open enemy to you? 23. They said: Our Lord! We have wronged ourselves. If thou forgive us not and have not mercy on us, surely we are of the lost! 24. He said: Go down (from hence) one of you a foe unto the other. There will be for you on earth a habitation and provision for a while. 25. He said: There shall ye live, and there shall ye die, and thence shall ye be brought forth.

(VII: 11-25) P

Then Adam received from his Lords words (of revelation) and He relented toward him. Lo! He is the Relenting, the Merciful.

(II: 37) P

## 8. CREATION OF MANKIND AND JINN

26. Verily We created man of potter's clay of black mud altered. 27. And the Jinn did We create aforetime of essential fire.

(XV: 26-27) P

12. Verily We created man from a product of wet earth; 13. Then placed him as a drop (of seed) in a safe lodging; 14. Then fashioned We the drop a clot, then fashioned We the clot a

ان تَكُونُوا مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونُوا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢١﴾  
وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٢﴾  
فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَ لَا  
بَدَتْ لَهُمَا سَاوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ  
عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا  
رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنِ الشَّجَرَةِ  
وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٣﴾  
قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ  
تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٤﴾  
قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ  
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ  
إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾  
قَالَ فِيهَا الْخَيْونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَ  
مِنْهَا نُخْرِجُوكَ ﴿٢٦﴾

(۲۵-۱۱:۷)

فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ  
عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٢٧﴾

(۲۷:۲)

## ۸- خلق الانس والجن

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ  
مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَانَّ  
خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾

(۲۷-۲۶:۱۵)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ  
مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾  
ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾  
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا

ہمیشہ جیسے نہ رہو ﴿۲۱﴾ اور ان قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا  
خیر خواہ ہوں ﴿۲۲﴾ عرض (مردود) نے دھوکے سے کہ ان کو  
محبت کی طرف کھینچ ہی لیا جب انہوں نے اس درخت (کے پلے)  
کو کھالی تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے  
(درختوں) سے (تور تورا کر) اپنے اوپر چپکنے (اور ستر چھپانے)  
لگے تب ان کے پروردگار نے ان کو پکار کر کہا کہ میں نے تم کو اس درخت (کے پلے سے)  
سے منع نہیں کیا تھا اور جتنا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن  
ہے ﴿۲۳﴾ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر تم کیا  
اگر تمہیں نہیں بخشتا اور ہم پر رحم نہیں کریگا تو ہم تباہ ہو جائیں گے ﴿۲۴﴾  
(اللہ نے) فرمایا (تم سب بہشت سے) اتر جاؤ (اب) تم ایک دوسرے کے  
دشمن ہو اور تمہارے لئے ایک وقت (خاص) تک میں پرہیزگاناؤ  
(زندگی کا) سامان (کر دیا گیا) ہے ﴿۲۵﴾ (یعنی) کہا کہ اسی میں  
تمہارا مینا ہو گا اور اسی میں مرنا اور اسی میں سے (قیامت کو  
زندہ کر کے) نکالے جاؤ گے ﴿۲۶﴾

(۲۵-۱۱:۷)

پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات کیے (اور معافی مانگی) تو اس نے  
ان کا قصور معاف کر دیا بخشتا وہ معاف کر لیا (اور صابغہ ہے  
(۲۷:۲)

## ۸- انسان اور جنات کی پیدائش

اور ہم نے انسان کو کھنکھانے سڑے ہوئے گائے  
سے پیدا کیا ہے ﴿۲۶﴾ اور جنوں کو اس  
سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا  
کیا تھا ﴿۲۷﴾

(۲۷-۲۶:۱۵)

اور ہم نے انسان کو مٹی کے علاصے سے پیدا  
کیا ہے ﴿۱۲﴾ پھر اس کو ایک مضبوط (اور محفوظ)  
جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا ﴿۱۳﴾ پھر نطفے کا لوتھر بنایا۔  
پھر لوتھر سے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں

little lump, then fashioned We the little lump bones, then clothed the bones with flesh; and then produced it as another creation. So blessed be Allah, the Best of Creators! 15. Then lo! after that ye surely die. 16. Then lo! on the Day of Resurrection ye are raised (again).

(XXIII : 12 - 16) P

### 9. THE QUR'AN WAS REVEALED IN THE MONTH OF RAMADHAN

The month of Ramadhan is the month in which the Qur'an was revealed,-----

(II : 185) Z

### 10. THE REVELATION OF THE QUR'AN STARTED ON THE NIGHT OF POWER (QADR)

1. Lo! We revealed it on the Night of Power. 2. Ah, what will convey unto thee what the Night of Power is! 3. The Night of Power is better than a thousand months. 4. The angels and the Spirit\* descend therein, by the permission of their Lord, with all decrees. 5. (that night is) Peace until the rising of the dawn.

\*i.e., Gabriel or, angels of the highest rank

(XCVII : 1 - 5) P

### 11. ALLAH BEARS WITNESS THAT HE HAS REVEALED THE QUR'AN WITH HIS OWN KNOWLEDGE

But Allah beareth witness that what He hath sent unto thee He hath sent from His (own) knowledge, and the angels bear witness: But enough is Allah for a witness.

(IV : 166) Y

الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾  
ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٦﴾  
ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٧﴾

(۱۶-۱۲: ۱۳)

۹۔ انزل القرآن فی رمضان

شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن

(۱۸۵: ۲)

۱۰۔ بدأ نزول القرآن فی لیلۃ القدر

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾  
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾  
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾  
تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾  
سَلَامٌ شَهْرٍ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

(۵-۱: ۹۷)

۱۱۔ واللہ یشہد أنه انزل القرآن

بعلمہ

لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُنَّ  
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٤﴾

(۱۶۶: ۴)

بنائیں۔ یہ ہڈیوں پر گوشت (پوست) چڑھایا۔ پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے ﴿۱۳﴾ پھر اس کے بعد لڑنا جاتے ہو ﴿۱۵﴾ پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کے جاؤ گے ﴿۱۶﴾

(۱۶ : ۱۲ - ۱۳)

۹۔ قرآن ماہ رمضان میں نازل کیا گیا

۱۰۔ نزول قرآن کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔۔۔۔۔

(۱۸۵: ۲)

۱۱۔ نزول قرآن شب قدر میں شروع ہوا

۱۔ اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا ﴿۱﴾ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ﴿۲﴾ شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے ﴿۳﴾ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے (انتقام کے) لئے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں ﴿۴﴾ یہ (رات) طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے ﴿۵﴾

(۵-۱: ۹۷)

۱۱۔ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ اس نے قرآن کو اپنے علم سے نازل کیا ہے

لیکن اللہ نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے۔

(۱۶۶ : ۴)

## 12. THE FIRST REVELATION

1. Read: In the name of thy Lord Who createth, 2. Createth man from a clot, 3. Read: And thy Lord is the Most Bounteous, 4. Who teacheth by the pen, 5. Teacheth man that which he knew not.

(XCVI 1-5) P

## 13. THROUGH WHOM THE QUR'AN WAS REVEALED

Say: Whoever is an enemy to Gabriel! for he brings down the (revelation) to thy heart by Allah's will, a confirmation of what went before, and guidance and glad tidings for those who believe.

(II 97) Y

## 14. WHY WAS THE QUR'AN REVEALED IN ARABIC

Had We sent this as a Qur'an (in a language) other than Arabic, they would have said: "Why are not its verses explained in detail? What! (a Book) not in Arabic and (a Messenger) an Arab?"-----

(XLI 44) Y

And We never sent a messenger save with the language of his folk, that he might make (the Message) clear for them-----

(XIV 4) P

## 15. QUR'AN'S VERSES ARE PRESERVED IN THE BREASTS OF THE KNOWLEDGEABLE

But it is clear revelations in the hearts of those who have been given knowledge, and none deny Our revelations save wrong-doers.

(XXIX : 49) P

## ۱۲- پہلی وحی جو نازل ہوئی

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ①  
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ②  
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③  
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④  
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم ⑤  
(۵-۱۱۹۶)

## ۱۳- بواسطہ من انزل القرآن الکریم

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ  
نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا  
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى  
لِلْمُؤْمِنِينَ ①

(۹۷:۲)

## ۱۴- لماذا أنزل القرآن باللغة العربية

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبًا لَقَالُوا الْوَلَا  
فَصَلَّتْ آيَتُهُ عَاجِبِي وَعَرَبِيٌّ ط  
-----

(۴۴:۴۱)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ  
قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ  
-----  
(۴:۱۴)

## ۱۵- جعل القرآن محفوظا

فِي صُدُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ  
بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ  
أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا  
الظَّالِمُونَ ①

(۴۹:۲۹)

## ۱۲- پہلی وحی جو نازل ہوئی

(اے محمد!) اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے (عالم کو) پیدا کیا ① جس نے انسان کو خون کی ٹھٹھی سے بنایا ② پڑھو تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے ③ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ④ اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا ⑤  
(۵-۱۱۹۶)

## ۱۳- نزول قرآن کس کی مساطت سے ہوا

کہدو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو اُس کو غصے میں مرنے دیا جائے (اُس نے تو یہ کتاب) اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لئے بشارت اور نجات ہے۔

(۹۷:۲)

## ۱۴- قرآن عربی زبان میں کیوں نازل ہوا

اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اسکی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھوکھریاں نہیں کی گئیں۔ کیا (غیب کے قرآن تو) عجیب اور (مخاطب) عربی ....

(۴۴:۴۱)

اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام اللہ کھول کھول کر بتا سکیں۔  
(۴:۱۴)

## ۱۵- آیات قرآنی کو اہل علم کے سینوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔

بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں (محفوظ) اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں۔

(۴۹:۲۹)

### 16. ALLAH HAS MADE THE QUR'AN EASY TO UNDERSTAND

And We have indeed made the Qur'an easy to understand and remember: Then is there any that will receive admonition?

(LIV : 17) Y

### 17. THE QUR'AN WAS REVEALED GRADUALLY AND IN SMALL PORTIONS TO FACILITATE COMPREHENSION

(It is) a Qur'an which We have divided into sections so that you may recite it to the people with deliberation. We have imparted it by gradual revelation.

(XVII : 106) Z

### 18. THINGS HAVE BEEN EXPLAINED IN THE QUR'AN IN DIFFERENT WAYS

And We have explained to man, in this Qur'an every kind of similitude; yet the greater part of men refuse (to receive it) except with ingratitude!

(XVII : 89) Y

### 19. ALLAH HAS MADE THE QUR'AN STRAIGHT AND CLEAR

1. Praise be to Allah, Who hath sent to His Servant the Book, and hath allowed therein no crookedness. 2. (He hath made it) straight (and clear) in order that He may warn the (godless) of a terrible punishment from Him, and that He may give glad tidings to the believers who work righteous deeds, that they shall have a goodly reward.

(XVIII : 1 - 2) Y

### ۱۶۔ لَقَدْ يَسَّرَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ۝

(۱۷ : ۵۴)

### ۱۷۔ لِأَجْلِ السَّهْوَةِ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ نَجْمًا نَجْمًا بِالْتَدْرِجِ

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ  
عَلَىٰ مَكْتَبٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝

(۱۷ : ۱۷)

### ۱۸۔ فَصَّلَ الْأَشْيَاءَ فِي الْقُرْآنِ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ  
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ  
إِلَّا كُفُورًا ۝

(۱۷ : ۸۹)

### ۱۹۔ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ أَىٰ تَعْقِيدٍ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ  
الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝  
فِي مَّا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِّمَنْ لَدَانَهُ  
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ  
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝

(۱۸ : ۱-۲)

### ۱۶۔ قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان بنایا گیا ہے

اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا تو  
کوئی بت کہ سوچے سمجھے؟

(۱۷ : ۵۴)

### ۱۷۔ قرآن کو آسانی کے لئے تھوڑا تھوڑا اور

آہستہ آہستہ کر کے نازل کیا گیا

اور ہم نے قرآن کو جزو جزو کر کے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو  
خیر نصیب کر پڑے اور ہم نے اسکو آہستہ آہستہ نازل کیا ہے

(۱۷ : ۱۷)

### ۱۸۔ قرآن میں باتوں کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے

اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے  
بیان کر دی ہیں تاکہ لوگوں نے انکار کرنے  
کے سوا قبول نہ کیا۔

(۱۷ : ۸۹)

### ۱۹۔ قرآن میں کسی طرح کی پیچیدگی نہیں رکھی گئی

سب تعریف اللہ ہی کو جس نے اپنے بندے (محمد) پر یہ کتاب نازل کی  
اس میں کسی طرح کی کمی (اور پیچیدگی) نہ رکھی (۱) بلکہ (سیدھی اور سلیس  
آٹاری) تاکہ (لوگوں) مذاہب سخت سے جو اس طرح (آینواں) سے  
ڈرانے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں غرض خیر سنائے تاکہ  
لئے (ان کے کاموں) نیک بدلہ (یعنی بہشت) (۲)

(۱۸ : ۱-۲)



## 20. THE QUR'AN IS FREE OF ANY DISCREPANCY OR DEFECT

Do they not consider the Qur'an (with care)? Had it been from other than Allah, they would surely have found therein much discrepancy.

(IV: 82) Y

## 21. ALLAH SHALL SEE TO ITS COLLECTION AND RECITATION

16. Do not move your tongue (with the revelation) so that you may hasten (committing) it (to memory). 17. We Ourselves shall see to its collection and recital. 18. When We read it, follow its words attentively. 19. We shall Ourselves explain its meaning.

(LXXV: 16-19) Z

## 22. THOSE WHO PERVERT THE TRUTH ARE NOT HIDDEN FROM ALLAH

Lo! those who distort Our revelations are not hid from Us. Is he who is hurled into the Fire better or he who cometh secure on the Day of Resurrection? Do what ye will. Lo! He is Seer of what ye do.

(XLI: 40) P

## 23. ALLAH HIMSELF IS THE GUARDIAN OF THE QUR'AN

Lo! We, even We, reveal the Reminder, and lo! We verily are its Guardian.

(XV: 9) P

## ۲۰۔ القرآن خال من کل عیب

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

(۸۲: ۸)

## ۲۱۔ علی اللہ جمع القرآن وقرآنہ

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۗ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۗ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۗ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۗ

(۱۶-۱۹: ۷۵)

## ۲۲۔ يعلم اللہ الذین یبغون آیاتہ

الواضحة عوجاً

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا مِمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(۴۱: ۴۰)

## ۲۳۔ علی اللہ حفظ القرآن

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَافِعُونَ ۗ

(۱۵: ۹)

## ۲۰۔ قرآن ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہے

بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا (کلام) ہوتا تو اس میں (بہت سا) اختلاف پاتے۔

(۸۲: ۸)

## ۲۱۔ قرآن کا جمع کرنا اور پڑھنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے

اور (اے محمدؐ) وحی کے پڑھنے کیلئے اپنی زبان نہ چلایا کرو اور اسکو جلد یاد کرو (۱۶) اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے (۱۷) جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم اسکو سنا کر اور پھر اسی طرح پڑھا کرو (۱۸) پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے (۱۹)

(۱۶-۱۹: ۷۵)

## ۲۲۔ قرآن کی سیدھی سادی باتوں کو توڑ مڑ کر پیش

کرنیوالے اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہیں جو لوگ ہماری آیتوں میں کج راہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ (تو خیر) جو چاہو سو کرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسکو دیکھ رہا ہے۔

(۴۱: ۴۰)

## ۲۳۔ قرآن کی نگہبانی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے

بیشک یہ کتاب نصیحت ہمیں نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔

(۹: ۱۵)

## 24. WHAT WILL BE THE END OF THOSE WHO REJECT THE SIGNS OF ALLAH

Those who reject Our Signs, We shall soon cast into the Fire: as often as their skins are roasted through, We shall change them for fresh skins, that they may taste the penalty: For Allah is Exalted in Power, Wise.

(IV : 56) Y

## 25. WITHDRAW YOURSELF FROM WHERE VERSES ARE DERIDED

And when thou seest those who meddle with Our revelations, withdraw from them until they meddle with another topic. And if the devil cause thee to forget, sit not, after the remembrance, with the congregation of wrong-doers.

(VI : 68) P

## 26. THE QUR'AN SHOULD ONLY BE TOUCHED IN A STATE OF PURITY

77. That this is a glorious Qur'an, 78. (inscribed) in a hidden book, 79. Which none may touch except the purified: 80. A revelation from the Lord of all creatures.

(LVI : 77 - 80) Z

## 27. WHAT TO DO BEFORE STARTING THE RECITATION OF THE QUR'AN

And when thou recitest the Qur'an seek refuge in Allah from Satan the outcast.

(XVI : 98) P

## ۲۴۔ ماذا سيكون مصير الذين يكفرون بآيات الله

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلَّمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلًا لَّهُمْ جُلُودًا أُخْرَىٰ هَا لَيْدٌ وَقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

(۵۶ : ۴)

## ۲۵۔ اجتنبو الجالس التي تناقش فيها آيات القرآن مناقشة لغو

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

(۶۸ : ۶)

## ۲۶۔ لا يمَس القرآن إلا في حالة الطهارة

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝  
فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۝  
لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝  
تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

(۸۰ - ۷۷ : ۵۶)

## ۲۷۔ ماذا يفعل قبل قراءة القرآن

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

(۹۸ : ۱۶)

۲۴۔ قرآن کی آیتوں سے کفر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔

جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے۔ جب ان کی کھالیں گل (اور جل) جائیں گی تو ہم وہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بیشک اللہ غالب و حکمت والا ہے۔

(۵۶ : ۴)

۲۵۔ آیتوں کے متعلق بہودہ باتیں ہونی والی جگہ سے کنارہ کشی کر لو۔

اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بہودہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلائے تو یاد آئے پڑھا لو لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔

(۶۸ : ۶)

۲۶۔ قرآن کو پاکیزگی کی حالت میں ہی ہاتھ لگانا چاہیے

کہ یہ بڑے رُسبے کا ستہ آن ہے ۷۷  
جو کتاب محفوظ میں (لکھا ہوا ہے) ۷۸  
اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں ۷۹  
پورے عالم کی طرف سے آنا لگیا ہے ۸۰

(۸۰ - ۷۷ : ۵۶)

۲۷۔ قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے

اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔

(۹۸ : ۱۶)

### 28. HOW THE QUR'AN SHOULD BE LISTENED TO

And when the Qur'an is recited, give ear to it and pay heed, that you may obtain mercy.

(VII: 204) P

To! therein verily is a reminder for him who hath a heart or giveth ear with full intelligence.

(L: 37) P

### 29. THE QUR'AN SHOULD BE UNDERSTOOD ALSO

Among them are unlettered folk who know the Scripture not except from hearsay. They but guess.

(II: 78) P

### 30. WHERE SHALL THE BELIEVERS DWELL

But give glad tidings to those who believe and work righteousness, that their portion is Gardens, beneath which rivers flow. Everytime they are fed with fruits therefrom; they say: "Why, this is what we were fed with before," for they are given things in similitude; and they have therein companions (pure and holy) and they abide therein (forever).

(II: 25) Y

### 31. IF ALLAH HAD NOT INTENDED TO TEST MANKIND, HE WOULD HAVE MADE THEM ONE COMMUNITY

And to you We have revealed the Book with the truth confirming what was revealed before it in the other Books, and

### ۲۸۔ آداب الاستماع للقرآن

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

(۷۰: ۷)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

(۲۷: ۵۰)

### ۲۹۔ فہم القرآن ضروری ایضاً

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

(۷۸: ۲)

### ۳۰۔ مصير المؤمنین الذین یعملون الصالحات

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِمْ مِثْلَهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(۲۵: ۲)

### ۳۱۔ لو لعللین البلاہد فالجعل اللہ الناس امة واحدة۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَهُدًى

### ۲۸۔ قرآن سننے کے آداب

اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے

(۷۰: ۷)

جو شخص دل (آگاہ) لکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنا ہے اس کے لئے اس میں نصیحت ہے

(۲۷: ۵۰)

### ۲۹۔ قرآن کو سمجھنا بھی لازم ہے

اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالاتِ باطل کے سوا (اللہ کی) کتاب سے واقف ہی نہیں اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں

(۷۸: ۲)

۳۰۔ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لئے (نعت کے) باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائیگا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے ملنے جائیں گے اور وہاں ان کے لئے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

(۲۵: ۲)

۳۱۔ اگر آزمائش مقصود نہ ہوتی تو اللہ سب کو ایک ہی شریعت پر قائم کر دیتا

اور (اسے پیغمبر) ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان (سب) پر عمل

standing as a guardian over it. Therefore give judgement among them in accordance with Allah's revelations and do not yield to their fancies (swerving) from the truth that has been made known to you. We have ordained a law and a path for each of you. Had Allah pleased, He could have made you one nation: but that He might prove you by that which He has bestowed upon you-----

(V : 48) Z

### 32. ALLAH SPEAKS IN ALLEGORIES TO MAKE MANKIND UNDERSTAND HIS MESSAGE

... Allah guideth unto His light whom He will. And Allah speaketh to mankind in allegories, for Allah is Knower of all things.

(XXIV : 35) P

### 33. THE QUR'AN IS A GUIDANCE FOR ALL CREATION

But it is nothing less than a Message to all the worlds.

(LXVIII : 52) Y

We have explained in detail in this Qur'an, for the benefit of mankind, every kind of similitude: But man is, in most things, contentious.

(XVIII : 54) Y

### 34. IT WILL BE IMPOSSIBLE TO ENTER PARADISE FOR THOSE WHO REJECT AND SCORN ALLAH'S REVELATIONS

Lo! they who deny Our revelations and scorn them, for them the gates of Heaven will

عَلَيْهِمْ وَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ وَتُؤْتَى اللَّهُ لِيَجْعَلَ لَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

(۴۸: ۵)

### ۳۲۔ یضرب اللہ الأمثال فی القرآن لهدایة الناس

..... یهدی اللہ

لِنُورٍ مِّنْ يَّشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(۲۵: ۲۴)

### ۳۳۔ القرآن ذکر للعالمین

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

(۵۲: ۶۸)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

(۵۴: ۱۸)

### ۳۴۔ لن یدخل الجنة من یكذب بآیات اللہ ویبغونها عوجا

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا

تہ۔ تو ہر علم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کو فیصلہ کرنا۔ اور حق ہر تمہارے پاس آچکا ہے اس کو چھوڑ کر انکی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہر نے تمہیں سے ہر ایک فرقے کیلئے ایک ستور اور طریقہ متعز کیات۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا۔ مگر جو حکم اس نے تم کو دیئے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے۔

(۴۸: ۵۱)

### ۳۲۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کیلئے طرح طرح کی مثالیں دے کر بیان فرماتا ہے

... اللہ اپنے نور سے جسکو چاہتا ہے سبھی کو دکھاتا ہے اور اللہ (جو) مثالیں بیان فرماتا ہے (تو) لوگوں کے سمجھانے کے لئے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

(۲۵: ۲۴)

### ۳۳۔ قرآن تو اہل عالم کے لئے نصیحت ہے

اور (لوگوں) یہ (قرآن) اہل عالم کے لئے نصیحت ہے۔

(۵۲: ۶۸)

اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں (کے سمجھانے) کے لئے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔

(۵۴: ۱۸)

### ۳۴۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے اور انکی سربانی کرنیوالوں کا بہشت میں داخلہ ناممکن ہوگا

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سربانی کی ان کے لئے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور

not be opened nor will they enter the Garden until the camel goeth through the needle's eye. Thus do We requite the guilty.

(VII : 40) P

### 35. THE QUR'AN CONFIRMS ALL THE PREVIOUS SCRIPTURES AND IS A GUARD OVER ALL OF THEM

And unto thee have We revealed the Scripture with the truth, confirming whatever Scripture was before it, and a watcher over it.-----

(V : 48) P

### 36. THOSE WHO ARE DIVIDED AND FALL INTO DISPUTATION SHALL BE STERNLY PUNISHED

And be ye not as those who separated and disputed after the clear proofs had come unto them. For such there is an awful doom.

(III : 105) P

### 37. ON DOOMS-DAY MUHAMMAD (P. B. U. H.) WILL COMPLAIN TO ALLAH THAT HIS PEOPLE HAD NEGLECTED TO ACT ON QUR'AN

Then the Apostle says: "Lord, my people have treated the Qur'an as a forsaken thing".

(XXV : 30) Z

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ

(۴۰: ۷)

۳۵۔ القرآن مصدق لما بين يديه من الكتب السماوية ومهيمن عليه

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَهُمِمْنَا عَلَيْهِ

(۴۸: ۵)

۳۶۔ سيعذب الله الذين تفرقوا في دين الله عذاباً أليماً

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

(۱۰۵: ۲)

۳۷۔ يشكو محمد يوم القيامة إعراض قومه عن القرآن

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

(۳۰: ۲۵)

نہ وہ بہشت میں داخل ہونگے یہاں تک کہ اونٹ سونے کے ٹکڑے میں نہ بھل جائے اور گنجاؤں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

(۴۰: ۷)

۳۵۔ قرآن اپنے سے پہلی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ان سب کتابوں کا محافظ ہے

اور (اے پیغمبر) ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور

ان (سب) پر شامل ہے.....

(۴۸: ۵)

۳۶۔ متفرق ہونے والوں اور اختلاف کرنے والوں کو سخت عذاب دیا جائے گا

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام میں آئیے بعد ایک دوسرے سے (خلاف و اختلاف کرنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کو (قیامت کے دن) بڑا عذاب ہوگا۔

(۱۰۵: ۲)

۳۷۔ محمد قیامت کے دن اپنی قوم کی قرآن جیسی واجب العمل کتاب کو نظر انداز کرنے کی شکایت کریں گے

اور اس دن رسول ہمیں کہے پھر پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو جو واجب العمل تھا، بالکل نظر انداز کر رکھا تھا۔

ع-۱-۲

(۳۰: ۲۵)

38. THE QUR'AN SHOULD BE FOLLOWED BEFORE CALAMITY BEFALLS MAN SUDDENLY

And follow the Best of (the courses) revealed to you from your Lord, before the Penalty comes on you -of a sudden, while ye perceive not.

(XXXIX : 55) Y

39. PEOPLE WHO HAVE KNOWLEDGE ARE THE ONES WHO TRULY FEAR ALLAH

And so amongst men and crawling creatures and cattle, are they of various colours. Those truly fear Allah, among His Servants, who have knowledge: For Allah is exalted in Might, Oft-Forgiving.

(XXXV : 28) Y

40. THOSE WHO DO NOT ENFORCE QUR'ANIC INJUNCTIONS ARE DISBELIEVERS

.... So fear not mankind, but fear Me. And barter not My revelations for a little gain. Whoso judgeth not by that which Allah hath revealed: such are disbelievers.

(V : 44) P

۳۸۔ لیتبع الانسان القرآن قبل ان  
یحل عليه عذاب بغتة

وَاقْبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ  
رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ  
بَغْتَةً وَّ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ○

(۵۵: ۳۹)

۳۹۔ ان اصحاب العلم هم الذين  
يخشون الله

وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَّوَابِ وَالْاَنْعَامِ  
مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهُ كَذَلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ  
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
غَفُورٌ ○

(۲۸: ۳۵)

۴۰۔ الذين لا يحكمون بما انزل الله  
فاولئك هم الكافرون

..... فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ  
وَ اَخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا  
قَلِيلًا وَّ مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ  
فَاُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ○  
(۴۴: ۵)

۳۸۔ اس سے پہلے کہ انسان پر ناگہاں عذاب آجائے  
اُسے قرآن کی پیروی کر لینی چاہیے

اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آجائے اور تم کو  
خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب (کی جو تمہارے  
پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے) پیروی کرو۔

(۵۵ : ۳۹)

۳۹۔ صاحب علم درحقیقت وہی ہیں جو  
اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں

انہوں اور جانوروں اور چارپایوں کے بھی  
کئی طرح کے رنگ ہیں۔ اللہ سے تو اس کے  
بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔  
بے شک اللہ غالب (اور) بخشنے والا ہے۔

(۲۸ : ۳۵)

۴۰۔ قرآنی احکام کے مطابق حکم نہ دینے  
والے کافر ہیں

... تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا اور  
میرے آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لینا اور جو اللہ کے  
نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے  
ہی لوگ کافر ہیں

(۴۴ : ۵)

## MONOTHEISM (Oneness of Allah)

### 1. ALLAH ALONE IS THE CREATOR AND MAINTAINER OF THE WHOLE UNIVERSE

60. (Surely worthier is He) Who made the heavens and the earth. He sends down water from the sky, bringing forth gardens of delight----- 61. (And surely worthier is He) Who has established the earth and watered it with running rivers; Who has set mountains upon it and placed a barrier between the Two Seas----- 62. (Surely worthier is He) Who answers the oppressed when they cry out to Him and relieves affliction, and makes you inheritors of the earth----- 63. (Surely worthier is He) Who guides you in the darkness of land and sea and sends the winds as harbingers of His mercy----- 64. (Surely worthier is He) Who originates the creation and, then reproduces it; Who gives you sustenance from earth and sky. Another god besides Allah? Say: 'Show us your proof, if what you say be true!'

## التوحيد

۱۔ اللہ ہو خالق کل شیء

أَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ  
لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ  
ذَاتِ بَهْجَةٍ..... ٦٠

أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْمًا  
الْأَنْهَارَ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ  
الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا..... ٦١

أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ  
يَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ  
..... ٦٢

أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  
وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ  
رَحْمَتِهِ..... ٦٣

أَمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ  
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ  
مَعَ اللَّهِ قُلُوبُ أُولِي الْأَبْصَارِ إِنْ كُنْتُمْ  
صَادِقِينَ ٦٤

## توحید

۱۔ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق و ساز ہے  
بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور (کس نے)  
تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا۔ (ہم نے) پھر ہم  
نے اُس سے سرسبز باغ اُگلے..... ٦٠  
بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے بیچ  
نہریں بنائیں اور اس کے لئے پہاڑ بنائے اور  
(کس نے) دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی..... ٦١  
بھلا کون بیستہ راز کی التجا قبول کرتا ہے  
جب وہ اُس سے دُعا کرتا ہے اور (کون  
اُس کی) تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اور (کون)  
تم کو زمین میں (اگلوں) جا نشین بناتا ہے..... ٦٢  
بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں  
رستہ بتاتا اور (کون) سہراؤں کو اپنی رحمت کے  
آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے..... ٦٣  
کو پہلی بار پیدا کرتا۔ پھر اُس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے۔  
اور (کون) تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔  
(یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے) تو کیا اللہ کے ساتھ  
کوئی اور معبود بھی ہے؟ (دہر گز نہیں) کہو  
کہ (مشرکوں) اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ ٦٤

(۲۷: ۶۰-۶۴)

(۲۷: ۶۰-۶۴)

(XXVII: 60-64) Z

## 2. ALLAH INFORMS WHOM HE PLEASES AS MUCH AS HE WILLS

Allah! There is no God save Him, the Alive, the Eternal. Neither slumber nor sleep overtaketh Him. Unto Him belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. Who is he that intercedeth with Him save by His leave? He knoweth that which is in front of them and that which is behind them while they encompass nothing of His knowledge save what He will. His throne includeth the heavens and the earth, and He is never weary of preserving them. He is the Sublime, the Tremendous.

(II: 255) P

## 3. ALLAH IS THE CREATOR OF THE HEAVENS AND THE EARTH

Say: 'Who is the Lord of the heavens and the earth?' Say: 'Allah' Say: 'Why then have you chosen protectors besides Him, who, even to themselves, can do neither harm nor good?' Say: 'Are the blind and the seeing alike? Does darkness resemble the light?' Have those they associate with Allah brought into being a creation like His, so that both creations appear to them alike? Say: 'Allah is the Creator of all things. He is the One, the Conqueror.'

(XIII: 16) Z

۴۔ اللہ مطلع علی الغیب من یشاء  
ویطلعہ بقدر ما یشاء

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَحْيَى الْقَتُومَةَ  
لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ  
لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا  
بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ  
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ  
مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ  
كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا  
يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ  
الْعَظِيمُ

(۲۵۵: ۲)

۴۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جس کو چاہے  
اس قدر معلوم کرا دیتا ہے

اللہ اور وہی برحق ہے کہ جس کے سوالوں کی عبادت  
رہتی نہیں۔ زندہ ہمیشہ بننے والا ہے اور اونچے آتی ہے  
نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا  
ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی  
سزا دیا کرے جو کچھ لوگوں کو بڑا سزا ہے اور جو کچھ ان کے  
پہنچے ہو گا اس سے سب معلوم ہے اور وہ اس کی معلومات  
میں سے کسی چیز پر دست سے مصلحت نہیں کر سکتے ہیں جس قدر وہ  
چاہتا ہے اسی قدر معلوم کر دیتا ہے اس کی بادشاہی اور علم آسمان  
اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے انکی حفاظت کچھ بھی دشوار  
نہیں ہے وہ بڑا عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے۔

(۲۵۵ : ۲)

۳۔ اللہ رب السموات والأرض

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط  
قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ  
أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَ  
لَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى  
وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ  
وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا  
كُلَّ شَيْءٍ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ  
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

(۱۶ : ۱۳)

۳۔ آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار تو اللہ ہی ہے

ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟  
ابھی ان کی طرف سے کہہ دو کہ اللہ بھلا ان سے کہہ دو کہ تم نے اللہ  
کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کا رسا بنا دیا ہے۔ جو خود اپنے  
نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ بھی پوچھو کیا اندھا اور  
آنکھوں والا برابر ہیں؟ یا اندھیرا اور اجال برابر ہو سکتے ہیں؟ بھلان  
لوگوں نے جنکو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی سی  
خلوقات پیدا کی ہیں جس کے سبب انکو مخلوقات مشابہ ہو گئی ہے کہہ دو  
کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یگانا اور بزرگ ہے۔

(۱۶ : ۱۳)



#### 4. THE QUR'AN CONTAINS ALLAH'S MESSAGE OF MONOTHEISM FOR MANKIND

This is a clear message for mankind in order that they may be warned thereby, and that they may know that He is only One God and that men of understanding may take heed.

(XIV: 52) P

#### 5. FEAR ALLAH AND DO NOT SERVE TWO GODS

51 Allah has said 'you shall not serve two gods, for He is but one God. Revere none but Me' 52. His is what the heavens and the earth contain. To Him, obedience is due always. Would you then fear any but Allah?

(XVI: 51-52) Z

#### 6. WORSHIP ALLAH ONLY AND ASSOCIATE NONE WITH HIM

And serve Allah, and ascribe nothing as partner unto Him-----

(IV: 36) P

Say: I am only a mortal like you. My Lord inspireth in me that your God is only One God. And whoever hopeth for the meeting with his Lord, let him do righteous work and make none sharer of the worship due unto his Lord.

(XVIII: 110) P

#### 7. THOSE WHO WORSHIP OTHER GODS BESIDES ALLAH SHALL NOT ENTER PARADISE

Call on no other god besides Allah, lest you incur His punishment.

(XXVI: 213) Z

#### ۴۔ تیضمن القرآن رسالۃ توحید لکافة الناس

هَذَا بَلْعُورٌ لِلنَّاسِ لِيُنذِرُوا بِهِ وَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَيُنذِرُوا لَوْ أَنَّ الْكَلْبَ

(۵۲ : ۱۴)

#### ۵۔ علیکم أن تخافوا الله ولا تعبدوا الهین

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِلَّا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَإِنَّمَا يَفْرَهُونَ ۝۵۱  
وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِصْبَاطُ أَعْيُنِنَا اللَّهُ تَتَّقُونَ ۝۵۲

(۵۲ : ۵۱-۵۲)

#### ۶۔ لا تشركوا بعبادة الله أحدا

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.....

(۳۶ : ۴)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝۱۱۰

(۱۱۰ : ۱۸)

#### ۷۔ والذين يعبدون آلهة غير الله لن يدخلوا الجنة

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ۝

(۲۱۳ : ۲۶)

#### ۴۔ قرآن انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ کا پیغام توحید ہے

یہ (قرآن) لوگوں کو اللہ کا پیغام ہے تاکہ انہیں اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی الہ ہے اور تاکہ انہیں عقل نصیحت کریں

(۵۲ : ۱۴)

#### ۵۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور دو معبود نہ بناؤ

اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ معبود وہی ایک ہے تو مجھ سے ڈرتے رہو ۵۱ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے تو تم اللہ کے سوا اور کس سے کیوں ڈرتے ہو؟ ۵۲

(۵۲ : ۵۱-۵۲)

#### ۶۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ

اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ.....

(۳۶ : ۴)

کہہ دو میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ (اللہ) میری طرف سے آتی ہے کہ تمہارا معبود (وہی) ایک معبود ہے تو جو شخص اپنے پروردگار سے اپنے امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔

(۱۱۰ : ۱۸)

#### ۷۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود پکارو گے تو اللہ تم پر بہشت حرام کر دے گا

تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا۔

(۲۱۳ : ۲۶)

----- O Children of Israel, worship Allah, my Lord and your Lord. Lo! whoso ascribeth partners unto Allah, for him Allah hath forbidden Paradise. His abode is the Fire. For evil-doers there will be no helpers.

(V: 72) P

### 8. WHAT IS THE SUPREME FOLLY

He calls on, beside Allah, that which can neither harm nor help him. That is the supreme folly.

(XXII: 12) Z

### 9. WORSHIPPING IDOLS IS FOLLOWING A FALSEHOOD

You worship idols besides Allah and invent falsehoods. Those whom you serve beside Him can give you no provision. Therefore seek the bounty of Allah, and worship Him. Give thanks to Him, for to Him you shall return.

(XXIX: 17) Z

### 10. NO PARDON FOR THOSE WHO ASSOCIATE OTHER GODS WITH ALLAH

Allah will not forgive those who associate other gods with Him; but He will forgive whom He will for other sins. He that associates other gods with Him is guilty of a heinous sin.

(IV: 48) Z

### 11. ALL THAT IS IN THE HEAVENS AND THE EARTH PRAISES AND GLORIFIES ALLAH

22. Allah is He, than Whom

يَبْنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي  
وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ  
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصَارٍ

(۷۲: ۵)

### ۸- ما هو الضلال البين

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا  
لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ

(۱۲: ۲۲)

### ۹- عبادة الأصنام بهتان و افلاس بین

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَ  
تَخْلُقُونَ أَفْكَارًا لِ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ  
مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا  
فَأَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ  
وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

(۱۷: ۲۹)

### ۱۰- لن يعف الله للذين يجعلون له أندادا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ  
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ  
يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

(۴۸: ۴)

### ۱۱- ما من شيء في السموات والأرض إلا يسبح بحمد الله

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ

..... یعنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا ہی پروردگار  
ہے اور تمہارا ہی اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ  
شُرک کرے گا۔ اللہ اس پر بہشت کو حرام کرے گا اور اس کا  
گھر، دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

(۷۲: ۵)

### ۸- پرلے دے جے کی گمراہی کونسی ہے

یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو اسے نقصان پہنچا  
اور نہ فائدہ دے سکتی ہے تو پرلے دے جے کی گمراہی ہے۔

(۱۲: ۲۲)

### ۹- بت پرستی تو ایک طوفان باندھنا ہے

تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان  
باندھتے ہو تو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو  
وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے پس اللہ ہی  
نے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو  
اور اسی کا شکر کرو اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔

(۱۷: ۲۹)

### ۱۰- اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کی بخشش نہیں ہوگی

اللہ اس گناہ کو نہیں بخشنے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا  
جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے  
جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔

(۴۸: ۴)

### ۱۱- جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی ہی تسبیح کرتے ہیں

ذی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پوشیدہ اور

there is no other god; who knows (all things) both secret and open; He, Most Gracious, Most Merciful. 23. Allah is He, than whom there is no other god, the Sovereign, the Holy One, the Source of Peace (and Perfection), the Guardian of Faith, the Preserver of Safety, the Exalted in Might, the Irresistible, the Supreme Glory to Allah! (High is He) above the partners they attribute to Him. 24. He is Allah, the Creator, the Evolver, the Bestower of Forms (or Colours). To Him belong the Most Beautiful Names. Whatever is in the heavens and on earth, doth declare His Praises and Glory; and He is the Exalted in Might, the Wise.

(IX: 22-24) Y

## 12. ALLAH BEARS WITNESS TO HIS OWN ONENESS

Allah (Himself) is witness that there is no God save Him. And the angels and the men of learning (too are witness) Maintaining His creation in justice, there is no God save Him, the Almighty, the Wise.

(III: 18) P

وَالشَّهَادَةُ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۲۲﴾  
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ  
الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ  
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ  
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۲۳﴾  
هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ  
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۴﴾

(۲۴ : ۲۲ - ۲۳)

۱۲۔ شہد اللہ نفسه بوحدا نیتہ

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا  
بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ ۝

(۱۸ : ۳)

ظاہر کا جاننے والا وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ﴿۲۲﴾  
وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بادشاہ  
(حقیقی، پاک ذات (ہر جیسے) سلامتی امن دینے والا نگہبان  
غالب بزورست بڑائی والا۔ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے  
سے پاک ہے ﴿۲۳﴾ وہی اللہ (عام مخلوقات کا) خالق، ایجاد  
اختران کرنیوالا صورتیں بنانے والا اس کے سب اچھے سے اچھے نام  
ہیں جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح  
کرتی ہیں۔ اور وہ غالب مکت والا ہے ﴿۲۴﴾

(۲۴ : ۲۲ - ۲۳)

۱۲۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے متعلق  
خود بھی گواہی دی ہے

اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی  
معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر  
قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب مکت  
والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔

(۱۸ : ۳)

## PROPHETHOOD

(Muhammad—Peace and Blessings of Allah be upon him)

### 1. ALLAH MADE COVENANT WITH THE PROPHETS

Behold! Allah took the Covenant of the Prophets, saying: "I give you a Book and Wisdom: then comes to you an Apostle confirming what is with you; do ye believe him and render him help." Allah said: "Do ye agree, and take this My Covenant as binding on you?" They said: "We agree" He said: "Then bear witness, and I am with you among the witnesses"

(III: 81) Y

### 2. MUHAMMAD (P.B.U.H) MENTIONED IN TORAH AND GOSPEL

Those who follow the Apostle, the unlettered Prophet, whom they find mentioned in their own (Scriptures); in the Law and the Gospel; -----

(VII: 157) Y

### 3. JESUS PROPHESED THE COMING OF 'AHMAD' (P.B.U.H)

And remember, Jesus the son of Mary, said: "O Children of Israel! I am the Apostle of Allah (sent) to you confirming the Law (which came) before

## الرسالة-محمد

(صلى الله عليه وآله وسلم)

### ۱۔ اخذ الله الميثاق من النبيين

وَإِذ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَانْتَصِرْتُمْ لَهُ قَالُوا لَنْ نؤْمِنَ بِهِ وَانْتَصِرْنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَصْرًا قَالُوا أَقْرَبُنَا قَالَ فَأَشْهِدُوا وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝

(۸۱: ۳)

### ۲۔ ذکر سیدنا محمدؐ فی التوراة و الانجیل

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

(۱۵۷: ۱۷)

### ۳۔ بشر عیسیٰ بن مریمؑ برسالہ احمدؐ

وَإِذ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ

## رسالت-محمد

(صلى الله عليه وآله وسلم)

### ۱۔ اللہ تعالیٰ کا پیغمبروں سے عہد لینا

اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب تم کو کتاب اور دانا دی جاوے گی پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ عہد تمہارے ہاں کیا ہے اور اس پر میرا ذمہ کیا ہے تو مجھے ضمانت ٹھہری۔ انہوں نے کہا ہاں ہم نے تواریخ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد پر ایمان کے گوشہ بہار میں تمہاری ساتھی ہو۔

(۸۱: ۳)

### ۲۔ حضرت محمدؐ کا تورات اور انجیل میں ذکر

وہ جو محمدؐ رسول اللہ کی جو بھی امی ہیں پیروی کرتے ہیں جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔

(۱۵۷: ۱۷)

### ۳۔ عیسیٰ نے احمدؐ کے متعلق پیشگوئی کی

اور وہ وقت بھی یاد کرو جب عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں (اور جو کتاب مجھے دی ہے)

me, and giving glad tidings of an Apostle to come after me whose name shall be Ahmad." But when he came to them with Clear Signs, they said, "This is evident sorcery!"

(LXI: 6) Y

#### 4. WHY MUHAMMAD (P.B. U.H.) WAS SENT AFTER THE BREAK IN PROPHEPIC DISPENSATION

O people of the Book! Now hath come unto you, making (things) clear unto you, our Apostle, after the break in (the series of) Our apostles, lest ye should say: there came unto us no bringer of glad tidings and no warner (from evil) -----

(V: 19) Y

#### 5. MUHAMMAD (P.B.U.H.) - UMMEF (WHO COULD NEITHER READ NOR WRITE)

And thou was not (able) to recite a Book before this (Book came), nor art thou (able) to transcribe it with thy right hands: in that case; indeed, would the talkers of vanities have doubted.

(XXIX: 48) Y

#### 6. WHY MUHAMMAD (P.B.U.H.) WAS SENT

But thee We only sent to give glad tidings and admonition.

(XXV: 56) Y

We sent not an Apostle, but to be obeyed, in accordance with the will of Allah,-----

(IV: 64) Y

يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي  
مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ  
بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

(۶۱: ۶)

۴۔ لماذا بعث سيدنا محمد بعد فتره  
من الرسل

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا  
يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فِتْرَةِ مَنِ الرُّسُلِ  
أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا  
نَذِيرٍ -----

(۱۹: ۵)

۵۔ محمد نبی امی لم یکن یعرف القراءة ولا الكتابة

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا  
تَخْطُ بِيَمِينِكَ إِذْ أُرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ۝

(۴۸: ۴۹)

۶۔ لماذا بعث سيدنا محمد

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

(۵۶: ۲۵)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ  
بِإِذْنِ اللَّهِ -----

(۶۴: ۴)

آجکل سے یعنی تورات اسکی تصدیق کرتا ہوں اور ایک پیغمبر میرے  
بعد آئیگی جن کا نام احمد ہوگا انکی بشارت سناتا ہوں (پھر جب  
ان لوگوں پاس کمل نشانیاں لیکر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو سحر و جادو ہے۔

(۶۱: ۶)

۴۔ پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ منقطع ہونے  
کے بعد حضرت محمد کے آنے کی وجوہات

اے اہل کتاب پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصہ  
تک منقطع رہا تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آگئے  
ہیں۔ جو تم سے (ہمارے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم ریز کہو کہ  
ہمکے پاس کئی خوشخبری یا ڈرنا سے ڈلا نہیں آیا.....

(۱۹: ۵)

۵۔ محمد امی (جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے)

اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور اسے اپنے ہاتھ  
سے لکھ ہی سکتے تھے ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے۔

(۴۸: ۴۹)

۶۔ حضرت محمد کے بھیجے جانے کی وجوہات

اور ہم نے (محمد) تم کو صرف خوشخبری اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے

(۵۶: ۲۵)

اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لئے بھیجا ہے کہ اللہ کے  
فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے.....

(۶۴: ۴)

Say: "I tell you not that with me are the treasures of Allah, nor do I know what is hidden, nor do I tell you I am an angel. I but follow what is revealed to me". Say: "Can the blind be held equal to the seeing?" Will ye then consider not?

(VI: 50) Y

### 7. MUHAMMAD (P.B.U.H.) DOES NOT SPEAK OF HIS OWN DESIRE BUT IT IS AN INSPIRED REVELATION

1. By the Star when it goes down, 2. Your Companion is neither astray nor being misled, 3. Nor does he say (ought) of (his own) Desire, 4. It is no less than inspiration sent down to him: 5. He was taught by one Mighty in Power.

(LIII: 1-5) Y

### 8. PREFERENCE GIVEN TO SOME PROPHETS OVER OTHERS

And it is your Lord that knoweth best all beings that are in the heavens and on earth: We did bestow on some Prophets more (and other) gifts than on others: and We gave to David the (gift of) the Psalms.

(XVII: 55) Y

### 9. ALLAH COMMANDED MUHAMMAD (P.B.U.H.) TO DECLARE HIS PROPHETHOOD

1. O thou wrapped up (in a mantle)! 2. Arise and deliver thy warning! 3. And thy Lord do thou magnify! 4. And thy garments keep free from

قُلْ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ  
وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي  
مَلَكٌ إِن تَبِعُوا إِلَّا مَا يُوْحَىٰ لِي  
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ  
أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۝

(۵۰:۶)

۷۔ لا ینطق سیدنا محمد عن الہوی بل  
ینطق بہا یوحی الیہ من اللہ  
وَالنَّجْمِ إِذْ هُوَ ۝

مَا ضَلَّ صَاحِبُكَ وَ مَا غَوَى ۝  
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۝  
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ۝  
عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ۝

(۵۳:۱-۵)

۸۔ لقد فضل بعض الرسل علی بعض

وَرَبِّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ  
الْأَرْضِ ۖ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ  
عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

(۵۵:۱۷)

۹۔ أمر اللہ سیدنا محمدًا ان یعلن  
رسالته

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝  
وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ۝  
وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ ۝

کہہ دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے  
ہیں اور نہ ایک کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں  
کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس علم پر پلتا ہوں جو مجھے اللہ  
کی طرف آتا ہے۔ کہہ دو کہ بعد انصاف اور انکسور اور برابر  
ہوتے ہیں تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟

(۵۰:۶)

۷۔ حضرت محمدؐ اپنی خواہش نفسانی سے بات نہیں کرتے  
بلکہ ان کا ارشاد تو نوری وحی ہوتی ہے  
تو اس کی قسرت غائب ہونے کے ۱ کہ  
تمہارے نفس مجھ سے راستہ بولے ہیں مجھے ہیں ۲  
اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں ۳ یہ  
قرآن تو محمدؐ اللہ ہے جو اس کی طرف بھیجتا ہے ۴ ان  
کو نہایت قوت والے نے سکھایا ۵

(۵۳:۱-۵)

۸۔ بعض پیغمبروں کو دوسروں پر فضیلت دی گئی ہے

اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار  
ان سے خوب واقف ہے۔ اور ہم نے بعض پیغمبروں کو  
بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔

(۵۵:۱۷)

۹۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمدؐ کو نبوت کا  
اعلان کر دینے کا حکم فرمایا

اسے (محمدؐ) جو کپڑا پیٹے پڑے ہو ۱  
اٹھو اور ہدایت کرو ۲ اور اپنے پروردگار  
کی بڑائی کرو ۳ اور اپنے کپڑوں کو پاک کھو ۴

stain. 5. And all abomination shun! 6. Nor expect, in giving any increase (for thyself)! 7. But, for thy Lord's (cause), be patient and constant!

(LXXIV: 1-7) Y

### 10. SPECIAL FAVOURS BESTOWED BY ALLAH ON MUHAMMAD (P.B.U.H.)

#### (1) Mercy For All Worlds

We sent thee not, but as a Mercy for all creatures.

(XXI: 107) Y

We have sent you forth to all mankind, so that you may give them good news and warn them. But most men have no knowledge.

(XXXIV: 28) Z

#### (2) Last of the Prophets

Muhammad is not the father of any of your men, but (he is) the Apostle of Allah, and the Seal of the Prophets: And Allah has full knowledge of all things.

(XXXIII: 40) Y

#### (3) The Ascension or The Celestial Journey to see Signs of Allah

Glory to (Allah) Who did take His Servant for a journey by night from the Sacred Mosque to the Farthest Mosque, whose precincts We did Bless, in order that We might show him some of Our Signs: for He is the One Who heareth and seeth (all things).

(XVII: 1) Y

وَالرَّجُزَ فَاهْجُرْ ⑤  
وَلَا تَمُنَّ بِتَمَنِّي ⑥  
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ⑦

(٧-١: ٧٤)

۱۰۔ النعم الخاصة من الله على محمد

۱، رحمة للعالمين

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ①

(١٠٧: ٢١)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا  
وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ②

(٢٨: ٢٤)

۲، خاتم النبيين

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ  
وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ③  
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ④

(٤٠: ٣٣)

۳، مختار للمعراج ليلة الإسراء

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا  
مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ  
الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ  
مِن آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑤

(١٧: ١٧)

اور ناپاکی سے ڈرو رہو ⑤ اور (اس نیت سے) احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو ⑥ اور اپنے پروردگار کے لئے صبر کرو ⑦

(٤-١: ٤٣)

۱۰۔ حضرت محمد پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی نعمات

۱، تمام جہانوں کے لئے باعثِ رحمت

اور (اے محمد) ہم نے تم کو تمام جہان کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

(١٠٧: ٢١)

اور (اے محمد) ہم نے تم کو تمام لوگوں کیلئے خوشخبری سنائی و لا اؤ ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

(٢٨: ٢٤)

۲، خاتم النبيين

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں (کی نبوت) کی ختم (یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں) اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

(٤٠: ٣٣)

۳، معراج کا مقدس سفر

وہ (رات) پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام (یعنی مکہ کی مسجد اقصیٰ) یعنی بیت المقدس تک جس گروا کر وہ نے کھینچیں گے ہیں لے گیا تاکہ ہم اپنے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بیشک وہ سنے والا اور دیکھنے والا ہے۔

(١٧: ١٧)

17. (His) sight never swerved, nor did it go wrong! 18. For truly did he see, of the Signs of his Lord, the Greatest!

(LIII: 17-18) Y

(4) Islam proclaimed as the Perfect and Approved Religion

....This day have I perfected your religion for you and completed My favour unto you, and have chosen for you as religion AL-ISLAM,-----

(V: 3) P

(5) Fount of Abundance granted

To thee have We granted the Fount (of Abundance).

(CVIII: 1) Y

(6) Blessings of Allah and Salutations by His Angels on Muhammad (P.B.U.H.)

Allah and His Angels send blessings on the Prophet,-----

(XXXIII: 56) Y

(7) Splitting of the Moon in two parts was declared by unbelievers as a magic by Muhammad (P.B.U.H.)

1. The hour (of Judgement) is drawing near, and the moon is cleft in two. 2. Yet when they see a sign (the unbelievers) turn their backs and say: Strong magic!

(LIV: 1-2) Z

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ①  
لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ②

(۱۸ - ۱۷ : ۵۳)

۴۔ اکل اللہ دین الإسلام ورضیہ لکافہ الناس دینا  
.....الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ  
اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ  
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا.....

(۳ : ۵)

۵۔ اَعْطَى الْكُوْثِرَ

إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ

(۱ : ۱۰۸)

۶۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى النَّبِيِّ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى النَّبِيِّ

(۵۶ : ۲۳)

۷۔ اَعْتَبِرُوا لَلْغَاۤءِ مَعْجَزَةً شَقَّ الْقَمَرِ مُحَمَّدٌ  
(صلى الله عليه وسلم)

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالْقَمَرُ ①  
وَ اِنْ يَّرَوْا آيَةً يُعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ  
مُّسْتَمِرٌّ ②

(۲ - ۱ : ۵۴)

ان کی آنکھ تو اور طرف مائل نہ ہوئی اور نہ حد آگے بڑھی ①  
پنپے پر بڑھ کر ان کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ②

(۱۸ - ۱۷ : ۵۳)

۴۔ دین اسلام مکمل کر دیا گیا اور پسند فرمایا

..... (۳) آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا  
اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لئے  
اسلام کو دین پسند کیا.....

(۳ : ۵)

۵۔ کوثر عطا فرمائی گئی

اسے محمدؐ ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے۔

(۱ : ۱۰۸)

۶۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا محمدؐ پر درود بھیجنا

اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں.....

(۵۶ : ۲۳)

۷۔ چاند کے دو ٹکڑے ہوجانے کے معجزے کو کفار نے محمدؐ کا  
جاد و قرار دیا

قیامت قریب آ رہی اور چاند شق ہو گیا ① اور کافر  
کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں  
کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے ②

(۲ - ۱ : ۵۴)



(8) Muhammad's (P.B.U.H.)  
Community declared  
the Best Community

We are the best community  
that hath been raised up for  
mankind.....

(III: 110) P

11. MENTION OF SPIRITUAL  
POWER OF A MEMBER OF  
SOLOMON'S COMMUNITY IN-  
VITES COMPARISON WITH  
FOLLOWERS OF  
MUHAMMAD'S (P.B.U.H.)  
COMMUNITY EVOLVED AS  
THE 'BEST COMMUNITY'  
FOR MANKIND

Said one who had knowledge  
of the Book "I will bring it to  
thou within the twinkling of an  
eye" Then when (Solomon)  
saw it placed firmly before him,  
he said "This is by the grace of  
my Lord! To test me whether  
I am grateful or ungrateful! And  
if any is grateful, truly his grati-  
tude is (a gain) for his own  
souls, but if any is ungrateful,  
truly my Lord is free of all  
Needs, Supreme in Honour!".....

(XXVII: 40) Y

12. MUHAMMAD (P.B.U.H.)  
PUT ON THE RIGHT WAY  
OF RELIGION

Then We put thee on the  
(right) Way on Religion: so  
follow thou that (Way), and  
follow not the desires of those  
who know not.

(XLV: 18) Y

13. TO SWEAR ALLEGIANCE  
TO MUHAMMAD (P.B.U.H.)  
IS TO SWEAR ALLEGIANCE  
TO ALLAH

Lo! those who swear alle-  
giance unto thee (Muhammad),  
swear allegiance only unto  
Allah.....

(XLVIII: 10) P

(۸) امة محمد خير جميع الامم

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

(۱۱۰: ۳)

۱۱۔ فی بیان القوت الروحانیہ لصاحب  
سلیمان ایضا اشارت الی التدریج  
مستوی مکانة افراد خیر الامم  
وہی امة محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا  
أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ  
فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ  
فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ  
وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ  
كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

(۴۰: ۲۷)

۱۲۔ جعل اللہ محمدًا علی شریعة من الامر  
ثم جعلناك علی شریعة من الامر  
فاتبعتها ولا تتبعها هواء الذين لا  
يعلمون

(۱۸: ۴۵)

۱۳۔ ان الذين يبايعون محمدًا انما  
يبايعون الله

ان الذين يبايعونك انما يبايعون  
الله يد الله فوق ايديهم

(۱۰: ۴۸)

(۸) محمد کی امت کو بہترین قرار دیا گیا

دینا یعنی امتیں یعنی تم میں لوگوں میں یہ نہیں ان سے بہتر ہو

(۱۱۰: ۳)

۱۱۔ حضرت سلیمان کے ایک امتی کی روحانی  
طاقت کے بیان سے نسل انسانی کی بہترین  
امت یعنی امت محمدیہ کے افراد کے مقام کے  
بارے میں غور و فکر کا اشارہ ملتا ہے

ایک شخص جس کو کتاب (الہی) کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ  
کے چمکنے سے پہلے پہلے آپ کے پاس حاضر کئے دیتا ہوں جب  
سلیمان نے تمت کو اپنے پاس کھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا  
فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں  
اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا  
ہے تو میرا پروردگار بے پروا اور کرم کرنے والا ہے۔

(۴۰: ۲۷)

۱۲۔ حضرت محمد کو دین کے کھلے راستے پر قائم کر دیا گیا  
پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے راستے پر قائم کر دیا  
تو اسی (رستے) پر چلے جاؤ اور نادانوں کی خواہشوں  
کے پیچھے نہ چلنا۔

(۱۸: ۴۵)

۱۳۔ حضرت محمد سے بیعت کرنے والے اللہ تعالیٰ  
سے بیعت کرتے ہیں

جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں  
اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے.....

(۱۰: ۴۸)

Ye have indeed in the Apostle of Allah a beautiful pattern of (conduct) for anyone whose hope is in Allah and the Final Day.....

(XXXIII: 21) Y

#### 14. OBEDIENCE TO ALLAH AND MUHAMMAD (P.B.U.H.) IS THE SAME

He who obeys the Apostle, obeys Allah: but if any turn away, We have not sent thee to watch over their (evil deeds).

(IV: 80) Y

Say: "Obey Allah, and obey the Apostle:-----

(XXIV: 54) Y

It is such as obey Allah and His Apostle. And fear Allah and do right, that will win (in the end).

(XXIV: 52) Y

And obey Allah and the Apostle; That ye may obtain mercy.

(III: 132) Y

----- If anyone disobeys Allah and His Apostle, he is indeed on a clearly wrong path.

(XXXIII: 36) Y

#### 15. THE COMPANIONS OF MUHAMMAD (P.B.U.H.) BEAR THE MARK OF TRUE WORSHIP ON THEIR FACES

Muhammad is the messenger of Allah. And those with him are hard against the disbelievers and merciful among themselves. Thou (O Muhammad) seest them bowing and falling prostrate (in worship), seeking bounty from Allah and (His) acceptance. The mark of them is on their foreheads from traces of prostration-----

(XLVIII: 29) P

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ  
حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرَ .....

(۲۱: ۳۳)

۱۴۔ لافرق فی اطاعت اللہ و اطاعت  
محمد

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ  
وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝

(۸۰: ۴)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ

(۵۴: ۲۴)

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ  
وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝

(۵۲: ۲۴)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ  
تُرْحَمُونَ ۝

(۱۳۲: ۳)

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ۝

(۳۶: ۳۳)

۱۵۔ تظہر آثار العبودیۃ الصادقہ  
علی وجہ اصحاب محمد

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ  
عَلَى الْكُفَّارِ رَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا  
سُجَّدًا أَيَّبَتَّعُونَ فَضَلَّ مَنْ اللَّهُ وَرِضْوَانًا  
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِمَّنْ أَسْرَ السُّجُودِ

(۲۹: ۲۸)

تم کو پیغمبر اللہ کی پیروی کرنی بہتر ہے یعنی اسی  
شخص کو جسے اللہ (سے ملنے) اور روز قیامت کے  
سنے کی امید ہو.....

(۲۱: ۳۳)

۱۳۔ اللہ تعالیٰ اور محمد کی اطاعت فرمانبرداری  
میں کوئی فرق نہیں

جو شخص رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو جیسا کہ اللہ کی فرمانبرداری  
کی اور جو نہ کرے تو جیسے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کے گنہگار نہیں سمجھا

(۸۰: ۴)

کہو کہ اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول (اللہ) کے حکم پر چلو.....

(۵۴: ۲۴)

اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اور اس سے  
ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ ہو گے جو پسینے والے ہیں۔

(۵۲: ۲۴)

وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تا کہ تم  
پر رحمت کی جائے۔

(۱۳۲: ۳)

..... اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی  
ناذمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔

(۳۶: ۳۳)

۱۵۔ حضرت محمد کے صحبت یافتہ لوگوں (صحابہ)  
کے چہروں پر حقیقی بندگی کے آثار  
نمایاں ہیں

محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ صحبت یافتہ ہیں وہ لوگوں سے  
معاذیں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں اسے غائب تو انکو دیکھنے کا  
کے بھی بوجھ کر ہے یہ کبھی سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و رضائی  
کی جو میں لگے ہیں انکے آثار جو بتائے سجدہ کے انکے چہروں پر ایسی

(۲۹: ۲۸)

### 16. HELL IS FOR THOSE WHO DISOBEY ALLAH AND HIS PROPHET

----- For any that disobeys Allah and His Apostle, for them is Hell they shall dwell therein forever.

(LXXII: 23) Y

### 17. BELIEVERS SHOULD INVOKE BLESSINGS AND SALUTATIONS ON MUHAMMAD (P.B.U.H.)

Allah and His Angels send blessings on the Prophet. O ye that believe! Send ye blessings on him, and salute him with all respect.

(XXXIII: 56) Y

### 18. ALLAH FORGIVES THOSE FOR WHOM FORGIVENESS IS ASKED BY MUHAMMAD (P.B.U.H.)

----- When they were unjust to themselves, come unto thee and asked Allah's forgiveness, and the Apostle had asked forgiveness for them, they would have found Allah indeed Oft-Returning, Most Merciful.

(IV: 64) Y

### 19. MUHAMMAD (P.B.U.H.) HAS A GREATER CLAIM ON BELIEVERS THAN THEIR LIVES AND PROPHET'S WIVES ARE LIKE THEIR MOTHERS

The Prophet is closer to the Believers than their own selves, and his wives are their mothers.-----

(XXXIII: 6) Y

۱۶- من بعض الله وسوله فساوا جهنم  
----- وَمَنْ يَعَصِ  
الله ورسوله فان له نار جهنم خلد فيه  
فيها ابدًا ○

(۲۳: ۱۷۲)

۱۷- على المؤمنين أن يصلوا ويسلموا  
على محمد (صل الله عليه وآله وسلم)

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا  
تَسْلِيمًا ○

(۵۶: ۲۳)

۱۸- يغفر الله ذنوب الذين يستغفرون  
لهم سيدنا محمد

..... وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا  
أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ  
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا  
اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ○

(۶۴: ۴)

۱۹- محمد أحق بالمؤمنين من أنفسهم  
وأزواجه كأمهاتهم

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ  
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ  
-----

(۶۱: ۳۳)

۱۶- اللہ تعالیٰ اور محمد کے نام زمان لوگوں کا جہنم ہوگا  
... جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانتے تو یقیناً ان لوگوں  
کیلئے آتش دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

(۲۳: ۷۲) ۱-۲

۱۷- مومنوں کو حضرت محمد پر درود و سلام  
بھیجا لازم ہے

اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے  
ہیں۔ مومنو! تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام  
بھیجا کرو۔

(۵۶: ۲۳)

۱۸- حضرت محمد کی طرف سے بخشش مانگنے پر  
اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتا ہے

.... اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے  
اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور  
رسول اللہ بھی ان کے لئے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو  
معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔

(۶۴: ۴)

۱۹- حضرت محمد کا مومنوں پر انکی جانوں سے بھی زیادہ  
حق ہے اور نبی کی بیویاں انکی مائیں ہیں

پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے  
ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں.....

(۶۱: ۳۳)

20. ALLAH WILL FORGIVE THE SINS OF THOSE WHO FOLLOW MUHAMMAD (P.B.U.H.)

Say, (O Muhammad, to mankind): If ye love Allah, follow me; Allah will love you and forgive you your sins. Allah is Forgiving, Merciful.

(III: 31) P

21. LACK OF RESPECT FOR MUHAMMAD (P.B.U.H.) MAY RESULT IN CANCELLATION OF ALL GOOD DEEDS

O ye who believe! Lift not up your voices above the voice of the Prophet, nor shout when speaking to him as ye shout one to another, lest your works be rendered vain while ye perceive not.

(XLIX: 2) P

22. ALLAH SENT MUHAMMAD (P.U.B.H.) AS BEARER OF TIDINGS AND DISSEMINATOR OF LIGHT

45. O Prophet! Lo! We have sent thee as a witness and a bringer of good tidings and a warner. 46. And as a summoner unto Allah by His permission, and as a lamp that giveth light.

(XXXIII : 45-46) P

۲۰۔ یغفر اللہ ذنوب الذین  
یتبعون محمدًا

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي  
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ  
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(۳۱ : ۳)

۲۱۔ إذا قصر الإنسان في احترام النبي  
خيف عليه من ضياع أعماله

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ  
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ  
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ  
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

(۴۹ : ۲)

۲۲۔ لقد بعث الله محمدًا بشيرًا  
وسراجًا منيرًا

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا  
وَنَذِيرًا  
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

(۳۳ : ۴۵-۴۶)

۲۰۔ اتباع رسول محمدؐ کرنیوالوں کے گناہ  
اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا

اے پیغمبروں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے  
ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہیں  
گناہ معاف کرے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(۳۱ : ۳)

۲۱۔ حضرت محمدؐ کے احترام میں فراموشی کر جانے پر  
انسان کے تمام اعمال ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے

اے اہل ایمان! اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو  
اور جسطح آپس میں ایک دوسرے سے نور سے اونچی ہو (اس طرح)  
ان کے دوبرو زور سے نہ بولا کرو (السنہ ہو) کہ تمہارے اعمال  
ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

(۴۹ : ۲)

۲۲۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمدؐ کو خوشخبری  
سنائیوالا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا

اے پیغمبر ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری  
سنائیوالا اور ڈرائیوالا بنا کر بھیجا ہے ﴿۴۵﴾ اور اللہ  
کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن ﴿۴۶﴾

(۳۳ : ۴۵-۴۶)

## WORSHIP OF ALLAH

### PRAYERS

#### 1. ALLAH CREATED MAN KIND AND JINN FOR HIS WORSHIP

56. I only created man kind and the jinn that they might worship Me. 57. I demand no livelihood of them nor do I ask that they should feed Me.

(11: 56-57) Z

#### 2. PLACE OF THOSE WHO DO NOT PRAY

40. In gardens they will ask one another. 41. Concerning the guilty. 42. What hath brought you to this burning? 43. They will answer. We were not of those who prayed. 44. Nor did we feed the wretched. 45. We used to wade (in vain disputes) with (all) waders. 46. And we used to deny the Day of Judgement.

(LXXIV: 40-46) P

#### 3. PRAY FOR YOURSELF AND YOUR FAMILY FOR STEADFASTNESS IN WOR- SHIP

Lord, make me and my descendants steadfast in prayer. Lord, accept my prayer.

(XIV: 40) Z

## عبادۃ اللہ

### الصلوة

۱۔ ما خلق اللہ الجن والانس  
إلا لعبادته

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾  
مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ  
أَنْ يُطْعَمُونِ ﴿٥٧﴾

(۵۷ : ۵۶ - ۵۷)

۲۔ این سیکون غیر المصلین

فِي جَنَّةٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾  
مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصَلِينَ ﴿٤٣﴾

وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾

وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾

(۷۴ : ۴۰ - ۴۶)

۳۔ ادعوا اللہ ان يجعل اولادکم  
واياکم مقيمي الصلوة

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ  
ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾

(۱۴ : ۴۰)

## عبادات

### نماز

۱۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو  
اس لئے پیدا کیا کہ اس کی عبادت کریں  
اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ  
میری عبادت کریں ﴿۵۶﴾ میں ان سے طالبِ رزق نہیں  
اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے (کھانا) کھلائیں ﴿۵۷﴾

(۵۷ : ۵۶ - ۵۷)

۲۔ نماز نہ پڑھنے والے کہاں ہونگے  
کہ وہ باغبانے بہشت میں (ہوں گے اور) پوچھتے  
ہوں گے ﴿۴۰﴾ (یعنی آگ میں جلنے والے) گنہگاروں  
سے ﴿۴۱﴾ کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ؟ ﴿۴۲﴾  
وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ﴿۴۳﴾  
اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے ﴿۴۴﴾ اور اہلِ باطل کے  
ساتھ (کرہی سے) انکار کرتے تھے ﴿۴۵﴾ اور وزیرِ جا  
کو جھٹلاتے تھے ﴿۴۶﴾

(۷۴ : ۴۰ - ۴۶)

۳۔ اپنی اور اپنی اولاد کے لئے پابندی نماز  
کے لئے دعا کرنی چاہیے

اے پروردگار مجھ کو (اسی توفیق عنایت) کہ نماز پڑھتا ہوں اور میری  
اولاد کو بھی (توفیق بخش) اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔

(۱۴ : ۴۰)

#### 4. IT IS OBLIGATORY TO ORDER FAMILY MEMBERS TO OFFER PRAYERS

And enjoin upon thy people worship and be constant therein-----

(XX : 132) P

#### 5. WHY ONE SHOULD SAY PRAYERS

45. Seek help in patience and prayer; and truly it is hard save for the humble-minded. 46. Who know that they will have to meet their Lord, and that unto Him they are returning.

(II : 45 - 46) P

Recite what is sent of the Book by inspiration to thee, and establish regular Prayer; for Prayer restrains from shameful and unjust deeds;-----

(XXIX : 45) Y

#### 6. INJUNCTIONS REGARDING PRAYERS

Establish worship, pay the poor-due, and bow your heads with those who bow (in worship).

(II : 43) P

Establish worship at the two ends of the day and in some watches of the night. Lo! good deeds annul ill deeds. This is a reminder for the mindful.

(XI : 114) P

14. Lo! I, even I, am Allah. There is no God save Me. So serve Me and establish worship for My remembrance. 132. And enjoin upon thy people worship and be constant therein. We ask not of thee a provision: We provide for thee. And the sequel is for righteousness.

(XX : 14, 132) P

#### ۴۔ علیکم ان تأمروا اہلکم بالصلوٰۃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

(۱۳۲ : ۲۰)

#### ۵۔ لماذا أقام الصلوة

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ  
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ  
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُوا  
رَبِّهِمْ وَأَنَّهُم إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

(۴۶ : ۴۵ - ۴۶)

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مِنَ الْكِتَابِ  
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

(۴۵ : ۲۹)

#### ۶۔ إرشادات لإداء الصلوة

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

(۴۳ : ۲)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا  
مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ  
ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ

(۱۱۴ : ۱۱)

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي  
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي  
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا  
لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ

الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

(۱۳۲ : ۱۴)

۳۔ اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم دینا  
بھی لازم ہے

اور اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو۔۔۔

(۱۳۲ : ۲۰)

#### ۴۔ نماز کیوں پڑھنی چاہیے

درج ذیل تکلیف میں صبر و پابندی سے مدد کیا کرو اور بیشک نماز  
کرنے سے ظلم کو روکا جائے گا اور جو لوگ اپنے گھروالوں کو نماز  
جو یقین لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں  
اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

(۴۶ : ۴۵ - ۴۶)

۵۔ اے محمد! یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس  
کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز  
بے سیما اور بڑی باتوں سے روکتی ہے۔۔۔۔۔

(۴۵ : ۲۹)

#### ۶۔ نماز کے لئے ہدایات اور فوائد

اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے آگے  
جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔

(۴۳ : ۲)

اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات  
کی چند پہلی ساتھیوں میں نماز پڑھا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ نیکیاں  
جو کر دیتی ہیں ان کی بد نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنا چاہیے۔

(۱۱۴ : ۱۱)

بیشک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو میری عبادت  
کیا کرو اور میری یاد کے لئے نماز پڑھا کرو۔  
اور اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو۔  
تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں تمہیں روزی دینے

ہیں اور نیک انجام (اہل تقویٰ) کا ہے۔

(۱۳۲ : ۱۴)

22. Save worshippers, 23. Who are constant at their worship, 34. And those who are attentive at their worship, 35. These will dwell in Gardens, honoured.

(LXX 22-23, 34-35) P

## 7. CALL TO PRAYERS

And when ye call to prayer they take it for a jest and sport. That is because they are a folk who understand not.

(V 58) P

O ye who believe! When the call is heard for the prayer of the day of congregation, haste unto the remembrance of Allah and leave your trading. That is better for you if ye did but know.

(LXII 9) P

## 8. DO NOT OFFER PRAYERS WHILE IN A STATE OF PERSONAL IMPURITY

O ye who believe! Approach not prayers with a mind befogged\* until ye can understand all that ye say, nor in a state of ceremonial impurity (except when travelling on the road), until after washing your whole body-----

(IV 43) Y

## 9. DRESS IN PRAYERS

4 And thy garments keep free from stain! 5. And all abomination shun!

(LXXIV 4-5) Y

O Children of Adam! Wear your beautiful apparel at every time and place of prayer:-----

(VII 31) Y

\*Orders regarding total prohibition were received later. Refer to Social Evils page 216

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿۲۲﴾  
الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿۲۳﴾  
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۳۴﴾  
أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿۳۵﴾  
(۲۵ : ۲۲-۲۳-۲۴-۲۵)

## ۷- الأذان

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هَاهُنَا  
وَلَعِبَاءَ ذَلِكَ يَا نَسَمَةَ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ  
(۵۸ : ۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ  
مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ  
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿۹﴾

(۹ : ۹۲)

## ۸- لا تقربوا الصلوة و انتم جنب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ  
وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا  
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي  
سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا  
(۴۳ : ۴)

## ۹- مانوع الثياب في الصلوة

وَتِيَابِكُمْ فَطَهِّرُوا ﴿۴﴾  
وَالرِّجْزَ فَاهْجُرُوا ﴿۵﴾  
(۵ : ۴-۵)

يَبْنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ  
مَسْجِدٍ  
(۳۱ : ۷)

مگر نماز گزار ﴿۲۲﴾ جو نماز کا التزام رکھتے اور بلاناہ  
پڑھتے) ہیں ﴿۲۳﴾ اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے  
ہیں ﴿۳۴﴾ یہی لوگ باہنہائے بہشت میں عزت و  
اکرام سے ہوں گے ﴿۳۵﴾  
(۲۵ : ۲۲-۲۳-۲۴-۲۵)

## ۷- اذان

اور جب تم نماز کے لئے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی  
ہنسی اور کھیل بناتے ہیں یہ اس لئے کہ سمجھ نہیں رکھتے  
(۵۸ : ۵)

مومنو! جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے  
تو اللہ کی یاد (یعنی نماز) کے لئے جلدی کرو اور  
(خریدو) فروخت ترک کر دو۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے  
حق میں بہتر ہے۔

(۹ : ۹۲)

## ۸- جنابت کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ

مومنو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک (ان الفاظ  
کو) جو منہ سے کہو سمجھنے (نہ) لگو نماز کے پاس نہ  
جاؤ۔ اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس  
نہ جاؤ (جب تک کہ غسل نہ کر لو۔۔۔۔۔)

(۴۳ : ۴)

## ۹- نماز میں لباس کیسا ہو

اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو ﴿۴﴾ اور ناپاکی  
سے دور رہو ﴿۵﴾

(۵ : ۴-۵)

اسے بنی آدم! ہر نماز کے وقت اپنے تئیں  
مزین کیسا کرو۔۔۔۔۔

(۳۱ : ۷)

\* جاہ حکم النہی عن شرب الخمر بعد ذلك - لاحظ  
عنوان "السيئات الاجتماعية" الصفحة ۲۱۶

\* شراب کو منوع قرار دینے کا حکم اس کے بعد آیا  
تھا۔ ملاحظہ فرمائیں سماجی برائیاں - صفحہ ۲۱۶

## 10. ABLUTION WITH WATER AND DUST

O ye who believe! When ye rise up for prayer, wash your faces and your hands upto the elbows, and lightly rub your heads and (wash) your feet up to the ankles. And if ye are unclean, purify yourselves. And if ye are sick or on a journey, or one of you cometh from the closet, or ye have had contact with women, and ye find not water, then go to clean, high ground and rub your faces and your hands with some of it. Allah would not place a burden on you, but He would purify you and would perfect His grace upon you, that ye may give thanks.

(V : 6) P

## 11. HOW TO SAY PRAYERS

1. Successful indeed are the believers, 2. Who are humble in their prayers,

(XXIII : 1 - 2) P

## 12. ONE SHOULD FACE KA'BAH DURING PRAYERS

Whencesoever thou comest forth turn thy face towards the Inviolable Place of Worship; and wheresoever ye may be (O Muslim) turn your faces towards it (when ye pray)-----

(II : 150) P

## 13. PRAYERS SHOULD BE OFFERED IN CONGREGATION

Establish worship, pay the poor-due, and bow your head with those who bow (in worship).

(II : 43) P

## ۱۰۔ الوضوء والتيمم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْمَرْغَبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

(۶۱:۵)

## ۱۱۔ كيف تقام الصلاة

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ○  
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ○

(۲۳ : ۱-۲)

## ۱۲۔ ولتوا وجوهكم نحو الكعبة عند أداء الصلاة

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ○

(۱۵۰ : ۲)

## ۱۳۔ يجب أداء الصلاة بالجماعة

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ○

(۴۳ : ۲)

## ۱۰۔ وضو اور تيمم

مومنو! جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو (نہا کر) پاک ہو جایا کرو اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے جو بستر تیسے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح (یعنی تيمم) کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔

(۶ : ۵)

## ۱۱۔ نماز کیسے پڑھنی چاہیے

بے شک ایمان والے مستحکم ہو گئے ○ جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں ○

(۲۳ : ۱-۲)

## ۱۲۔ نماز میں رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنا چاہیے

اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ دکر کے نماز پڑھا کرو۔ اور مسلمانوں تم جہاں ہو کرو اسی (مسجد) کی طرف رخ کیا کرو.....

(۱۵۰ : ۲)

## ۱۳۔ نماز باجماعت پڑھنی چاہیے

اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور (اللہ کے) آگے بھگنے والوں کے ساتھ بھگا کرو۔

(۴۳ : ۲)



O Mary! Be obedient to thy Lord, prostrate thyself and bow with those who bow (in worship).

(III 43) P

#### 14. TIMINGS FOR OBLIGATORY AND OPTIONAL PRAYERS AND FOR READING OF THE QUR'AN

78 Establish regular prayers at the sun's decline till the darkness of the night, and the morning prayer and reading for the prayer and reading in the morning carry their testimony. 79 And pray in the small watches of the morning (it would be) an additional prayer (of spiritual profit) for thee. Soon will thy Lord raise thee to a Station of Praise and Glory.

(XVII 78-79) Y

Therefore be patient with what they say, and celebrate (constantly) the praises of thy Lord, before the rising of the sun, and before its setting, you, celebrate them for part of the hours of the night, and at the sides of the day that thou mayest have (spiritual) joy.

(XX 130) Y

#### 15. PUNCTUALITY IN OFFERING PRAYERS

.....Worship at fixed hours hath been enjoined on the believers

(IV 103) P

#### 16. TAKE CARE OF ALL PRAYERS SPECIALLY MID-MOST (ASR) PRAYER

Be guardians of your prayers, and of the midmost prayer, and stand up with devotion to Allah.

(II 238) P

يَسْرِيماً قُنْتِي لِرَبِّكَ وَاسْجُدِي  
وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

(۴۳:۳)

۱۴- اوقات اداء الصلوة  
والتهجد وقرارة القرآن

اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى  
غَسَقِ الْيَلِّ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ  
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝۸

وَمِنَ الْيَلِّ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ۝  
عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝۹

(۷۹-۷۸:۱۷)

فَاَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ  
رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ  
غُرُوبِهَا ۚ وَمِنَ الْاَيِّ الْيَلِّ فَسَبِّحْ  
اَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝

(۱۳۰-۱۲۰)

۱۵- الحافظہ علی اوقات الصلوة  
..... اِنَّ الصَّلَاةَ

كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۝  
(۱۰۳:۴)

۱۶- يجب الحفظ علی جمع الصلوات  
وخاصة علی الصلوة الوسطی  
(العصر)

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ  
الْوَسْطَىٰ وَتُوْمُوا لِلَّهِ قُنْتِينَ ۝  
(۲۳۸:۲)

مریم اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کرنا اور سجدہ کرنا  
اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔

(۴۳:۳)

۱۳- نماز تہجد اور قرآن پڑھنے  
کے اوقات

آفتاب ڈھلنے کے بعد رات کے اندر (ہونے) تک نمازیں ادا کیا  
کیجئے اور صبح کی نماز بھی پیش صبح کی نماز (فجر) سامنے ہونے  
کا وقت ہے ۝ اور کسی قدر رات کے حصہ میں سوس  
میں تہجد پڑھ لیجئے جو کہ آپ کے لئے (فرض نمازوں کے علاوہ)  
زائد چیز ہے امید ہے آپ کا اللہ آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔

(۷۹-۷۸:۱۷)

سورج مغرب کا آنا یقینی ہے تو آپ اُچی (گھر آمین) باتوں پر صبر کیجئے  
اور اپنے رب کی حمد ساتھ (اُسی) تسبیح کیجئے (اس میں نماز بھی آگئی)  
آفتاب نکلنے سے پہلے (مثلاً نماز فجر) اور اس کے غروب سے پہلے (مثلاً نماز  
فجر و عصر) اور اوقات شب میں بھی تسبیح کیا کیجئے (مثلاً نماز مغرب و عشاء)  
اور دن کے اول و آخر میں تاکر (اُچھو جو ثابت ہے) آپ (اُسی) خوش ہو جائے۔

(۱۳۰:۲۰)

۱۵- نماز کے اوقات کی پابندی

..... بیشک نماز کا مومنوں پر اوقات (مقررہ) میں ادا کرنا فرض ہے۔

(۱۰۳:۴)

۱۶- تمام نمازوں کی اور خاص طور پر درمیان  
والی نماز (عصر) کی پابندی کرنی چاہیے

مسلمانوں میں خاص طور پر نماز عصر (پہلے) التزام کیا گیا  
اور کرتے رہے اور اللہ کے لئے ادب سے کھڑے رہا کرو۔

(۲۳۸:۲)

\* بعض مفسرین اس کو فجر کی نماز خیال کرتے ہیں۔

\*Some commentators think it is morning prayer.

\*ھی صلاۃ الفجر فی رأی بعض المفسرین

### 17. SUSPEND ALL BUSINESS FOR FRIDAY PRAYER

9. O ye who believe! When the call is heard for the prayer of the day of congregation, haste unto the remembrance of Allah and leave your trading. That is better for you if ye did but know. 10. And when the prayer is ended, then disperse in the land and seek of Allah's bounty, and remember Allah much, that ye may be successful

(LXII : 9 - 10) P

### 18. PRAYERS WHILE IN DANGER

And if ye go in fear, then (pray) standing or on horseback. And when ye are again in safety, remember Allah as He hath taught you that which (heretofore) ye knew not.

(II : 239) P

### 19. PRAYERS IN THE BATTLEFIELD

And when thou (O Muhammad) art among them and arranges (their) worship for them, let only a party of them stand with thee (to worship) and let them take their arms. Then when they have performed their prostrations let them fall to the rear and let another party come that hath not worshipped, and let them worship with thee, and let them take their precaution and their arms. Those who disbelieve long for you to neglect your arms and your baggage that they may attack you once for all. It is no sin for you to lay aside your arms, if rain impedeth you or ye are sick. But take your precaution. Lo! Allah prepareth for the disbelievers shameful punishment.

(IV : 102) P

### ۱۷۔ اُتْرکوا البیع والشراء لصلوة الجمعة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹﴾

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾

۱۸۔ الصَّلَاةُ فِي حَالَةِ الْخَطَرِ  
فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَالًا أَوْ رُكْبَانًا  
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ  
كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۲﴾

۱۹۔ الصَّلَاةُ فِي حَالَةِ الْقِتَالِ  
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ  
فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ

لِيَأْخُذُوا وَأَسْلِحَتُهُمْ مَتَاعًا بَاطِنًا  
فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ  
طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا  
مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ  
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَتَوَفَّوْنَ عَنْ  
أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ  
عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ  
كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا  
حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿۱۴﴾

### ۱۷۔ نماز جمعہ کے لئے تمام کاروبار چھوڑ دو

مومنو! جب جمعے کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد (یعنی نماز) کے لئے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے ۹ پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ ۱۰

### ۱۸۔ خطرہ کی حالت میں نماز

اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار (جس میں ہو نماز پڑھ لو) پھر جب امن (والطمان) ہو جانے تو جس طریق سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تمہیں نہیں جانتے تھے اللہ کو یاد کرو

(۲۳۹ : ۲)

### ۱۹۔ میدان جنگ میں نماز

اور اے پیغمبر! جب تم ان (مجاہدین) کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے۔ جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں۔ پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی (ان کی جگہ) آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر بیماری حملہ کر دیں۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو مگر ہوشیار ضرور رہنا اللہ نے کافروں کے لئے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے

(۱۰۲ : ۴)

## 20. PERMISSION TO SHORTEN PRAYERS DURING JOURNEY

And when ye go forth in the land, it is no sin for you to curtail (your) worship if ye fear that those who disbelieve may attack you. In truth the disbelievers are an open enemy to you.

(IV : 101) P

## 21. DO NOT OFFER FUNERAL PRAYER FOR THE UNBELIEVERS OR STAND BY THEIR GRAVES

And never (O Muhammad) pray for one of them who dieth, nor stand by his grave. Lo! they disbelieved in Allah and His messenger, and they died while they were evil-doers.

(IX : 84) P

## 22. ALLAH ANSWERS PRAYERS OF HIS SERVANTS

And when My servants question thee concerning Me, then surely I am nigh. I answer the prayer of the suppliant when he crieth unto Me. So let them hear My call and let them trust in Me, in order that they may be led aright.

(II : 186) P

## 23. WHOSE PRAYERS ARE ANSWERED

And He listens to those who believe and do deeds of righteousness, and gives them increase of His Bounty: but for the Unbelievers there is a terrible Penalty.

(XLII : 26) Y

## ۲۰۔ قصر الصلوة فی السفر

وَإِذَا اضْرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنَّ خِيفَتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝

(۱۰۱ : ۴)

## ۲۱۔ لَا تَصَلِّ صَلَاةَ الْجَنَازَةِ عَلَى الْكٰفِرِينَ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِمْ

وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ۝

(۸۴ : ۹)

## ۲۲۔ يَسْمَعُ اللهُ دَعَاءَ عِبَادِهِ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝

(۱۸۶ : ۲)

## ۲۳۔ مَنْ يَسْمَعُ اللهُ دَعَائِهِمْ

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝

(۲۶ : ۴۲)

## ۲۰۔ سفر کے دوران قصر نماز کی اجازت

اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو۔ بشرطیکہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے بیشک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔

(۱۰۱ : ۴)

## ۲۱۔ کفر کرنے والوں کی نہ تو نماز جنازہ پڑھو اور نہ ہی ان کی قبر پر جا کر کھڑے ہوا کرو

اور (اے پیغمبر) ان میں سے کوئی مرتبے تو کبھی اس (کے جنازے) پر نماز نہ پڑھنا۔ اور اس کی قبر پر (جا کر) کھڑے ہونا یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور سے بھی تو نافرمان (ہی رہے)

(۸۴ : ۹)

## ۲۲۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے

اور (اے پیغمبر) جب تم سے میرے بندے میرے بلے میں ریا کریں تو (کہ دو) میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو انکو چاہیے کہ میرے کلموں کو تمہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک ستارہ پائیں

(۱۸۶ : ۲)

## ۲۳۔ اللہ تعالیٰ کن کی دعا قبول فرماتا ہے

اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کئے ان کی (دعا) قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے۔

(۲۶ : ۴۲)

## 24. EXTENT OF WORSHIP

So tread thou the straight path as thou art commanded, and those who turn (unto Allah) with thee, and transgress not. Lo! He is Seer of what ye do.

(XI: 112) P

## FASTING

## 1. THE MONTH OF FASTING

The month of Ramadhan in which was revealed the Qur'an, a guidance for mankind, and clear proofs of the guidance, and the Criterion (of right and wrong). And whosoever of you is present, let him fast the month,---

(II: 185) P

## 2. WHY FASTING WAS MADE OBLIGATORY

O ye who believe! Fasting is prescribed for you, even it was prescribed for those before you, that ye may ward off (evil);

(II: 183) P

## 3. DEFERMENT OF FAST DURING JOURNEY AND SICKNESS

----and whosoever of you is sick or on a journey, (let him fast the same) number of other days. Allah desireth for you ease; He desireth not hardship for you; and (He desireth) that ye should complete the period, and that ye should magnify Allah for having guided you, and that peradventure ye may be thankful.

(II: 185) P

## ۴۴- سعة العبادة

فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ  
وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(۱۱۲ : ۱۱)

## الصوم

## ۱- شهر رمضان

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ  
الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ  
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ  
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

(۱۸۵ : ۲)

## ۲- لماذا كتب الصيام

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ  
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ  
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(۱۸۳ : ۲)

۳- قضاء الصوم أثناء السفر  
والمرض

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ  
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ  
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ  
عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ

(۱۸۵ : ۲)

## ۲۴- بندگی کی وسعت

سو اپنے سیر (جیسا تم کو حکم ہے) اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ  
تابہ ہو گئے ہیں قلم اور مدد تہاؤں کو نہ کرنا۔ وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھتا ہے۔

(۱۱۲ : ۱۱)

## روزہ

## ۱- روزوں کا مہینہ (ماہ رمضان)

۱۔ روزوں کا مہینہ (رمضان کا مہینہ ہے) جس میں  
قرآن (اول اول) نازل ہوا جو لوگوں کو رہنما ہے اور جس میں  
ہدایت کی کئی نشانیاں ہیں اور (حق و باطل) کو  
الگ الگ کرنے والا ہے تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے  
میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے دنے رکھے۔

(۱۸۵ : ۲)

## ۲- روزے کیوں فرض کئے گئے

۲۔ مومنوں پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس  
طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے  
تھے تاکہ تم پر سزا کا جزا ہو۔

(۱۸۳ : ۲)

## ۳- سفر اور بیماری کے دوران

## روزہ کی قضا

۳۔ اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں  
(رکھ کر) ان کا شمار پورا کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا  
ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ اور یہ آسانی کا حکم (اس لئے  
دیا گیا ہے) کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور اس  
احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے  
تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔

(۱۸۵ : ۲)

#### 4 SEXUAL RELATIONS WHILE FASTING AND DURING RETREAT IN THE MOSQUES

It is made lawful for you to go unto your wives on the night of the fast. They are raiment for you and ye are raiment for them. Allah is aware that ye were deceiving yourselves in this respect and He hath turned in mercy toward you and relieved you. So hold intercourse with them and seek that which Allah hath ordained for you, and eat and drink until the white thread becometh distinct to you from the black thread of the dawn. Then strictly observe the fast till night fall and touch them not, but be at your devotions in the mosques. These are the limits imposed by Allah, so approach them not. Thus Allah expoundeth His Revelations to mankind that they may ward off (evil).

(II : 187) P

#### 5 DURATION OF FAST

-----and eat and drink until the white thread becometh distinct to you from the black thread of the dawn. Then strictly observe the fast till night fall-----

(II : 187) P

#### ۴۔ حکم المباشرة مع النساء خلال الصوم والاعتكاف

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْغَنَ بَأْسُهُمْ وَهَنٌ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ مَوْكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَسْرِ وَلَا تَبَاشَرُواهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

(۱۸۷ : ۲)

#### ۵۔ اوقات الصوم

..... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَسْرِ.....

(۱۸۷ : ۲)

#### ۴۔ روزہ اور اعتکاف کے دوران

#### مباشرت

بعضوں کی باتوں میں تمہارے لئے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم (اپنے پاس جانے سے) اپنے حق میں خیانت کرتے تھے سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی۔ اب (تم کو اختیار ہے کہ) ان سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو چیز تمہارے لئے مکہ رکھی ہے (یعنی اولاد) اسکو (اللہ سے) طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری (رات کی) سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے پھر روزہ (رکھ کر) رات تک پورا کرو اور جب تم مسہڑوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ ملنا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سامنے رکھے (لئے) کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں۔

(۱۸۶ : ۲)

#### ۵۔ روزہ رکھنے کے اوقات

..... اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری (رات کی) سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے پھر روزہ (رکھ کر) رات تک پورا کرو.....

(۱۸۶ : ۲)

## MANDATORY ALMS (ZAKAT AND USHR)

### 1. PAYMENT OF ZAKAT

So establish regular Prayer and give regular Charity; and obey the Apostle; that ye may receive mercy.

(XXIV : 56) Y

4. Those who establish regular Prayer, and give regular Charity, and have (in their hearts) the assurance of the Hereafter. 5. These are on (true) guidance from their Lord; and these are the ones who will prosper.

(XXXI : 4-5) Y

-----And establish regular Prayer and give regular Charity; and loan to Allah a Beautiful Loan. And whatever good ye send forth for your souls, ye shall find it in Allah's Presence,—yea, better and greater, in Reward-----

LXXIII : 20) Y

### 2. COMPARISON BETWEEN ZAKAT AND INTEREST

That which ye lay out for increase through the property of (other) people, will have no increase with Allah: But that which ye layout for charity, seeking the Countenance of Allah, (will increase): it is these who will get a recompense multiplied.

(XXX : 39) Y

### 3. ZAKAT IS A PART OF THE RELIGION

And they have been commanded no more than this: to worship Allah, offering Him sincere devotion, being True (in faith): to establish regular Prayer;

## الزکوٰۃ والعشر

### ۱- ایثار الزکوٰۃ

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا  
الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

(۵۶ : ۲۴)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ  
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

(۵۰ : ۳۱)

..... وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا  
لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ  
هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا.....

(۲۰ : ۱۷۳)

### ۲- الفرق بين الربو والزکوٰۃ

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَالٍ يَرُبُّوْنَ فِيْ اَمْوَالِ  
النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم  
مِّنْ زَكَاةٍ يُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللَّهِ فَاولَٰئِكَ  
هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝

(۳۹ : ۳۱)

### ۳- الزکوٰۃ أصل من اصول الدين

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ  
لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

## زکوٰۃ وعشر

### ۱- زکوٰۃ کا ادا کرنا

اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر اللہ کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی بارگاہ

(۵۶ : ۲۴)

جو نماز کی پابندی کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں ۝ یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں ۝

(۵۰ : ۳۱)

..... اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک (اور خلوص نیت سے) قرض دیتے رہو اور جو عمل نیک تم اپنے لئے آگے بھجوانے کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے.....

(۲۰ : ۱۷۳)

### ۲- سود اور زکوٰۃ میں فرق

اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ مہربانکت ہے اور ایسے ہی لوگ (اپنے مال کو) دو چند سے چند کرنے والے ہیں۔

(۳۹ : ۳۰)

### ۳- زکوٰۃ دین کا ایک جزو ہے۔

اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں (اور ایک سو ہو کر) اور نماز پڑھیں

and to practise regular Charity and that is the Religion Right and A Straight.

(XCVIII : 5) Y

#### 4. PERSONS ENTITLED TO ZAKAT

Alms are for the poor and the needy, and those employed to administer the (funds); For those whose hearts have been (recently) reconciled (to Truth); for those in bondage and in debt; in the Cause of Allah; and for the way farers: (thus is it) ordained by Allah, and Allah is full of Knowledge and Wisdom.

(IX : 60) Y

#### 5. PAY THE TITHES (USHR) ON THE DAY OF HARVEST

O ye who believe! Spend of the good things which ye have earned, and of that which We bring forth from the earth for you, and seek not the bad (with intent) to spend thereof (in charity) which ye would not take it for yourselves save with disdain;----

(II : 267) P

---- Eat of their fruit in their seasons, but render the dues that are proper on the day that the harvest is gathered. But waste not by excess:----

(VI : 142) Y

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝

(۵ : ۹۸)

#### ۴۔ من مستحقو الزکوة

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَ  
الْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ كُلُّهُنَّ فِي  
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

(۶۰ : ۹)

#### ۵۔ يجب أداء العشر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا  
مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا  
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِالْحَذِيثِ إِلَّا أَنْ تُغْضُوا  
فِيهِ ط-----

(۲۶۷ : ۲)

----- كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ  
إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ  
وَلَا تُسْرِفُوا-----  
(۱۴۲ : ۶)

اور زکوٰۃ دیں اور یہی سچا دین ہے۔

(۵۱۹۸)

#### ۴۔ زکوٰۃ کے لئے مستحق لوگ کون ہیں

صدقات یعنی زکوٰۃ وغیرہ تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنانِ صدقہ کا حق ہے اور ان لوگوں کا حق ہے کہ ان کی طرف سے ان کے غلاموں کے آزاد کرنے میں اور قرضوں کے قرض ادا کرنے میں اور ان کے لئے مسافروں کی خدمت میں (یعنی مال خرچ کرنا) چاہئے۔ حق اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت سے

(۶۰ : ۹)

#### ۵۔ عشر ادا کرنا چاہیے

مومنو! جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کھاتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لئے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے درہ اللہ میں خرچ کرو اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ (یعنی وقت) آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو.....

(۲۶۷ : ۲)

..... جیسے چیزیں چلیں تو اچھے پھل کھاؤ اور جس دن پھل تو لو اور کھتی کھاؤ اللہ کا حق بھی اس سے ادا کرو اور بے جا نہ آرائو۔

(۱۴۲ : ۶)

## PILGRIMAGE (Major and Minor)

### 1. THE FIRST HOUSE OF ALLAH

96. The first House (of worship) appointed for men was that at Bakka:\* full of blessing and of guidance for all kinds of beings: 97. In it are Signs manifest; (for example), the Station of Abraham; Whoever enters it attains security;---

(III : 96 - 97) Y

### 2. PAGANS FORBIDDEN TO GO NEAR KA'BAH

O believers, know that the idolators are unclean. Let them not approach the Sacred Mosque after this year is ended. If you fear poverty, Allah, if He pleases, will enrich you through His bounty.-----

(IX : 28) Z

### 3. FOR WHOM HAJJ IS OBLIGATORY

-----Pilgrimage thereto is a duty mer. owe to Allah,-- those who can afford the journey; But if any deny faith, Allah stands not in need of any of His creatures.

(III : 97) Y

Perform the pilgrimage and the visit (to Makkah) for Allah-----

(II : 196) P

\*Makkah

## الحج والعمرة

### ۱- اول بیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي  
بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۶﴾  
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمُ  
وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ..... ﴿۹۷﴾

(۹۷-۹۶: ۳)

### ۲- لاحق للمشرکین أن یقربوا بیت اللہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ  
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ  
عَامِهِمْ هَذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ  
يُعْضِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِن شَاءَ اللَّهُ  
(۲۸: ۹)

### ۳- من كتب عليه الحج

... وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ  
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ  
سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ  
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

(۹۷: ۳)

وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

(۱۹۶: ۲)

## حج و عمرہ

### ۱- اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر

پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کیلئے مقرر کیا گیا تھا وہ ہی ہے جو مکہ میں ہے۔ بابرکت اور جہاں کے لئے موجب ہدایت ﴿۹۶﴾ اس میں کئی سوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک براہیم کے گھر سے بنی ہوئی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اُسے امن پاتا ہے۔ ﴿۹۷﴾

(۹۷-۹۶: ۳)

### ۲- مشرکوں کے خانہ کعبہ کے قریب جانے پر پابندی ہے

مومنو! مشرک تو پید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں اور اگر تم کو مصلی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔۔۔۔۔

(۲۸: ۹)

### ۳- حج کس پر فرض ہے

.... اور لوگوں پر اللہ کا حق (یعنی فرض) ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور ہو سکے وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔

(۹۷: ۳)

اور اللہ کی خوشنودی کے لئے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔۔۔۔۔

(۱۹۶: ۲)



## 4. MONTHS OF HAJJ

For Hajj are the months\* well known. If anyone undertakes the duty therein, let there be no obscenity nor wickedness, nor wrangling in the Hajj,-----

(II : 197) Y

## 5. PROVISION FOR PILGRIMAGE

-----And take a provision (with you) for the journey. But the best of provisions is right conduct. So fear Me, O ye that are wise!

(II : 197) Y

## 6. HUNTING WHILE IN EHRAM IS FORBIDDEN

-----But animals of the chase are forbidden while ye are in the Sacred precincts or in pilgrim garb. For Allah doth command according to His Will and Plan.

(V : 1) Y

## 7. PENALTY FOR HUNTING EXCEPT FISHING WHILE IN THE STATE OF EHRAM

O ye who believe! Kill no wild game while you are on the pilgrimage. Whoso of you killeth it of set purpose he shall pay its forfeit in the equivalent of that which he has killed, of domestic animals, the judge to be two men among you known for justice, (the forfeit) to be brought as an offering to the Ka'bah; or, for expiation, he shall feed poor persons, or the equivalent thereof in fasting,-----

(V : 95) P

To hunt and to eat the fish of the sea is made lawful for you, a provision for you and for seafarers;-----

(V : 96) P

## ۴۔ اشہر الحج

أَشْهُرُ الْحَجِّ  
أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ  
فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا  
فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ

(۱۹۷ : ۲)

## ۵۔ زاد السفر للحج

وَتَذَرُوا فَإِنَّ خَيْرَ  
الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي  
الْأَلْبَابِ ۝

(۱۹۷ : ۲)

## ۶۔ حرم على المحرم ان يصطاد

غَيْرَ مَحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ  
حُرْمَةٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

(۱ : ۵)

## ۷۔ على المحرم كفارة الصيد

سَوَى صَيْدِ الْبَحْرِ  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ  
أَنْتُمْ حُرْمَةٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَدِّيًا  
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ  
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا  
بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ  
أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا ۗ

(۹۵ : ۵)

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا  
لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۗ

(۹۶ : ۵)

## ۳۔ حج کے مہینے

حج کے مہینے (مہینے ہیں جو معلوم ہیں تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت لے تو حج (کے دنوں) میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے۔ نہ کوئی بڑا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے....

(۱۹۷ : ۲)

## ۵۔ راستے کا خرچ

.... اور زادِ راہ (یعنی راستے کا خرچ) ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہتر (فائدہ) زادِ راہ (کا) پر میزگاری ہے اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔

(۱۹۷ : ۲)

## ۶۔ احرام کی حالت میں شکار ممنوع ہے

.... مگر احرام (حج) میں شکار کو حلال نہ جانا۔ اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔

(۱ : ۵)

## ۷۔ احرام میں شکار کر لینے کا کفارہ

سوائے سمندری شکار کے

مومنو! جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو اس کا بدلہ دے اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چارہ پا یہ جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی (کرے۔ اور یہ قربانی) کہے سینچاں جانے یا کفارہ (دے اور وہ) مسکینوں کو کھانا کھانا (ہے) یا اس کے برابر روزے رکھے....

(۹۵ : ۵)

تباہی کے لئے دریا (کی چیزوں) کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے (یعنی) تمہارے اور مسافروں کے کفارے کیلئے....

(۹۶ : ۵)

\*Shawwal, Ziqad, Zilhij (upto 10th day)

\* شوال، ذوالقعدة، مشرة اولی من ذی الحجۃ

\* یعنی شوال، ذی قعدہ اور عشرہ ذی الحجہ

### 8. HUNTING DISALLOWED TO TEST PIETY

O ye who believe! Allah will surely try you somewhat (in the matter) of the game which you take with your hands and your spears, that Allah may know him who fears Him in secret-----

(V : 94) P

### 9. PERFORMANCE OF HAJJ

196. And complete the Hajj or Umra in the service of Allah. But if ye are prevented (from completing it), send an offering for sacrifice, such as ye may find, and do not shave your heads until offering reaches the place of sacrifice. And if any of you is ill, or has an ailment in his scalp (necessitating shaving) (he should) in compensation either fast, or feed the poor or offer sacrifice, and when ye are in peaceful conditions (again), if anyone wishes to continue the 'Umra' on to the Hajj, he must make an offering, such as he can afford. But if he cannot afford it, he should fast three days during the Hajj and seven days on his return, making ten days in all. This is for those whose household is not in (the precincts of) the Sacred Mosque.----- 198. It is no crime in you if ye seek of the bounty of your Lord (during pilgrimage). Then when ye pour down from (Mount) Arafat celebrate the praises of Allah at the Sacred Monument,-----199. Then pass on at a quick pace from the place whence it is usual for the multitude so to do, and ask for Allah's forgiveness-----.

(II : 196, 198, 199) Y

### ۸۔ القصد من تحريم الصيد للحرم هو الابتلاء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُبْلَاكُمْ اللَّهُ رَبِّي  
مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاكُمْ  
لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ.....

(۹۴: ۵)

### ۹۔ اتمام الحج

وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ  
أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ  
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ  
الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ  
مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ  
فَعِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ  
أَوْ نُسُكٌ فَإِذَا أَتَيْتُمْ مَشْرُوعًا  
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ  
مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ  
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا  
رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ  
ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي  
السَّعْيِ الْحَرَامِ..... ①

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا  
فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ  
مِّن عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ  
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ..... ②  
ثُمَّ أَفِضُوا مِّن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ  
وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ..... ③

(۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۶ : ۲)

### ۸۔ احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت کا مقصد آزمائش ہے

مؤمنو! کسی قدر شکار سے جن کو تم باطنوں اور نیروزوں کو پکڑا سکو  
اللہ تمہاری آزمائش کرے گا (یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے)  
تا کہ معلوم کرے کہ اُس سے غالباً نہ کون ڈرتا ہے.....

(۹۴: ۵)

### ۹۔ حج کی ادائیگی

اور تہ (کی خوشنودی) کے لئے حج اور عمرے کو پورا  
کر دو۔ اور اگر دوستی میں، روک لے جاؤ تو بیسی قربانی  
میتے ہو (کر دو) اور جب تک قربانی اپنے مقام پر  
نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ۔ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو  
یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو۔ اور وہ اپنا  
سر منڈوالے تو اس کے بدلے سونے رکھے یا صدقہ  
دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تکلیف دور ہو کر  
تم مطمئن ہو جاؤ تو جو دم میں حج کے وقت تک  
عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ بیسی قربانی میتے  
ہو کرے۔ اور جس کو (قربانی) نہ ملے وہ تین روزے  
ایام حج میں رکھے اور سنت جب واپس ہو۔ یہ پڑھے  
دش ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لئے ہے جس کے  
اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں..... ①  
اس کا تمہیں کچھ گنتہ نہیں کہ (حج کے دنوں میں  
بذریعہ تہجرت) اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو اور  
جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام  
(یعنی مزدلفہ) میں اللہ کا ذکر کرو..... ②  
پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی  
واپس ہو اور اللہ سے بخشش مانگو..... ③

(۱۹۹-۱۹۸، ۱۹۶ : ۲)

## 10. SACRIFICE IS ENJOINED TO PERPETUATE REMEMBRANCE OF ABRAHAM AMONG LATER GENERATIONS

102. And when he reached the age when he could work with him his father said to him: 'My son, I dreamt that I was sacrificing you. Tell me what you think'. He replied: 'Father, do as you are bidden. Allah willing, you shall find me one of those who are steadfast'. 103. And when they had both surrendered themselves to Allah's will, and Ibrahim had laid down his son prostrate upon his face, 104. We called out to him, saying: 'Ibrahim, 105. You have fulfilled your vision'. Thus did We reward the righteous. 106. That was indeed a bitter test. 107. We ransomed him with a noble sacrifice. 108. And bestowed on him (the praise) of later generations. 109. 'Peace be on Ibrahim!' 110. Thus We reward the righteous.

(XXXVII : 102 - 110) Z

## 11. SACRIFICE DAYS ARE FIXED

28. ----- And celebrate the name of Allah, through the Days appointed, over the cattle which He has provided for them (for sacrifice): then eat ye thereof and feed the distressed ones in want. 36. ----- We made animals subject to you, that ye may be grateful.

(XXII : 28, 36) Y

## 12. PURPOSE OF SACRIFICE

It is not their meat, nor their blood, that reaches Allah: It is your piety that reaches Him: He has thus made them subject to you, that ye may glorify Allah for His guidance to you:-----

(XXII : 37) Y

## ۱۰۔ الاضاحی۔ وفی ما یلی ذکر سیدنا ابراہیم

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي اِنِّي  
اَرَى فِي الْمَنَامِ اِنِّي اَذْبَحُكَ فَانظُرْ  
مَاذَا تَرَى قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تَأْمُرُ  
سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ  
فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّ لِلْجَبِيْنِ  
وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا بْرَهِيْمُ  
قَدْ صَدَقْتَ الرَّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي  
الْمُحْسِنِيْنَ  
اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْبَلٰوَا الْمُبِيْنُ  
وَقَدَيْنَاهُ بِذُبْحٍ عَظِيْمٍ  
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ  
سَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ  
كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ

(۱۱۰ - ۱۰۲ : ۳۷)

## ۱۱۔ وللأضاحی ایام معلومات

وَيَذْكُرُوا اسْمَ  
اللّٰهِ فِيْ اَيّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ  
مِّنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَ  
اطْعَمُوْا الْبٰسِ الْفَقِيْرَ  
كذٰلِكَ نَجْزِيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

(۲۶ : ۲۸ : ۳۶)

## ۱۲۔ ما فائدة الأضاحی

لَنْ يَنَالَ اللّٰهُ لَحْمًا وَلَا دِمًا وَهٰذَا  
وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كذٰلِكَ  
نَجْزِيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

(۳۷ : ۳۲)

## ۱۰۔ قربانی میں بعد کی نسلوں کے لئے ابراہیم کا ذکر خیر بھی ہے

جب وہ اُن کے ساتھ دوڑنے (کی عمر) کو پہنچا تو  
ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ (گویا) تم کو  
ذبح کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ اُنہوں نے  
کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے اللہ نے چاہا تو  
آپ مجھے صابروں میں پائیے گا ۱۰۳ جب دونوں نے حکم  
مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل ٹا دیا ۱۰۴  
تو ہم نے اُن کو نکارا کہ اے ابراہیم ۱۰۵ تم نے خواب کو سچا  
کہہ دیا ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ۱۰۶  
بلاشبہ یہ مرتبہ آزمائش تھی ۱۰۷ اور ہم نے  
ایک بڑی قربانی کو اُن کا فدیہ دیا ۱۰۸ اور پیچھے آنے  
والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا ۱۰۹ کہ ابراہیم  
پر سلام ہو ۱۱۰ نیکو کاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا  
کرتے ہیں ۱۱۱

(۱۱۰ - ۱۰۲ : ۳۷)

## ۱۱۔ قربانی کے دن مقرر کئے ہوئے ہیں

... اور (قربانی کے) ایام معلوم میں چہار پایاں مویشی  
(کے ذبح کے وقت) جو اللہ نے اُن کو دیئے ہیں اُن پر  
اللہ کا نام لیں اُس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر  
درمانہ کو بھی کھاؤ ۱۱۲

... اس طرح ہم نے اُنکو تمہارے نیرفرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو ۱۱۳

(۲۶ : ۲۸ : ۳۶)

## ۱۲۔ قربانی کا مقصد کیا ہے

اللہ تک اُنکا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون بگاڑا اس تک تباری  
پہنچتا ہے یعنی ہے اس طرح اللہ نے اُنکو تمہارا ذکر دیا تاکہ اس  
بات کے لئے اُن کے لئے نیکو بات بخشی ہے اُسے بزرگی سے یاد کرو۔

(۳۷ : ۳۲)

### 13. CIRCUMAMBULATING AROUND KA'BAH

Then let them make an end of their unkemptness and pay their vows and go round the ancient House.

(XXII : 29) P

### 14. GOING ROUND AS-SAFA AND AL-MARWA (SA'7)

Lo! (the mountains) As-Safa and Al-Marwa are among the indications of Allah. It is therefore no sin for him who is on Pilgrimage to the House (of God) or visiteth it to go round them (as the pagan custom is). And he who doth good of his own accord (for him), Lo! Allah is Responsive, Aware.

(II : 158) P

### 15. STAY IN MU'NA

200. So when ye have accomplished your holy rites, celebrate the praises of Allah,----- 203. Celebrate the praises of Allah during the Appointed Days. But if anyone hastens to leave in two days, there is no blame on him,-----

(II : 200, 203) Y

### REMEMBRANCE OF ALLAH (ZIKR)

#### 1. REMEMBRANCE OF ALLAH

Therefore remember Me, I will remember you. Give thanks to Me, and reject not Me.

(II : 152) P

### ۱۳۔ طواف بیت اللہ الحرام

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نَدْوَاهُمْ  
وَلِيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ○

(۲۹ : ۲۲)

### ۱۴۔ السعی بین الصفا والمروة

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ  
اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا  
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ  
شَاكِرٌ عَلِيمٌ ○

(۱۵۸ : ۲)

### ۱۵۔ القیام فی منی

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا  
اللَّهَ ---- ○  
وَازْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ  
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا  
إِثْمَ عَلَيْهِ ---- ○

(۲۰۳ ، ۲۰۰ : ۲)

### ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ

#### ۱۔ ذکر اللہ

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي  
وَلَا تَكْفُرُونِ ○

(۱۵۲ : ۲)

### ۱۳۔ خانہ کعبہ کا طواف

پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کبیل دور کریں اور نذرین پوری کریں اور خانہ قدیم (یعنی بیت اللہ) کا طواف کریں۔

(۲۹ : ۲۲)

### ۱۴۔ صفا اور مروہ کی سعی

بے شک (کوہ) صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے (بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے) اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدر شناس اور دانا ہے۔

(۱۵۸ : ۲)

### ۱۵۔ منیٰ میں قیام

پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکے تو (منیٰ میں) اللہ کو یاد کرو۔۔۔۔ ○ اور (قیام منیٰ کے) دنوں میں (جو) گنتی کے دن ہیں) اللہ کو یاد کرو۔ اگر کوئی جلدی کرے (اور) دوسری دن میں (چل دے) تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔۔۔۔ ○

(۲۰۳ ، ۲۰۰ : ۲)

### اللہ تعالیٰ کا ذکر

#### ۱۔ ذکر اللہ

سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔

(۱۵۲ : ۲)

Verily in the messenger of Allah ye have a good example for him who looketh unto Allah and the Last Day, and rememberth Allah much.

(XXXIII : 21) P

36. (This lamp is found) in houses which Allah hath allowed to be exalted and that His name shall be remembered therein. Therein do offer praise to Him at morn and evening. 37. Men whom neither merchandise non sale beguileth from remembrance of Allah and constancy in prayer and paying to the poor their due; who fear a day when hearts and eyeballs will be overturned.

(XXIV : 36 - 37) P

Recite that which hath been inspired in thee of the Scripture, and establish worship. Lo' worship preserveth from lewdness and iniquity, and verily remembrance of Allah is more important. And Allah knoweth what ye do.

(XXIX : 45) P

35. -----and men who remember Allah much and women who remember - Allah hath prepared for them forgiveness and a vast reward. 41. O ye who believe! Remember Allah with much remembrance,

(XXXIII : 35, 41) P

----But when ye press on in the multitude from Arafat, remember Allah by the sacred monument. Remember Him as He hath guided you, although before ye were of those astray.

(II : 198) P

14. He is successful who groweth, 15. And rememberth the name of his Lord, so prayeth.

(LXXXVII : 14, 15) P

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ  
حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝  
(۲۱ : ۳۳)

فِي بُيُوتِ الَّذِينَ أُذِنَ لَهُمْ أَنْ تَرُفَعُوا فِيهَا  
فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ  
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ  
الزَّكَاةِ يُخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ  
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝

(۲۶ : ۳۶-۳۷)

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ  
وَاقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝

(۲۹ : ۴۵)

..... وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ  
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ  
ذِكْرًا كَثِيرًا ۝

(۳۳ : ۳۵، ۴۱)

---- فَإِذَا أَفَضْتُمْ  
مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ  
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا مَا هَدَىٰكُمْ  
وَلَنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الطَّاغُوتِ ۝

(۱۹۸ : ۱۱)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۝  
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝

(۸۷ : ۱۴-۱۵)

تم کو پیغمبر اللہ کی پیروی کرنی بہتر ہے (یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے) ملنے اور روز قیامت (کے آنے) کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔  
(۲۱ : ۳۳)

(وہ تبدیل) اُنکے گھروں میں (ہے) جسکے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کئے جائیں۔ اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے (اور) اُن میں صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں ۝ (یعنی ایسے) لوگ جو اللہ کے راہ گزار بننے اور روز قیامت سے سزاگاری غافل کرتی ہے نہ خرید فروخت یہ اس کے جیب میں (نہ) گھبرائے سبب اُنکے مایوس اور ڈر چڑھ جائیں گے ۝

(۲۶ : ۳۶-۳۷)

رکعتوں کی کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اُس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے خیال اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بڑا (اچھا کام) ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُسے جانتا ہے۔

(۲۹ : ۴۵)

.... اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے (اور) کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں کچھ شک نہیں کہ ان کے لئے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے ۝ اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو ۝

(۳۳ : ۳۵، ۴۱)

.... اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام (یعنی مزدلفے) میں اللہ کا ذکر کرو اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اُس نے تم کو سکھایا اور اس سے پیشتر تم لوگ (ان طریقوں سے محض) ناواقف تھے۔  
(۱۹۸ : ۱۱)

بے شک وہ مُراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا ۝ اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھا رہا ۝

(۸۷ : ۱۴-۱۵)

-----The skins of those who fear their Lord tremble (for fear) of it; but then their skins and hearts soften to Allah's remembrance. Such is Allah's guidance: He bestows it on whom He will. But he whom Allah leaves in error shall have none to guide him.

(XXXIX : 23) Z

And when the prayer\* is ended, then disperse in the land and seek of Allah's bounty, and remember Allah much, that ye may be successful.

(LXII : 10) P

6. Lo! the vigil of the night is (a time) when impression is more keen and speech more certain. 7. Lo! thou hast by day a chain of business.

(LXXIII : 6-7) P

Remember the name of thy Lord at morn and evening.

(LXXVI : 25) P

## 2. HOW TO REMEMBER ALLAH

And do thou (O Muhammad) remember thy Lord within thyself humbly and with awe, below thy breath, at morn and evening. And be thou not of the neglectful.

(VII : 205) P

So remember the name of thy Lord and devote thyself with a complete devotion.

(LXXIII : 8) P

## 3. WHEN TO REMEMBER ALLAH

Such as remember Allah, standing, sitting, and reclining and consider the creation of the heavens and the earth,-----

(III : 191) P

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَّوْنَ  
جُلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ  
ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِمَنْ يَشَاءُ  
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

(۲۳۱ : ۳۹)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي  
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

(۱۰ : ۶۲)

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ  
قِيلًا ۝

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا ۝

(۷-۶ : ۷۳)

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

(۲۵ : ۷۶)

## ۲- کیف یكون ذکر اللہ

وَإِذْ كُرِّرْتُ بَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ  
خِيفَةً وَدُؤْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ  
بِالْغَدْوِ وَالْإِصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝

(۲۰۵ : ۷)

وَإِذْ كُرِّ اسْمُ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

(۸ : ۷۳)

## ۳- متى يكون ذكر اللہ

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا  
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ  
فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

(۱۹۱ : ۳)

... جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے (اس سے) ہلکنے لگنے سے جڑے جڑے بن جھڑکنے میں پھر ان کے بدن اور دل نرم رہیں اور اللہ کی یاد کی طرف (متوجہ) ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کی باریک دہائی ہے جسکو چاہتا ہے ایسا ہی بنا لے اور جسکو اللہ مہار کے اسکو کوئی بڑا دینے والا نہیں۔

(۲۳ : ۳۹)

پھر جب نماز (جمعہ) ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔

(۱۰ : ۶۲)

کچھ شک نہیں کہرات کا اٹھنا نفس بہیمی کو بہت پامال کرتا ہے اور اس وقت کبھی غریب سے تہلے ہے ① دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں ②

(۶-۶۱ : ۷۳)

اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لینے رہو۔

(۲۵ : ۷۶)

## ۲- اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے

اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور بہت آواز سے صبح اور شام یاد کرتے رہو اور (دیکھنا) غافل نہ ہونا۔

(۲۰۵ : ۷)

تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر اور بہت جگہ تعلق ہو کر کسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔

(۸ : ۷۳)

## ۳- اللہ کا ذکر کب کیا جائے

جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے (ہر حال میں) اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔۔۔۔۔

(۱۹۱ : ۳)

\* Friday Prayer

#### 4. REMEMBRANCE OF ALLAH DURING BATTLE

When ye have performed the act of worship, remember Allah, standing, sitting and reclining. And when ye are in safety, observe proper worship.-----

(IV : 103) P

#### 5. REMEMBRANCE ENSURES SATISFACTION OF HEART

Those who believe, and whose hearts find satisfaction in the remembrance of Allah: for without doubt in the remembrance of Allah do hearts find satisfaction.

(XIII : 28) Y

#### 6. REMEMBRANCE SHOULD NOT BE NEGLECTED

And do thou (O Muhammad) remember thy Lord within thyself humbly and with awe, below thy breath, at morn and evening. And be thou not of the neglectful.

(VII : 205) P

#### 7. ALLAH ASSIGNS DEVIL TO THOSE NEGLECTING HIS REMEMBRANCE

And he whose sight is dim to the remembrance of the Beneficent, We assign unto him a devil who becometh his comrade.

(XLIII : 36) P

#### VOLUNTARY ALMS

Refer to "Economic Provisions" page 195.

۴۔ ذکر اللہ خلال الجہاد  
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ  
قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰی جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا  
اَطْمَآنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۗ-----  
(۱۰۳ : ۴)

۵۔ تطمئن القلوب بذكر الله

الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَتَطْمِئِنُّ قُلُوْبُهُمْ  
بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اِلَّا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمِئِنُّ  
الْقُلُوْبُ ۝

(۲۸ : ۱۳)

۶۔ لا تنسوا ذكر الله

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ  
خِيفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ  
بِالْغَدُوِّ وَّ الْاَصْحٰلِ وَّلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝

(۲۰۵ : ۷)

۷۔ يقض الله الشيطان لمن يتغافل عن ذكره

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقِضْ  
لَهُ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ۝

(۳۶ : ۴۳)

#### الصدقات

لاحظ عنوان الاقتصاديات على الصفحة ۱۹۵

۴۔ جنگ کے دوران اللہ کا ذکر  
پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے  
(ہر حالت میں) اللہ کو یاد کرو پھر جب خفتنا ہے تو  
(اس طرح سے) نماز پڑھو (جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو)  
(۱۰۳ : ۴)

۵۔ ذکر سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے

(مگر اس سے وہ لوگ ہیں) جو ایمان لائے اور اللہ  
کے ذکر سے انکے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ شرب سبھ لوگ  
کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔

(۲۸ : ۱۳) ۲-۱-۲

۶۔ ذکر سے غافل نہ ہونے کی تاکید

اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور  
خوف سے اور پست آواز سے صبح اور شام یاد کرتے رہو  
اور (دیکھنا) غافل نہ ہونا۔

(۲۰۵ : ۷)

۷۔ اللہ تعالیٰ فکر سے تغافل برتنے والوں

پر شیطان مقرر فرما دیتا ہے

اور جو کوئی اللہ کی یاد سے انکھیں بند کرے (یعنی تغافل کرے)  
ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے

(۳۶ : ۴۳)

#### صدقات

ملاحظہ فرمائیں معاشیات صفحہ ۱۹۵

## REPENTANCE

## 1. DO NOT PERSIST IN YOUR MISDEEDS BUT ASK FOR FORGIVENESS

-----and ask for forgiveness for their sins; and who can forgive sins except Allah?— And are never obstinate in persisting knowingly (in the wrong) they have done.

(III : 135) Y

## 2. WHOSE SINS WILL ALLAH CONVERT INTO GOOD DEEDS

Unless he repents, believes and works righteous deeds, for Allah will change the evil of such persons into good, and Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

(XXV : 70) Y

## 3. WHEN THERE WILL BE NO TIME FOR CORRECTION

Are they waiting but for the Hour of Doom to overtake them unawares? Its portents have already come. But how will they be warned when it overtakes them?

(XLVII : 18) Z

## 4. FACED WITH CHASTISEMENT MAN WILL YEARN FOR A SECOND CHANCE

Or should say, when it seeth the doom: Oh, that I had but a second chance that I might be among the righteous!

(XXXIX : 58) P

## 5. ALLAH ACCEPTS REPENTANCE

Do they not know that Allah accepts the repentance of His servants and takes their alms, and that Allah is the Forgiving One, the Merciful?

(IX : 104) Z

## التوبہ

۱۔ استغفروا لله لذنوبکم ولا تصروا علی سیأتکم

فَاسْتَغْفِرُوا لِلذُّنُوبِ الَّتِي كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَمَنْ يَعْفُرْ  
الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

(۱۳۵: ۳)

۲۔ من یبدلہم الله  
سیأتہم حسنات

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا  
صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ  
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

(۷۰: ۲۵)

۳۔ متى یضوت أو ان التوبہ

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ  
بَغْتَةً فَتُفَاجَأُوا شَرَّهَا فَأَتَىٰ لَهُمْ  
إِذَا جَاءَتْهُمْ ذُكِّرْتَهُمْ ۝

(۱۸: ۴۷)

۴۔ یود الانسان ان یعود الی  
هذه الدنیا مرة ثانية عندما  
یرى عذاب الله بین یدیه  
أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَىٰ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ  
لِي كَرَّةً فَكُلُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

(۵۸: ۳۹)

۵۔ یقبل الله توبہ عباده

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ  
عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ  
اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

(۱۰۴: ۹)

## توبہ

۱۔ اپنے افعال پر اڑے رہنے کی بجائے  
اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہو

..... اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ  
کے سوا کونسا بخشش بھی کون سستا ہے اور جان بوجھ کر  
اپنے افعال پر اڑے رہتے ہیں۔

(۳۵: ۳)

۲۔ کہن لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ  
نیکیوں سے بدل دے گا۔

مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے  
کام کئے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں  
سے بدل دے گا اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔

(۷۰: ۲۵)

۳۔ کب اصلاح کا موقع نہ رہے گا

اب توبہ کی قیمت ہی کو لکھتے ہیں کہ ناگہان ان پر واقع  
ہو سوا کسی نشانیاں (وقت میں) آجکی ہیں پھر جب وہ ان  
پر آئے ہیں ہرگز اس وقت انہیں نصیحت کہاں اٹھائیں گے!

(۱۸: ۴۷)

۴۔ عذاب دیکھنے پر انسان  
ایک اور موقع لینے کی  
خواہش کرے گا

یاجب عذاب دیکھنے کو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ  
دنیا میں جانا ہوتو میں نیکو کاروں میں ہر جاؤں۔

(۵۸: ۳۹)

۵۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے

کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے  
توبہ قبول فرماتا اور صدقات (و خیرات) لیتا  
ہے اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

(۱۰۴: ۹)



He accepts the repentance of His servants and pardons their sins. He has knowledge of all your actions.

(XLI: 25) Z

### 6. ALLAH IS FORGIVING, MERCIFUL

But those who do ill deeds and afterward repent and believe lo! for them, afterward, Allah is Forgiving, Merciful.

(VII: 153) P

81.-----He that incurs My wrath shall assuredly be lost. 82. But he that repents and believes in Me, does good works and follows the right path shall be forgiven.

(XX: 81-82) Z

### 7. FOR WHOM FORGIVENESS IS INCUMBENT ON ALLAH

135. And those who, if they commit evil or wrong their souls, remember Allah and seek forgiveness of Him for who but Allah can forgive sin and who do not knowingly persist in what they do. 136. These shall be rewarded with forgiveness from their Lord and gardens watered by running streams, where they shall dwell forever.-----

(III: 135-136) Z

Forgiveness is only incumbent on Allah towards those who do evil in ignorance (and) then turn quickly (in repentance) to Allah. These are they toward whom Allah relenteth. Allah is ever Knower, Wise.

(IV: 17) P

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ  
وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

(۲۵: ۴۲)

### ۶۔ یعفو اللہ عن عبادہ

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ  
بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا  
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

(۱۵۳: ۷)

وَمَنْ يَجْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ  
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ  
صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

(۸۲-۸۱: ۲۰)

### ۷۔ من يستحق ان تقبل توبه

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ  
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ  
فَاسْتَغْفَرُوا وَإِلَى اللَّهِ يَصِيرُوا  
الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ يَسْرِ وَلَا يُصِرُّوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ  
أُولَٰئِكَ جَزَاءُ وَهُمْ مَغْفِرَةٌ مِمَّنْ  
تَسْتَهْرَجُهُمْ وَجَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

(۱۳۶-۱۳۵: ۳)

لَا سَاءَ التَّوْبَةَ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ  
السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ  
قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

(۱۷: ۴)

اور وہی توبے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور (انکے) قصور معاف فرماتا ہے اور جو توبہ کرتے ہو (سب) جانتا ہے۔

(۲۵: ۴۲)

### ۶۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے

اور جنہوں نے برے کام کئے پھر اُس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے۔ تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد (بخش دے گا کہ وہ) بخشنے والا مہربان ہے۔

(۱۵۳: ۷)

..... اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا ۸۱  
اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر میرے رستے چلے اُس کو میں بخش دینے والا ہوں ۸۲

(۸۲-۸۱: ۲۰)

### ۷۔ توبہ کی قبولیت کا حق کن کو پہنچتا ہے

اور وہ جب کوئی گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور بُرائی کر بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا گناہ بخش ہی کون سکتے ہے اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے ۱۳۵ ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں (اور) وہ اس میں ہمیشہ بستے رہیں گے..... ۱۳۶

(۱۳۶-۱۳۵: ۳)

اللہ انہیں لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بُری حرکت کر بیٹھے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں پس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے۔ اور وہ سب کچھ جانتا (اور) حکمت والا ہے۔

(۱۷: ۴)

-----Your Lord has decreed mercy on Himself. If anyone of you commits evil through ignorance and then repents and mends his ways, then He is Forgiving, Merciful.

(VI : 54) Z

### 8. WHO WILL BE PARDONED BY ALLAH

159. Those who conceal the clear (Signs) We have sent down and the Guidance, after We have made it clear for the people in the Book, on them shall be Allah's curse, and the curse of those entitled to curse, - 160. Except those who repent and make amends and openly declare (the truth): to them I turn; for I am Oft-Returning, Most Merciful.

(II : 159 - 160) Y

### 9. ALLAH WILL PARDON EVIL DEEDS IF GRAVE SINS ARE AVOIDED

If you avoid the grave sins you are forbidden, We shall pardon your evil deeds and admit you to an honourable place (Paradise).

(IV : 31) Z

### 10. WHO WILL NOT BE PARDONED BY ALLAH

Of no effect is the repentance of those who continue to do evil, until Death faces one of them, and he says, "Now have I repented indeed"; Nor of those who die rejecting Faith: for them have We prepared a punishment most grievous.

(IV : 18) Y

----- کَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى  
نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ  
سُوءًا أٰجْهَالًا لَّمْ يَتَّبِعْهُ مِن بَعْدِهِ وَ  
أَصْلَحْ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝  
(۵۴: ۶)

۸۔ من يقبل الله توبته  
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا  
مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ  
مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ  
أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ  
الْعَالَمُونَ ۝  
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْا  
فَأُولَٰئِكَ أَلْتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا  
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

(۱۶۰ - ۱۵۹: ۲)

۹۔ من يجتنب ارتكاب الكبائر  
يعفو الله صغائرہ  
إِن تَجْتَنِبُوا كَبِيرَاتِهِمْ مَّا ذُنُّوا عَنْهُ  
نُكِرْنَا عَنْكُمْ صِغَايَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ  
مُدْخَلًا كَرِيمًا ۝

(۳۱: ۴)

۱۰۔ من لا يقبل الله توبته  
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ  
السَّيِّئَاتِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدَهُمُ  
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ۚ وَالَّذِينَ  
وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا  
أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

(۱۸: ۴)

... اللہ نے اپنی ذات (پاک) پر رحمت کو لازم  
کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بڑی حرکت  
کرے مگر پھر اس کے بعد توبہ کرے اور نیکو کار ہو جائے  
تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔  
(۵۴: ۶)

۸۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے  
جو لوگ ہورے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کیا ہے  
کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں۔ باوجودیکہ ہم نے ان لوگوں کے  
(سمجھانے کے) لئے اپنی کتاب میں کھوکھریاں کر دی ہیں  
ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے  
ہیں ۝ ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر  
لیتے اور (احکام الہی کو) صاف صاف بیان کر دیتے ہیں  
تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں۔ اور میں بڑا  
معاف کرنے والا (اور) رحم والا ہوں ۝

(۱۶۰ - ۱۵۹: ۲)

۹۔ بڑے گناہوں سے بچے ہو تو اللہ تعالیٰ  
چھوٹے گناہ معاف کر دے گا  
اگر تم بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب  
رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔  
اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔

(۳۱: ۴)

۱۰۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں فرماتا  
اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو (ساری عمر)  
بڑے کلمہ کہتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آجوت  
ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اور انہی  
(توبہ قبول ہوتی ہے) جو کفر کی حالت میں ہیں۔ ایسے لوگوں  
کے لئے ہم نے عذاب الیم تیار کر رکھا ہے۔

(۱۸: ۴)

## 11. UNPARDONABLE SINS

Lo! Allah forgiveth not that a partner should be ascribed unto Him. He forgiveth (all) save that to whom He will. Whoso ascribeth partners to Allah, he hath indeed invented a tremendous sin.

(IV : 48) P

## 12. SALVATION CAN BE EXPECTED THROUGH BELIEF IN ALLAH, REPENTANCE AND GOOD DEEDS

But any that (in this life) had repented, believed, and worked righteousness, will have hopes to be among those who achieve salvation.

(XXVIII : 67) Y

## 13. BEST FORM OF REPENTANCE

O ye who believe! Turn unto Allah in sincere repentance! It may be that your Lord will remit from you your evil deeds and bring you into Gardens.-----

(LXVI : 8) P

## 14. NEVER DESPAIR OF ALLAH'S MERCY AND ALWAYS TURN TO HIM

53. Say. O My servants, you who have sinned against your souls, do not despair of Allah's mercy, for He forgives all sins. He is the Forgiving One, the Merciful. 54. Turn in repentance to your Lord and surrender yourselves to Him before His scourge overtakes you for then you will not be helped.

(XXXIX : 53 - 54) Z

۱۱۔ ماہی الذنوب التي لا يغفرها الله  
لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بِهِ وَيَغْفِرَ  
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ  
يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝

(۴۸ : ۴)

۱۲۔ ترجی المغفرة بالتوبة  
والإيمان والعمل الصالح

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ  
صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ  
الْمُفْلِحِينَ ۝

(۶۷ : ۲۸)

۱۳۔ ماہی احسن صورة للتوبة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً  
نُصُوحًا ۚ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَكْفِرَ عَنْكُمْ  
سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ

(۸ : ۶۶)

۱۴۔ لا تقنطوا من رحمة الله  
وأنسبوا إليه

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ  
لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ  
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ۝  
وَأَنِسُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝

(۵۲ - ۵۳ : ۳۹)

۱۱۔ وہ گناہ کون سے ہیں جنکی معافی نہیں ہے  
اللہ اس گناہ کو نہیں بخشنے گا کسی کو اس کا شریک یا جاسا  
اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس نے  
اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔

(۴۸ : ۴)

۱۲۔ توبہ، ایمان اور نیک عمل سے نجات  
کی امید کی جاسکتی ہے

لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک  
کئے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں  
میں ہو۔

(۶۷ : ۲۸)

۱۳۔ توبہ کی بہترین صورت کیا ہے

مومنو! اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو۔ امید ہے  
کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو باقی  
بہشت میں داخل کرے گا۔۔۔۔۔

(۸ : ۶۶)

۱۴۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی بھی ناامید نہ ہونا چاہیے  
اور اسی کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے

(اے پیغمبر میری طرف لوگوں کو کہو کہ اسے میرے بند و جنوں اپنی  
جانوں پر یاد دہانی کی ہے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا اللہ تو سب  
گناہوں کو بخش دیتا ہے (اور) وہ تو بخشنے والا مہربان ہے) ۵۳  
اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع  
کو اور اس کے فرمانبردار ہو جاؤ پھر تم کو مدد نہیں ملے گی ۵۴

(۵۲ - ۵۳ : ۳۹)

15. THOSE WHO FEARED ALLAH UNSEEN WITH A HEART TURNED IN DEVOTION WILL ENTER PARADISE ON THE DAY OF JUDGMENT

32. (A voice will say): "This is what was promised for you, - for everyone who turned (to Allah) in sincere repentance, who kept (His Law). 33. "Who feared (Allah) Most Gracious unseen, and brought a heart turned in devotion (to Him)?"

(L : 32 - 33) Y

16. WHOEVER REPENTS AND DOES GOOD WORKS TRULY TURNS TO ALLAH

And whoever repents and does good has truly turned to Allah with an (acceptable) conversion;—

(XXV : 71) Y

## SUPPLICATION

1. ALLAH DIRECTED HIS HOLY PROPHET TO PRAY FOR INCREASE OF KNOWLEDGE

High above all is Allah, the King, the Truth! Be not in haste with the Qur'an before its revelations to thee is completed, but say, "O my Lord! Advance me in knowledge".

(XX : 114) Y

۱۵۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَخَافُونَ اللَّهَ سِيّدَ خَلْقِهِمُ الْجَنَّةِ

هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۝  
مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ۝

(۳۲-۳۳: ۵۰)

۱۶۔ وَالَّذِينَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا صَالِحًا يُقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُمْ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝

(۷۱ : ۳۵)

## الدعاء

۱۔ امر اللہ محمدؐ ان یطلب منہ زیادة فی علمہ

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۚ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝

(۱۱۴ : ۲۰)

۱۵۔ قیامت کے روز اللہ سے بن دیکھے ڈرنے والے اور رجوع لائے اولاد رکھنے والے جنت میں جائیں گے

یہ وہی چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی ہر جس نے اللہ سے خوف کرنے والے سے رجوع لائے اولاد رکھنے والے اور رجوع لائے اولاد رکھنے والے کو

(۳۲-۳۳ : ۵۰)

۱۶۔ جو توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے توبہ شدہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔

(۷۱ : ۳۵)

## دُعا

۱۔ اللہ تعالیٰ نے محمدؐ کو علم میں اضافے کے لئے دُعا کرنے کے لئے ارشاد فرمایا

تو اللہ تعالیٰ نے محمدؐ کو علم میں اضافے کے لئے دُعا کرنے کے لئے ارشاد فرمایا

(۱۱۴ : ۲۰)

## 2. WHEN IN NEED OR TROUBLE PRAY TO ALLAH ALONE

Unto Him is the real prayer. Those unto whom they pray beside Allah respond to them not at all, save as (is the response to) one who stretcheth forth his hands towards water (asking) that it may come unto his mouth, and it will never reach it. The prayer of disbelievers goeth (for) astray.

(XIII : 14) P

## 3. ALLAH IS NEARER THAN MAN'S JUGULAR VEIN AND LISTENS TO HIS SUPPLICATION

We verily created a man and We know what his soul whispereth to him, and We are nearer to him than his jugular vein.

(L : 16) P

When My servants ask thee concerning Me, I am indeed close (to them): I listen to the prayer of every suppliant when he calleth on Me. Let them also, with a will, listen to My call, and believe in Me: that they may walk in the right way.

(II : 186) Y

## 4. ALLAH HEARS THE CRIES OF THOSE IN DISTRESS AND REMOVES THEIR SUFFERINGS

Or, who listens to the (soul) distressed when it calls on Him, and who relieves its suffering, and makes you (mankind) inheritors of the earth? (Can there be another) god besides Allah? Little it is that ye heed!

(XXVII : 62) Y

## ۲۔ لاتدع مع الله احدًا في قضاء حاجاتك وحل مشاكلك

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دَعَاءُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ

(۱۴ : ۱۳)

## ۳۔ الله أقرب الى الإنسان من حبل الوريد وهو الذي يسمع دعاءه

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

(۱۶ : ۵۰)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَتْ جِيبُوا إِلَيَّ وَلِيُؤْمِنُوا مِنِّي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

(۱۸۶ : ۲)

## ۴۔ يسمع الله دعاء المضطر إذا دعاه ويكشف الضر عنه

أَلَمْ يَكُنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَلَا لَهُ مَعَهُ اللَّهُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

(۶۲ : ۲۷)

## ۲۔ حاجت روائی اور مشکل کشائی کی دعا اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے

مؤمن نہ پکارنا تو اسی کلمے اور جن کو یہ لوگ اسکے سوا پکارتے ہیں وہ انہی پکار کو ہی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ (دوبھی) اسکے منہ تک پہنچے مگر وہ (اس تک بھی) نہیں آسکتا اور (اسی طرح) کافروں کی پکار بیکار ہے۔

(۱۳ : ۱۳)

## ۳۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کی رگ جان سے بھی قریب ہے اور وہ پکارنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے

اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جراثیم اسکے دل میں گزرتی ہیں ہم انکو مٹاتے ہیں اور ہم اسکی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔

(۱۶ : ۵۰)

اور (اے پیغمبر) جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو (تمہارے پاس ہوں) جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔

(۱۸۶ : ۲)

## ۴۔ اللہ تعالیٰ ہی بيمقرار کی التجا قبول کر کے اس کی تکلیف کو دور فرماتا ہے

جس طرح بيمقرار کی التجا قبول کرنا ہے جب اسے دعا کرتا ہے اور کوئی اسکی تکلیف کو دور کرتا ہے اور کون کون سے لوگوں کی جان میں آتا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہرگز نہیں مگر تمہیں ہم سے منکر ہے۔

(۶۲ : ۲۷)

## 5. HOW TO PRAY TO ALLAH

55. Call on your Lord with humility and in private: For Allah loveth not those who tresspass beyond bounds. 56. Do not mischief on the earth, after it hath been set in order, but call on Him with fear and longing (in your hearts): For the Mercy of Allah is (always) near to those who do good.

(VII : 55-56) Y

## 6. KEEP ON ASKING FOR ALLAH'S GRACE AND MERCY

-----But ask Allah of His bounty: For Allah hath full knowledge of all things.

(IV : 32) Y

## 7. PRAY FOR FORGIVENESS FOR YOUR PARENTS AND YOURSELF

"O our Lord! cover (us) with Thy Forgiveness—me, my parents and (all) Believers, on the Day that the Reckoning will be established!"

(XIV : 41) Y

## 8. PARENTS PRAYER FOR THEIR CHILDREN

Refer to "Public Obligations" at page 237

(XLVI : 15, XIV : 40)

## 9. PRAY FOR COMFORT FROM YOUR CHILDREN

And those who pray, "Our Lord! Grant unto us wives and offspring who will be the comfort of our eyes, and give us (the grace) to lead the righteous".

(XXV : 74) Y

## ۵- کیف یسأل اللہ

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً طَرِيقَهُ  
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۵۵﴾

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا  
وَادْعُواهُ خَوْفًا وَطَمَعًا طَرِيقًا رَحْمَتِ اللَّهِ  
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۶﴾

(۵۶-۵۵: ۷)

## ۶- عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

----- وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۳۲﴾

(۳۲: ۴)

## ۷- عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ

لِأَنْفُسِكُمْ وَلِآبَائِكُمْ

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ  
يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿۴۱﴾

(۴۱: ۱۴)

## ۸- دَعَاءُ الْوَالِدِينَ لِلْأَوْلَادِ

لاحظ عنوان "حقوق العباد"

على الصفحة ۲۳۷

(۴۰: ۱۴، ۱۵: ۴۶)

وَعَلَيْكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ  
يَجْعَلَ أَوْلَادَكُمْ وَازْوَاجَكُمْ قُرَّةَ أَعْيُنٍ لَّكُمْ

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ  
أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿۷۴﴾

(۷۴: ۲۵)

## ۵- اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگنی چاہیے

دلوگرو اپنے پروردگار سے عاجزی اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کر وہ حد سے بڑھے والوں کو دوست نہیں کہتا ﴿۵۵﴾ اور تمہیں اس بات کے بعد بھی کہنا اور اللہ سے خوف کرنے اور امید رکھنے دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیلی کرنے والوں کے قریب ہے ﴿۵۶﴾

(۵۶-۵۵: ۷)

## ۶- اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم مانگتے رہنا چاہیے

.... اور اللہ سے اس کا فضل (و کرم) مانگتے رہو کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

(۳۲: ۴)

## ۷- اپنی اور اپنے والدین کی مغفرت کے لئے دُعا کرنی چاہیے

لئے پروردگار حساب (کتاب) کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کیجیو۔

(۴۱: ۱۴)

## ۸- والدین کی اولاد کے لئے دُعا

ملاحظہ فرمائیں۔ حقوق العباد صفحہ ۲۳۷

(۴۰: ۱۴، ۱۵: ۴۶)

۹- اپنے اہل و عیال کی طرف سے راحت حاصل ہونے کے لئے دُعا کرنی چاہیے

اور وہ جو اللہ سے دُعا مانگتے ہیں کہ لے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے (دل کا چین) اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔

(۷۴: ۲۵)

### 10. PRAY THAT YOU DO NOT BECOME JEALOUS OR MALICIOUS TOWARDS OTHER BELIEVERS

-----say: Our Lord! Forgive us and our brethren who were before us in the faith, and place not in our hearts any rancour toward those who believe. Our Lord! Thou art full of Pity, Merciful.

(LIX : 10) P

### 11. PRAY FOR ALLAH'S FORGIVENESS

----- (Pray:) "Our Lord! Condemn us not if we forget or fall into error; our Lord! Lay not on us a burden like that which Thou didst lay on those before us; our Lord! Lay not on us a burden greater than we have strength to bear. Blot out our sins, and grant us forgiveness, have mercy on us. Thou art our Protector; help us against those who stand against Faith.

(II : 286) Y

### 12. NEVER DESPAIR OF ALLAH'S MERCY

Say: 'O My servants, you who have sinned against your souls, do not despair of Allah's Mercy, for He forgives all sins. He is the Forgiving One, the Merciful.'

(XXXIX : 53) Z

### 13. WHOSE PRAYERS ARE HEARD

And He listens to those who believe and do deeds of righteousness and gives them increase of His Bounty: but for the unbelievers there is a terrible penalty.

(XLII : 26) Y

۱۰۔ اعلیٰکم ان تدعوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ  
ان لا یجعل فی قلوبکم غلا للمؤمنین

----- یقولون

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا  
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ  
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

(۱۰۱ : ۵۹)

۱۱۔ علیکم ان تستغفروا اللہ ذنوبکم

رَبَّنَا لَا تَوَلِّنا اِنْ خَدْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ  
اَخْطَا نَا هَ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا  
اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ  
مِنْ قَبْلِنَا هَ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا  
لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ هَ وَاغْفِرْ عَنَّا هَ  
وَاعْفُرْ لَنَا هَ وَارْحَمْنَا هَ اَنْتَ  
مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ  
الْكٰفِرِيْنَ ۝

(۲۸۶ : ۲)

۱۲۔ لا تقنطوا من رحمة اللہ

قُلْ لِيَعْبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ  
لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ  
الذَّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

(۵۳ : ۳۹)

۱۳۔ من يقبل اللہ دعائه

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ  
وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُوْنَ لَهُمْ  
عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۝

(۲۶۱ : ۴۲)

۱۰۔ دوسرے مومنوں کے متعلق اپنے دل میں  
کینہ و حسد نہ پیدا ہونے کیلئے دعا کرنی چاہیے

..... (اور) دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے  
ہماریے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں تمہارا معاف فرما  
اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (حسد) نہ پیدا ہونے  
نے اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

(۱۰۱ : ۵۹)

۱۱۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش کے لئے

دعا کرو

..... اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک  
ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو۔ اے  
پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم  
سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار جتنا بوجھ  
اتھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ  
رکھیو اور (اے پروردگار) ہمارے گناہوں سے درگزر کر۔  
اور ہمیں بخشش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا  
مالک ہے۔ اور ہم کو کافروں پر غالب کر۔

(۲۸۶ : ۲)

۱۲۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی بھی نا امید نہ ہونا چاہیے

اپنے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کی کہہ دو کہ اے میرے بڑے بھائیوں  
اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اللہ تو  
سب کچھ کوشش دیتا ہے (اور) وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔

(۵۳ : ۳۹)

۱۳۔ اللہ تعالیٰ کون کی دعا قبول فرماتا ہے

اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کئے ان کی (دعا)  
قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے۔ اور جو  
کافر ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے۔

(۲۶۱ : ۴۲)

#### 14. MAN SHOULD PRAY FOR BOTH HERE AND THE HERE-AFTER

200. -----There are men who say: "Our Lord! Give us (Thy bounties) in this world!" But they will have no portion in the Hereafter. 201. And there are men who say: "Our Lord! Give us good in this world and good in the Hereafter, and defend us from the torment on the Fire!" 202. To these will be allotted what they have earned: and Allah is quick in account.

(II : 200-202) Y

#### 15. MAN'S OWN SOUL IS BENEFITED WHEN HE SHOWS GRATITUDE TO ALLAH

We bestowed (in the past) wisdom on Luqman: "Show (thy) gratitude to Allah". Any who is (so) grateful does so to the profit of his own soul: But if any is ungrateful, verily Allah is free of all wants, Worthy of all praise.

(XXXI : 12) Y

#### 16. KEEP PRAYING TO ALLAH TO WARD OFF PUNISHMENT OF HELL FROM YOU

Who say: "Lord, ward off from us the punishment of Hell, for its punishment is everlasting:

(XXV : 65) Z

#### ۱۴۔ لیکن الدعاء لل دنیا والآخرة کلتیہما

..... فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۝۲۰  
وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝۲۱  
أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۝۲۲  
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۲۳  
(۲۰۲ : ۲۰۰ - ۲۰۴)

#### ۱۵۔ من شکر اللہ فقد شکر لنفسہ

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ  
وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝  
(۱۲ : ۳۱)

#### ۱۶۔ علی الناس ان یدعو اللہ سبحانہ وتعالی لیبعد عنهم عذاب جہنم

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا  
عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝  
(۶۵ : ۲۵)

#### ۱۴۔ دنیا اور آخرت دونوں ہی کے لئے دعا مانگنی چاہیے

... بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ ان پر دگرگاہ کو جو دنیا ہے، دنیا ہی میں عنایت کر ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ۲۰ اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھو ۲۱ یہی لوگ ہیں جن کے لئے ان کے کاموں کا حصہ (یعنی اجر نیکہ، تیار) ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا (اور جلد اجر دینے والا) ہے ۲۲  
(۲۰۲ : ۲۰۰ - ۲۰۴)

#### ۱۵۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بجالانے سے خود انسان ہی کو فائدہ پہنچتا ہے

اور ہم نے لقمان کو انانی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لئے شکر کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے تو اللہ بھی بے پڑا ہے (اور ہمزوار محمد (و ثنا) ہے۔  
(۱۲ : ۳۱)

#### ۱۶۔ اللہ تعالیٰ سے دوزخ کے عذاب کو دور رکھنے کے لئے دعا مانگتے رہنا چاہیے

اور وہ جو مانگتے بہتے ہیں کہ ان پر دگرگاہ دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے۔  
(۶۵ : ۲۵)



17. FULFIL YOUR VOWS  
WHEN YOUR LEGITIMATE  
PRAYERS ARE ANSWERED

Whatever you spend and whatever vows you make are known to Allah. The evil-doers shall have none to help them.

(11 : 270) Z

They who keep their vows and dread the far-spread terrors of the Day (of judgement);

(LXXVI : 7) Z

۱۷۔ عند قضا الحاجة المطلوبة يجب

على الإنسان ان يوفي بما نذره

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ

نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

(۲۷۰ : ۲)

يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ

شَرًّا مُسْتَطِيرًا ۝

(۷۱۷۹)

۱۷۔ جائز امر کی مراد بر آنے پر اللہ تعالیٰ

سے مانی ہوئی نذر کو پورا کرنا چاہیے

اور تم (اللہ کی راہ میں) جس طرح کا خرچ کرو

یا کوئی نذر مانو اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں

کا کوئی مددگار نہیں۔

(۲۷۰ : ۲)

یہ لوگ نذریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے

جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔

(۷۱ : ۷۹)

## RELIGION OF ISLAM

### AL-ISLAM

#### 1. ALLAH NAMED HIS SER- VANTS "MUSLIM" IN PRE- VIOUS REVELATIONS ALSO

----- It is the cult of your father Abraham: It is He Who has named you Muslims, both before and in this (Revelation);

(XXII : 78) Y

#### 2. ALLAH PERFECTED AND CHOSE AL-ISLAM AS THE APPROVED RELIGION

-----This day have I perfect-  
ed your religion for you, and  
completed My favour unto you,  
and have chosen for you as  
religion AL-ISLAM-----

(V : 3) P

#### 3. RELIGION WITH ALLAH IS ONLY ISLAM

Lo! Religion with Allah (is)  
The Surrender (to His Will and  
guidance). Those who (formerly)  
received the scripture differed  
only after knowledge came unto  
them,-----

(III : 19) P

## دين الإسلام

### الإسلام

۱- لقد سمي الله المسلمين  
في الكتب السماوية السابقة ايضا

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ  
مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا

(۷۸ : ۲۲)

۲- أكمل الله الإسلام  
ورضيه ديناً

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ  
أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ  
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

(۳ : ۵)

۳- إن الدين عند الله الإسلام

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ  
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ  
إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ  
بَغْيًا بَيْنَهُمْ

(۱۹ : ۳)

## دين اسلام

### الاسلام

۱- پہلی کتابوں میں بھی نام مسلمان  
بی رکھا تھا

... اور پہلے تمہارے باپ ابراہیم کا دین (پندرہ) اسی ہے (یعنی پہلی کتابوں  
میں تمہارا نام مسلمان لکھا تھا اور اس کتاب میں بھی (وہی نام لکھا ہے)۔

(۷۸ : ۲۲)

۲- اللہ تعالیٰ نے دین اسلام مکمل کر دیا  
اور پسند فرمایا

... (اور آج ہم نے تمہارے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں  
تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔

(۳ : ۵)

۳- اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہے

دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور  
اہل کتاب نے جو (اس دین سے) اختلاف  
کیا تو عسلی ماحصل ہونے کے بعد آپس کی ضد  
سے کیا۔۔۔۔

(۱۹ : ۳)

#### 4. NO OTHER RELIGION WILL BE ACCEPTABLE

And whoso seeketh as religion other than the Surrender (to Allah) it will not be accepted from him and he will be a loser in the Hereafter.

(III : 85) P

#### 5. THIS IS THE TRUE RELIGION

And they have been commanded no more than this: to worship Allah, offering Him sincere devotion, being True (in faith) to establish regular prayer; and to practice regular Charity. And that is the Religion Right and Straight.

(XCVIII : 5) Y

#### 6. ONE SHOULD DIE AS A MUSLIM ONLY

O ye who believe! Fear Allah as He should be feared and die not except in a state of Islam.

(III : 102) Y

#### 7. THERE IS NO HARDSHIP IN THE OBSERVANCE OF THIS RELIGION

And strive for Allah with the endeavour which is His right. He hath chosen you and hath not laid upon you in religion any hardship;-----

(XXII : 78) P

#### 8. IT IS HIS FAVOUR TO HAVE MADE YOU MUSLIM

They impress on thee as a favour that they have embraced Islam. Say, "Count not your Islam as a favour upon me; nay, Allah has conferred a favour upon you that He has guided you to the Faith, if ye be true and sincere".

(XLIX : 17) Y

۴۔ لایقبل اللہ ائی دین غیر اسلام  
وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا  
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۗ وَهُوَ فِي  
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

(۸۵ : ۳)

#### ۵۔ اسلام ہو دین الحق

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ  
لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝

(۵۱۹۸)

#### ۶۔ لیمت الإنسان مسلماً

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ  
تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

(۱۰۲ : ۳)

#### ۷۔ لایوجد ائی عسرفی

#### أحكام الإسلام

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ  
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

(۷۸ : ۲۲)

#### ۸۔ لقد من الله عليكم

#### إذ جعلكم مسلمين

يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ اسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا  
عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۗ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ  
هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

(۱۷ : ۴۹)

۳۔ دوسرا کوئی مذہب قبول نہیں ہوگا

اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔

(۸۵ : ۳)

#### ۵۔ یہی سچا دین ہے

اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ انہیں عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں (اور ایک سو ہو کر) اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور یہی سچا دین ہے۔

(۵۱۹۸)

#### ۶۔ انسان کا خاتمہ تو اسلام پر ہی ہونا چاہیے

مومنو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔

(۱۰۲ : ۳)

#### ۷۔ اس دین کے احکام میں کسی قسم

#### کی تنگی نہیں

اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جیسا جہاد کرنا حق ہے اس نے تم کو کرنا دیا ہے اور تم پر دین (کی کسی بات) میں تنگی نہیں کی۔

(۷۸ : ۲۲)

#### ۸۔ مسلمان بنا دیا جانا تو اللہ کا تم پر

#### احسان ہے

یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا بشرطیکہ تم سچے مسلمان ہو۔

(۱۷ : ۴۹)

### 9. MUHAMMAD'S (P.B.U.H.) COMMUNITY DECLARED THE BEST COMMUNITY

Ye are the best community that hath been raised up for mankind. Ye enjoin right conduct and forbid indecency; and ye believe in Allah. And if the people of the scripture had believed it had been better for them. Some of them are believers; but most of them are evil-livers.

(III : 110) P

### 10. DISBELIEVERS WOULD WISH THAT THEY WERE MUSLIMS

It may be that those who disbelieve wish ardently that they were Muslims.

(XV : 2) P

### 11. HAD ALLAH WILLED ALL WOULD HAVE BEEN BELIEVERS

If it had been thy Lord's Will, they would all have believed,—all who were on earth! Wilt thou then compel mankind against their will, to believe?

(X : 99) Y

-----For each We have appointed a divine law and a traced-out way. Had Allah willed He could have made you one community. But that He may try you by that which He hath given you (He hath made you as ye are). So vie one with another in good works. Unto Allah you will all return, and He will then inform you of that wherein ye differ.

(V : 48) P

۹۔ امة محمد خير جميع الامم  
كنتم خير امة اخرجت للناس  
تأمرون بالمعروف وتنهون  
عن المنكر وتؤمنون بالله ولو  
امن اهل الكتب لكان خيرا  
لهم منهم المؤمنون واكثرهم  
الفسقون ○

(۱۱۰ : ۱۳)

۱۰۔ يود الكافرون لو

كانوا مسلمين

ربما يود الذين كفروا لو  
كانوا مسلمين ○

(۲۱ : ۱۵)

۱۱۔ لو شاء الله ليجعل كل الناس مسلمين  
ولكنه لم يشاء هذا ابتلاء  
ولو شاء ربك لامن من في الارض  
كلهم جميعا اذ اذنت نكركم الناس  
حتى يكونوا مؤمنين ○

(۹۹ : ۱۰)

----- لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً  
وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ  
أُمَّةً وَاحِدَةً وَاللَّيْلُ لِيَبْلُوكُمْ فِي  
مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى  
اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○

(۵ : ۴۸)

۹۔ محمد کی امت کو بہترین قرار دیا گیا ہے  
اور منوں! جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا  
ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو  
کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان  
لکھتے ہو اور اگر ان کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لئے  
بہت اچھا ہوتا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن  
تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں۔

(۱۱۰ : ۱۳)

۱۰۔ کافر آرزو کریں گے کاش

وہ مسلمان ہوتے

کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے  
کاش وہ مسلمان ہوتے۔

(۲۱ : ۱۵)

۱۱۔ اللہ اگر چاہتا تو زمین میں سب ہی ایمان  
لے آتے اگر اس میں آزمائش مقصود ہوتی  
اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو پختے لوگ زمین  
میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ تو کیا تم  
لوگوں پر زبردستی کنا چاہتے ہو کہ وہ مؤمن ہوں؟

(۹۹ : ۱۰)

..... ہم نے تم میں سے ہر ایک (فرقے) کیلئے  
ایک دستور اور طریقہ معزز کیا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو  
تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا مگر جو حکم اس نے تم کو دے  
ہیں ان میں تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے سو نیک  
کاموں میں جلدی کرو۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا  
پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتائے گا۔

(۵ : ۴۸)

## 12. ALLAH GUIDES OR SENDS ASTRAY WHOM HE PLEASES

Those whom Allah (in His Plan) willeth to guide, He openeth their heart to Islam: those whom He willeth to leave straying, He maketh their heart close and constricted, as if they had to climb up to the skies: thus doth Allah (heap) the penalty on those who refuse to believe.

(VI: 126) Y

## 13. BE A BELIEVER FROM THE BEGINNING

Are they waiting to see if the angels come to them, or thy Lord (Himself), or certain of the signs of thy Lord! The day that certain of the Signs of thy Lord do come, no good will it do to a soul to believe in them then, if it believed not before-----

(VI: 159) Y

## 14. NO COMPULSION IN ISLAM OVER NON-MUSLIMS

There is no compulsion in religion. The right direction is hence for the distinct from error-----

(II: 256) P

## 15. KEEP AWAY FROM THOSE WHO CAUSE DISSENSION IN RELIGION

Those who split up their Religion, and become (mere) Sects, - each party rejoicing in that which is with itself?

(XXX: 32) Y

## ۱۲- یهدی اللہ من یشاء ویضل من یشاء

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ  
صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ  
يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا  
كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ  
اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

(۱۲۶: ۶)

## ۱۳- لیؤمن الناس قبل أن تاتیهم آیات ربهم

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ  
أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ  
يَوْمَ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُهُمْ  
نَفْسًا أَيْمَانُهُمْ لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ  
قَبْلُ -----

(۱۵۹: ۶)

## ۱۴- لا إكراه في الدين

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ  
الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ -----

(۲۵۶: ۲)

## ۱۵- لا تكونوا مع الذين يسعون

في دين الله فسادا ويقضون

على وحدة الأمة السليمة

مِنَ الَّذِينَ فَتَرُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا  
كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ○

(۳۲: ۳۰)

## ۱۲- اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا یا گمراہی کے رستہ پر ڈال دیتا ہے

تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ  
اسلام کے لئے کھل دیتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے  
کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔  
گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان  
لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔

(۱۲۶: ۶)

## ۱۳- ایمان شروع میں لے آنا چاہیے

ایسے سوا اور کس بات منتظرین کچھ پاس فرشتے آئیں یا خود  
تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں  
آئیں (مگر) جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں  
آجائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس  
وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا.....

(۱۵۹: ۶)

## ۱۴- غیر مسلموں کے بارے میں اسلام میں کوئی جبر نہیں

دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت (منا)  
طہر پر ظاہر اور) گمراہی سے الگ ہو چکی ہے.....

(۲۵۶: ۲)

## ۱۵- دین میں فرقہ بندی اور تقسیم

کرنے والوں سے تعلق قائم نہ کرو

(المنہ) ان لوگوں میں (ہونا) جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا  
لو (خود) فرقے فرقے ہو گئے نسبتاً ایسی خوشی جو اٹھے پاس ہے۔

(۳۲: ۳۰)

As for those who divide their religion and break up into sects, thou hast no part in them in the least: Their affair is with Allah: He will in the end tell them the truth of all that they did.

(VI : 160) Y

### 16. REMAIN STEADFAST ON THE RIGHT PATH

So set thy purpose (O Muhammad) for religion as a man by nature upright – the nature (framed) of Allah, in which He hath created man. There is no altering (the laws of) Allah's creation. That is the right religion, but most men know not—

(XXX : 30) P

### 17. MIGRATION IS NECESSARY IF PRACTISING ISLAM BECOMES IMPOSSIBLE

When the angels take the souls of those who die in sin against their souls, they say: "In what (plight) were ye?" They reply: "Weak and oppressed were we in the earth". They say: "Was not the earth of Allah spacious enough for you to move yourselves away (from evil)?" Such men will find their abode in Hell, – What an evil refuge!—

(IV : 97) Y

Whoso migrateth for the cause of Allah will find much refuge and abundance in the earth, and whoso forsaketh his home, a fugitive unto Allah and His messenger, and death overtaketh him, his reward is then incumbent on Allah-----

(IV : 100) P

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَابًا  
لَسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى  
اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

(۱۶۰ : ۶)

۱۶۔ کونوا قوامین علی

صراط اللہ المستقیم

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ  
اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ  
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ  
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

(۳۰ : ۳۰)

۱۷۔ ہاجروا من الأرض التي

أصبح فيها العمل بالإسلام مستحيلا

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِي  
الْأَنْفُسِ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا  
مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ  
تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَهَاجِرُوا  
فِيهَا قَالُوا لَيْكَ مَا وَصَّيْتُمْ وَأَنْتَ  
مَصِيرًا ۝

(۹۷ : ۴)

وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ  
فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ  
يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَ  
رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ  
أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ -----

(۱۰۰ : ۴)

جن لوگوں نے اپنے دین میں (بہت سے) نکلنے اور کسی کوئی  
ذرتے ہوئے ان سے ٹکرو کچھ کام نہیں انکا کام اللہ کے علم پر چھوڑ  
کچھ دیکھتے رہے ہیں وہ ان کو (سب) بتائے گا۔

(۱۶۰ : ۶)

۱۶۔ اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر

تتم رہو

تو ایک طرف کے سو کردین اللہ کے سیدھے راستے پر سیدھا منہ کئے پٹ  
جو اور اللہ کی فطرت کو جس پر س نے لوگوں کو پیدا کیا ہے  
انصاف رکھے رہو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل  
نہیں ہو سکتا یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے

(۳۰ : ۳۰)

۱۷۔ اسلام پر عمل کرنا ناممکن ہو تو

ہجرت کر جانا چاہیے

جو لوگ اپنی جانوں پر تسلیم کرتے ہیں جب فرشتے ان  
کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس  
حال میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجزو  
ناتوان تھے فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں  
تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ ایسے لوگوں کا  
ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔

(۹۷ : ۴)

اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے  
وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا اور  
جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے  
گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آپڑے تو اس کا  
ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا.....

(۱۰۰ : ۴)

### 18. ALLAH WILL HELP YOU IF YOU HELP HIM

O ye who believe! If ye help Allah, He will help you and will make your foothold firm.

(XLVII: 7) P

### 19. ALLAH SHALL MAKE IT PREVAIL OVER ALL OTHER RELIGIONS

8. Can would they put out the light of Allah with their mouths, but Allah will perfect His light, however much the disbelievers are averse. 9. He it is Who hath sent His messenger with the guidance and the religion of truth, that He may make it conqueror of all religions however much idolators may be averse.

(LXI: 8-9) P

### 20. BELIEVERS SHOULD ASSIST EACH OTHER

The unbelievers give aid to one another. If you do not do the same, there will be persecution in the land and great corruption.

(VIII: 73) Z

### 21. DISCUSS RELIGIOUS MATTERS WITH WISDOM AND MILD EXHORTATION

Call men to the path of your Lord with wisdom and mild exhortation. Reason with them in the most courteous manner-----

(XVI: 125) Z

### ۱۸۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ  
يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝

(۷: ۸۷)

### ۱۹۔ علی اللہ أن یغلب الإسلام علی سائر الأديان

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ  
وَاللَّهُ مَتِّمٌ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝  
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ  
دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ  
كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

(۹-۸: ۹۱)

### ۲۰۔ یجب أن یعاون المؤمنون فیما بینهم

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ  
تَفْعَلُونَ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ كَبِيرٌ ۝

(۷۳: ۸)

### ۲۱۔ یجب أن یكون البعث الديني والمجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَ  
الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي  
هِيَ أَحْسَنُ ۝

(۱۲۵: ۱۶)

### ۱۸۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ بھی

تمہاری مدد کرے گا  
اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی  
تمہاری مدد کرے گا۔ اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔

(۷: ۸۷)

### ۱۹۔ اس دین کو دوسرے تمام دینوں پر غالب کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے

یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو منہ  
سے (پتھر مار کر) بجھادیں حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو  
پورا کر کے ہے گا خواہ کافرنا خوش ہی ہوں ۝ وہی  
تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دیکر بھیجا  
تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے ۝

(۹-۸: ۹۱)

### ۲۰۔ مومنوں کو آپس میں مدد کرنی چاہیے

اور جو لوگ کافر ہیں (وہ بھی) ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو مومنوں  
اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائیگا اور بڑا فساد پھیلے گا۔

(۷۳: ۸)

### ۲۱۔ دینی بحث اور مناظرہ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ کرنا چاہیے

(اے پیغمبر) لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے  
اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اور بہت ہی  
اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔۔۔۔

(۱۲۵: ۱۶)

## PEOPLE WHOM ALLAH LIKES

### 1. WHO HAVE FAITH

Allah is the Protector of those who have faith:-----

(II : 257) Y

### 2. THE FOLLOWERS OF MUHAMMAD (P.B.U.H.)

Say, (O Muhammad, to mankind); If ye love Allah, follow me; Allah will love you and forgive you your sins-----

(III : 31) P

### 3. WHO ARE DUTIFUL AND WHO FORGIVE THEIR FELLOW-MEN

17. Those who show patience, firmness and self-control; who are true (in word and deed), who worship devoutly; who spend (in the way of Allah) and who pray for forgiveness in the early hours of the morning. 134. Those who spend freely whether in prosperity or in adversity; who restrain anger, and pardon all men; — For Allah loves those who do good; —

(III : 17, 134) Y

### 4. WHO REPENT AND CLEANSE

— For Allah loves those who turn to him constantly and He loves those who keep themselves pure and clean.

(II : 222) Y

### 5. WHO ARE THE STEADFAST AND VIRTUOUS

146--And Allah loves those who are firm and steadfast. 148. -----For Allah loveth those who do good.

(III : 146, 148) Y

## من يحبهم الله

۱- يحب الله المؤمنين

الله ولي الذين آمنوا ----

(۲۵۷: ۲)

۲- ومن يتبع رسوله

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم

(۳۱: ۳)

۳- والمتقين والعافين عن الناس

الصبرين والصدقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار

الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين

(۱۳۴: ۱۷: ۳)

۴- والتوابين والطاهرين

ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

(۲۲۲: ۲)

۵- والصابرين والصالحين

والله يحب الصبرين والله يحب المحسنين

(۱۴۸: ۱۴۶: ۳)

## الله تعالى كن کو پسند فرماتا ہے

۱- ایمان والوں کو

جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے ....

(۲۵۷: ۲)

۲- اتباع رسول کرنے والوں کو

اے پیغمبروں سے کہو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تمہاری پیروی کرو اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔

(۳: ۳)

۳- صبر کرنے اور انسانوں کو معاف کرنے والوں کو

یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور راہ اللہ میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں جو آسودگی اور تسکین میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے

(۱۳۴: ۱۷: ۳)

۴- توبہ کرنے اور پاک صاف رہنے والوں کو

.... کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

(۲۲۲: ۲)

۵- استقلال رکھنے والوں اور نیکوکاروں کو

.... اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے

(۱۴۸: ۱۴۶: ۳)



## 6. WHO PUT THEIR TRUST IN ALLAH

-----Then, when thou hast taken a decision, put thy trust in Allah. For Allah loves those who put their trust (in Him).

(III: 159) Y

## 7. WHO FIGHT IN THE CAUSE OF ALLAH STEADFASTLY

Truly Allah loves those who fight in His Cause in battle array, as if they were a solid cemented structure.

(LXI: 4) Y

## 8. WHO ARE FAIR AND JUST

-----For Allah loveth those who judge in equity.

(V: 42) Y

## 9. WHO FEAR ALLAH

Nay, but (the chosen of Allah is) he who fulfilleth his pledge and wardeth off (evil); for lo! Allah loveth those who ward off (evil).

(III: 76) P

## 10. WHO EXCEL IN KINDNESS

-----But forgive them and overlook (their misdeeds): for Allah loveth those who are kind.

(V: 13) Y

## 11. WHO LIKE CLEANLINESS

-----In it are men who love to be purified; and Allah loveth those who make themselves pure.

(IX: 108) Y

## ۶۔ والمتوكلين عليه

----- فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ○  
(۱۵۹: ۳)

## ۷۔ والمقاتلين في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُيُوتٌ مَرْصُورَةٌ ○  
(۴۱: ۴)

## ۸۔ يحب الله المقسطين

----- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ○  
(۴۲: ۵)

## ۹۔ والذين يخشونه

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ○  
(۷۶: ۳)

## ۱۰۔ والمحسنين

----- فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ○  
(۱۳: ۵)

## ۱۱۔ والمتطهرين

----- فَيَذَرُ جَالَ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ○  
(۱۰۸: ۹)

## ۶۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والوں کو

.... جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔  
(۱۵۹: ۳)

## ۷۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہم کر لڑنے والوں کو

اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو (خاص طور پر) پسند کرتا ہے جو اسکے رستے میں اس طرح لڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک عمارت کی جیسے سیسے پلائی گئی ہے۔  
(۴۱: ۴)

## ۸۔ انصاف کرنے والوں کو

.... اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔  
(۴۲: ۵)

## ۹۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو

ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔  
(۷۶: ۳)

## ۱۰۔ احسان کرنے والوں کو

... تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور (ان سے) درگزر کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔  
(۱۳: ۵)

## ۱۱۔ صفائی پسندوں کو

.... اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔  
(۱۰۸: ۹)

## 12. WHO FULFIL THEIR PLEDGE

-----So fulfil your engagements with them to the end of their term: for Allah loveth the righteous.

(IX : 4) Y

## 13. WHO GIVE CHARITY AND PERFORM GOOD DEEDS

And spend of your substance in the cause of Allah, and make not your own hands contribute to (your destruction); but do good; For Allah loveth those who do good.

(II : 195) Y

## 14. THE RIGHTEOUS

-----it is only wrong-doers (that stand as) protectors, one to another; but Allah is the Protector of the righteous.

(XLV : 19) Y

## 15. WHO ARE HUMBLE TOWARDS THE BELIEVERS AND STERN TOWARDS UNBELIEVERS

-----humble towards the faithful and stern towards the unbelievers, striving for Allah's cause and fearless of man's censure. Such is the grace of Allah:-----

(V : 54) Z

## PEOPLE WHOM ALLAH DISLIKES

### 1. WHO ARE UNGRATEFUL

If ye are thankless, yet Allah is independent of you, though He is not pleased with thanklessness for His boundmen;-----

(XXXIX : 7) P

## ۱۲- والذین یوفون بعہدہم

----- فَآْتُوا إِلَیْہُمْ عَہْدَہُمْ إِلَىٰ مُدَّتِہِمْ ۚ إِنَّ اللہَ یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ

(۹ : ۴)

## ۱۳- والذین ینفقون فی سبیلہ

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللہِ وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیْکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللہَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ

(۲ : ۱۹۵)

## ۱۴- والمتقین

----- وَإِنَّ الظَّالِمِیْنَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ ۚ وَاللَّہُ وَلِیُّ الْمُتَّقِیْنَ

(۱۹ : ۴۵)

## ۱۵- الرحما لللمؤمنین الؤشداء

على الکفار  
----- اذلة على المؤمنین  
اعترية على الکفرین زیحاهدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومة لایم  
ذک فضل اللہ

(۵ : ۵۴)

## من لا یحبہم اللہ

### ۱- لا یحب اللہ الذین لا یشکرونہ

إِنَّ تَكْفُرًا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مَا عَنِکُمْ وَلَا یَرْضَىٰ لِعِبَادِہِ الْکُفْرَ ۚ

(۷ : ۳۹)

## ۱۲- عہد پورا کرنے والوں کو

... جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو (کہ) اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔

(۹ : ۴)

## ۱۳- اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور نیکی کرنے والوں کو

اور اللہ کی راہ میں (مال) خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بیشک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

(۲ : ۱۹۵)

## ۱۴- پرہیزگاروں کو

... اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔

(۱۹ : ۴۵)

## ۱۵- جو مومنوں سے نرمی کرنے اور کافروں

سے سختی برتنے والے ہوں ... اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی طاقت کو نیلے کی طاقت سے ڈریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔

(۵ : ۵۴)

## اللہ تعالیٰ کن کو ناپسند فرماتا ہے

### ۱- ناشکری کرنے والوں کو

اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لئے ناشکری پسند نہیں کرتا۔

(۷ : ۳۹)

## 2. WHO ARE PROUD AND WALK IN INSOLENCE

"And swell not thy cheek (for pride) at men nor walk in insolence through the earth; For Allah loveth not any arrogant boaster."

(XXXI : 18) Y

-----Lo! Allah loveth not such as are proud and boastful.

(IV : 36) P

## 3. WHO DISPUTE THE SIGNS OF ALLAH

(such) as dispute about the Signs of Allah, without any authority that has reached them. Grievous and odious (is such conduct) in the sight of Allah and of the Believers:-----

(XI : 35) Y

## 4. WHO ARE WRONG-DOERS

-----for (Allah) loveth not those who do wrong.

(XLII : 40) Y

## 5. WHO MAKE GOOD THINGS UNLAWFUL

O ye who believe! Make not unlawful the good things which Allah has made lawful for you, but commit no excess: For Allah loveth not those given to excess.

(V : 87) Y

## 6. WHO CREATE MISCHIEF

-----and Allah loveth not mischief.

(II : 205) P

## ۲۔ والمتکبرین والماشین

على الارض مَرَحًا

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي  
الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
مُخْتَالٍ فَخُورٍ ○

(۱۸ : ۳۱)

----- إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ○

(۲۶ : ۴)

## ۳۔ والمجادلين في آيات الله

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ  
سُلْطَنٍ أَتَاهُمْ كَبْرًا مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَ  
عِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا ○

(۲۵ : ۴۰)

## ۴۔ والظالمين

----- إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ○

(۴۰ : ۴۲)

## ۵۔ والذين يحرمون ما أحل الله من الطيبات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ  
مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ○  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ○

(۸۷ : ۵)

## ۶۔ والذين يسعون في الأرض فسادا

----- وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ○

(۲۰۵ : ۲)

## ۲۔ تکبر کرنے والوں اور زمین پر اکر کر

چلنے والوں کو

اور (ازراہ غرور) لوگوں سے گال نہ پھلانا اور  
زمین میں اکر کر نہ چلنا کہ اللہ کسی اترانے والے  
خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔

(۱۸ : ۳۱)

.... کہ اللہ تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے  
کو دوست نہیں رکھتا۔

(۲۶ : ۴)

## ۳۔ آیتوں میں جھگڑنے والوں کو

جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل  
آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک  
اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے ....

(۲۵ : ۴۰)

## ۴۔ ظلم کرنے والوں کو

.... اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

(۴۰ : ۴۲)

## ۵۔ پاکیزہ اور حلال چیزوں کو حرام

کرنے والوں کو

مومنو! جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے  
لئے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے  
بڑھو کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا

(۸۷ : ۵)

## ۶۔ فتنہ انگیزی کرنے والوں کو

... اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔

(۲۰۵ : ۲)

### 7. WHO ARE FAITHLESS AND COMMIT CRIMES

-----For Allah loveth not one given to perfidy and crime:  
(IV : 107) Y

### 8. WHO ARE TRANSGRESSORS

-----but do not transgress limits: For Allah loveth not transgressors.  
(II : 190) Y

### 9. WHO ARE PRIDEFUL BOASTERS

-----Allah loveth not all prideful boasters:  
(LVII : 23) P

### 10. WHO ARE INGRATE AND BETRAY TRUST

-----Lo! Allah loveth not any treacherous ingrate.  
(XXII : 38) P

### 11. WHO ARE EXTRA-VAGANT

-----But waste not by excess: for Allah loveth not the wasters.  
(VI : 142) Y

### 12. WHO ARE TREACHEROUS

-----Lo! Allah loveth not the treacherous.  
(VIII : 58) P

### 13. WHO SEEK MISCHIEF IN THE LAND

-----and seek not (occasions for) mischief in the land: for Allah loves not those who do mischief.  
(XXVIII : 77) Y

### ۷۔ والمخائنین والاکفین

-----  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَتِيمًا  
(۱۰۷: ۴)

### ۸۔ والمعتدین

-----  
وَلَا تَعْتَدُوا ط إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ  
(۱۹۰: ۲)

### ۹۔ والمختالین والفقورین

-----  
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ  
(۲۳: ۵۷)

### ۱۰۔ والمخائنین والکافرین بنعم اللہ

-----  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ  
(۳۸: ۲۲)

### ۱۱۔ والبذریں

-----  
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ  
(۱۴۲: ۶)

### ۱۲۔ والمخادعین

-----  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ  
(۵۸: ۸)

### ۱۳۔ والمفسدین فی الارض

-----  
وَلَا تَبْغِزُوا فِي  
الْأَرْضِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ  
(۷۷: ۲۸)

۷۔ جو خائنین ہوں اور جرائم کرتے ہوں

.... کیونکہ اللہ خائنین اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا۔  
(۱۰۷: ۴)

۸۔ جو زیادتی کرنے والے ہوں

.... مگر زیادتی نہ کرنا۔ کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔  
(۱۹۰: ۲)

۹۔ جو اترنے اور شجی بگھارنے والے ہوں

.... واللہ کسی اترنے اور شجی بگھارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔  
(۲۳: ۵۷)

۱۰۔ جو خیانت اور کفرانِ نعمت کرنے والے ہوں

.... اللہ کسی خیانت کرنے والے اور کفرانِ نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔  
(۳۸: ۲۲)

۱۱۔ بے جا اڑانے والوں کو

.... اور بے جا اڑانا کہ اللہ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔  
(۱۴۲: ۶)

۱۲۔ جو دغا باز ہوں

.... کچھ شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔  
(۵۸: ۸)

۱۳۔ جو ملک میں طالبِ فساد ہوں

.... اور ملک میں طالبِ فساد نہ ہو۔ کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔  
(۷۷: ۲۸)

## 14. THE VAIN-GLORIOUS

-----Exult not; lo! Allah loveth not the exultant.

(XXVIII : 76) P

## 15. WHO ARE ARROGANT AND DO NOT BELIEVE IN THE HEREAFTER

22. Your God is One God. But as for those who believe not in the Hereafter their hearts refuse to know, for they are proud. 23. Assuredly Allah knoweth that which they keep hidden and that which they proclaim. Lo! He loveth not the proud.

(XVI : 22-23) P

## ۱۴۔ والفرحین

..... لا تفرحوا ان الله لا يحب الفرحين

(۷۶ : ۲۸)

## ۱۵۔ والذین یطغون ولا یؤمنون

## بالآخرة

الهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿۲۲﴾

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿۲۳﴾

(۲۳ : ۲۲ - ۲۳)

## ۱۴۔ اترانے والوں کو

... اترائیے مت کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

(۷۶ : ۲۸)

## ۱۵۔ جو سرکشی کرتے اور آخرت پر ایمان

## نہیں رکھتے ہیں

تمہارا معبود تو ایک اللہ ہے۔ تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکشی ہو رہے ہیں ﴿۲۲﴾ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے۔ وہ (اللہ) سرکشوں کو برگزیدہ نہیں کرتا ﴿۲۳﴾

(۲۳ : ۲۲ - ۲۳)

## WHO ARE THE BELIEVERS

## من المؤمنون

## مومن کون ہیں

## 1. WHO ACCEPT ISLAM WHOLE-HEARTEDLY

O ye who believe! Enter into Islam whole-heartedly; and follow not the footsteps of the Evil one for he is to you an avowed enemy.

(II : 208) Y

## ۱۔ الذین یدخلون فی السلم كافة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً مَّا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۲۰۸﴾

(۲۰۸ : ۲)

## ۱۔ جو اسلام میں پورے پورے داخل ہوں

مؤمنو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے۔

(۲۰۸ : ۲)

## 2. WHO GIVE UP USURY

O ye who believe! Fear Allah and give up what remains of your demand for usury, if ye are indeed believers.

(II : 278) Y

## ۲۔ والذین یجتنبون اکل الربوا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۷۸﴾

(۲۷۸ : ۲)

## ۲۔ جو سود خواری سے اجتناب کرتے ہیں

مؤمنو! اللہ سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔

(۲۷۸ : ۲)

### 3. WHO KEEP A RECORD OF MUTUAL DEBTS

O ye who believe! When ye contract a debt for a fixed term, record it in writing.-----

(II : 282) P

### 4. WHO DO NOT LOSE HEART NOR GRIEVE

Faint not nor grieve, for ye will overcome them if ye are (indeed) believers.

(III : 139) P

### 5. WHO PUT THEIR TRUST IN ALLAH ALONE

If Allah helps you, none can overcome you: If He forsakes you, who is thereafter that, that can help you? In Allah, then, let Believers put their trust.

(III : 160) Y

### 6. WHO FEAR ALLAH

It is only the Evil one that suggests to you the fear of his votaries: Be ye not afraid of them, but fear Me if ye have Faith.

(III : 175) Y

### 7. WHO DO NOT MISAPPROPRIATE EACH OTHER'S WEALTH

O ye who believe! Eat not up your property among yourselves in vanities: But let there be amongst you traffic and trade by mutual good-will-----

(IV : 29) Y

### 8. WHO FIGHT FOR THE CAUSE OF ALLAH

Those who believe fight in the cause of Allah,-----

(IV : 76) Y

۳۔ والذین یکتبون قدا ینہم  
یا ایہا الذین آمنوا اذ اتد ایتکم  
بذین الی اجل مسمی فاکتبوا  
(۲۸۲ : ۲)

۴۔ والذین لایہنون ولا یحزنون  
ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم  
الاعلون ان کنتم مؤمنین  
(۱۳۹ : ۳)

۵۔ والذین یتوکلون علی اللہ وحده  
ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم  
وان یخذ لکم فسن ذالذی ینصرکم  
من بعدہ وعلی اللہ فلیستوکل المؤمنون  
(۱۶۰ : ۳)

۶۔ والذین یخافون اللہ  
انما ذلکم الشیطن یخوف  
اولیاءہ فلا تخافوہم وخالون  
ان کنتم مؤمنین  
(۱۷۵ : ۳)

۷۔ والذین لایاکلون أموالہم  
بینہم بالباطل

یا ایہا الذین آمنوا لاتاکلوا أموالکم  
بینکم بالباطل الا ان تکون  
تجارۃ عن کراض منکم  
(۲۹ : ۴)

۸۔ والذین یقاتلون فی سبیل اللہ  
الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ  
(۷۶ : ۴)

۳۔ جو آپس کے قرض کو لکھ لیتے ہیں  
مؤمنو! جب تم آپس میں کسی معاہدہ کے لئے  
قرض کا معاہدہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو۔۔۔۔۔  
(۲۸۲ : ۲)

۴۔ جو بے دل اور غمناک نہیں ہوتے  
اور (دیکھو) بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا  
تم مؤمن (صادق) ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔  
(۱۳۹ : ۳)

۵۔ جو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں  
اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا  
اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے تمہاری  
مدد کرے اور مؤمنوں کو پیادے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔  
(۱۶۰ : ۳)

۶۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں  
یہ (خوف دلانے والا) تو شیطان ہے جو اپنے  
دوستوں سے ڈرتا ہے تو اگر تم مؤمن ہو تو ان سے  
مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا۔  
(۱۷۵ : ۳)

۷۔ جو ایک دوسرے کا مال ناحق  
نہیں کھاتے  
مؤمنو! ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ہاں  
اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو  
(اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہونے تو وہ جائز ہے)۔۔۔۔۔  
(۲۹ : ۴)

۸۔ جو اللہ تعالیٰ کے لئے لڑتے ہیں  
جو مؤمن ہیں وہ تو اللہ کے لئے لڑتے ہیں۔۔۔۔۔  
(۷۶ : ۴)

### 9. WHO DISCRIMINATE BETWEEN FRIEND AND FOE WHEN ON JEHAD

O ye believe! When ye go abroad in the cause of Allah, investigate carefully,-----

(IV : 94) Y

### 10. WHO DO NOT STAY WHERE DIVINE VERSES ARE RIDICULED

-----that when ye hear the Signs of Allah held in defiance and ridicule, ye are not to sit with them unless they turn to a different theme: If ye did, ye would be like them,-----

(IV : 140) Y

### 11. WHO REPENT AND MEND THEIR LIFE

Except for those who repent, mend (their life), hold fast to Allah, and purify their religion as in Allah's sight: If so they will be (numbered) with the Believers,-----

(IV : 146) Y

### 12. WHO BELIEVE IN THIS AND PAST REVEALED TEXTS

But those among them who are well-grounded in knowledge and the Believers believe in what hath been revealed to thee and what was revealed before thee,-----

(IV : 162) Y

### 13. WHO WILL ENTER THE PARADISE FREE OF GRIEF AND FEAR

-----Enter ye the Garden: No fear shall be on you, nor shall ye grieve.

(VII : 49) Y

۹- والذین یحیزون بین الأصدقاء  
والاعداء اذا ضربوا فی سبیل اللہ  
یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی  
سبیل اللہ فتبیینوا  
(۹۴ : ۴)

۱۰- والذین لا یجلسون مع الذین  
یستہزؤن بآیات اللہ  
--- ان اذا سمعتم آیت اللہ یکفرو بہا  
ویستہزؤن اہا فلا تقعدوا معہم حتی ینزلوا  
فی حدیث غیرہم انکم اذا امثلتم  
(۱۴۰ : ۴)

۱۱- والذین یتوبون الی اللہ  
ویصلحون انفسہم

الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا  
باللہ واخلفوا دینہم للہ فاولئک  
مع المؤمنین  
(۱۴۶ : ۴)

۱۲- والذین یؤمنون بالقرآن  
وبما انزل من قبلہ  
لکن الراسخون فی العلم منہم و  
المؤمنون یؤمنون بما انزل  
الیک وما انزل من قبک  
(۱۶۲ : ۴)

۱۳- والذین یدخلون الجنة  
غیر خائفین

--- ادخلوا الجنة لا خوف علیکم  
ولا انتم تحزنون  
(۴۹ : ۷)

۹- جو جہاد کے لئے سفر میں دوست دشمن  
میں تمیز کر لیتے ہیں

مومنو! جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق  
سے کام لیا کرو.....  
(۹۴ : ۴)

۱۰- جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ہنسی اور تکذیب  
کرنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے  
... کہ جب تم (کہیں) سُنو کہ اللہ کی آیتوں سے الکار ہو رہا ہے اور  
انکی ہنسی اڑانی جاتی ہے تو جب تک لوگ اور باتیں نہ کہنے  
لیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے...  
(۱۴۰ : ۴)

۱۱- جو توبہ کر کے اپنی حالت کو درست  
کر لیتے ہیں

ہاں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست  
کیا اور اللہ (کی رسی) کو مضبوط پکڑا اور خاص اللہ  
کے حکم بڑا ہو گئے تو ایسے لوگ مومن کے زمرے میں ہو گئے...  
(۱۴۶ : ۴)

۱۲- جو اس کتاب اور پہلی نازل کتابوں  
پر ایمان رکھتے ہیں

مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پختے ہیں اور جو مومن ہیں وہ  
اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے  
نازل ہوئیں (سب پر) ایمان رکھتے ہیں....  
(۱۶۲ : ۴)

۱۳- جو رنج و خوف سے آزاد بہشت میں  
داخل ہوں گے

... (تو مومن) تم بہشت میں داخل ہو جاؤ تمہیں کچھ  
خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندوہ ہوگا۔  
(۴۹ : ۷)

### 14. QUALITIES OF TRUE BELIEVERS

1. -----“and keep straight the relations between yourselves. Obey Allah and His Apostle, if ye do believe.” 2. For, Believers are those who, when Allah is mentioned, feel a tremor in their hearts, and when they hear His Signs rehearsed, find their faith strengthened, and put (all) their trust in their Lord; 3. Who establish regular prayers and spend (freely) out of the gifts We have given them for sustenance: 4. Such in truth are the Believers: They have grades of dignity with their Lord, and forgiveness and generous sustenance:

(VIII : 1-4) Y

Those that turn (to Allah) in repentance: that serve Him, and praise Him; that wander in devotion to the Cause of Allah; that bow down and prostrate themselves in prayers; that enjoin good and forbid evils, and observe the limits set by Allah; (These do rejoice). So proclaim the glad tidings to the Believers.

(IX : 112) Y

### 15. WHO ENJOIN RIGHT AND FORBID WRONG

The Believers, men and women, are protectors, one of another: They enjoin what is just, and forbid what is evil:-----

(IX : 71) Y

### 16. WHO PREFER HONEST LIVELIHOOD

That which is left you by Allah is best for you, if ye (but) believed! But I am not set over you to keep watch!

(XI : 86) Y

### ۱۴۔ صفات المؤمنین الصادقین

----- وَأَصْلِحُوا ذَاتَ

بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ①

إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَّتِ

قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ

إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ②

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَهُمْ رِزْقُهُمْ يُنْفِقُونَ ③

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ

دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

كَرِيمٌ ④

(۸-۱۱۸)

الَّتَابِعُونَ الْعِبَادُونَ الْحَامِدُونَ السَّاجِدُونَ

الرَّكَعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ

اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ⑤

(۱۱۲ : ۹)

۱۵۔ الذین یأمرون بالمعروف

وینہون عن المنکر

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء

بعض یأمرون بالمعروف وینہون

عن المنکر ⑤

(۷۱ : ۹)

۱۶۔ والذین یکسبون مالا حلالاً

بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم

مؤمنین ⑥ وما انا علیکم بحفیظ ⑦

(۸۶ : ۱۱)

### ۱۴۔ سچے مومنوں کی خوبیاں

.... اور آپس میں صلح رکھو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو ① مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر جھوس کرکتے ہیں ② اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے دینک کاموں میں خرچ کرتے ہیں ③ سچے مومن ہیں اور ان کے لئے پروردگار کے ہاں (بڑے بڑے) درجے اور بخشش اور عتق کی کوئی کمی ہے ④

(۸ : ۱-۳)

توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نیک کاموں اور کئی بری باتوں سے منع کرنے والے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے یہی مومن لوگ ہیں اور اسی سبب مومنوں کو (پشت کی) خوشخبری سنائے۔

(۱۱۲ : ۹)

۱۵۔ جو اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری

باتوں سے روکتے ہیں

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے

دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری

باتوں سے منع کرتے....

(۶۱ : ۹)

۱۶۔ جو جائز آمدنی کو ہی بہتر سمجھتے ہیں

اگر تم کو (میرے کہنے کا) یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا

نفع ہی تمہارے لئے بہتر ہے اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔

(۸۶ : ۱۱)



### 17. WHO TAKE THINGS IN GOOD FAITH WITHOUT ASCRIBING EVIL MOTIVES

Why did not Believers men and women when ye heard of the affair, - put the best construction on it in their own minds and say, "This (charge) is an obvious lie?"

(XXIV : 12) Y

### 18. WHO DO NOT INDULGE IN FALSE ACCUSATION

16. -----Glory to Allah! this is a most serious slander! 17. Allah doth admonish you, that ye may never repeat such (conduct), if ye are (true) Believers.

(XXIV : 16-17) Y

### 19. WHO DO NOT FOLLOW SATAN'S FOOTSTEPS

O ye who believe! Follow not Satan's footsteps: If any will follow the footsteps of Satan, he will (but) command what is shameful and wrong.-----

(XXIV : 21) Y

### 20. WHO ARE UNLIKE THE WICKED AND THE REBELLIOUS

Is then the man who believes no better than the man who is rebellious and wicked? No equal are they.

(XXXII : 18) Y

### 21. WHOSE FAITH AND MORALE INCREASE AGAINST A STRONGER ENEMY

When the Believers saw the confederate forces they said, "This is what Allah and His Apostle had promised us, and Allah and His Apostle told us

### ۱۷- والذین یظنون بالمؤمنین خیراً

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۝

(۱۴ : ۲۴)

### ۱۸- والذین یجتنبون البهتان

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ۝  
يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا  
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

(۱۷-۱۶ : ۲۴)

### ۱۹- والذین لا یلتبعون خطوات الشیطان

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ  
الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ  
فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -----

(۲۱ : ۲۴)

### ۲۰- والذین یختلفون عن الفاسقین

اختلافاً تاماً

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا  
لَا يَسْتَوُونَ ۝

(۱۸ : ۲۲)

### ۲۱- والذین یزدادون ایماناً وھمة

عند رؤیتھم العدو والقوی

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا  
هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ

### ۱۷- جو بدگمانی کی بجائے حسن ظن سے

کام لیتے ہیں

جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا۔ اور دیکھیں نہ! کہا کہ یہ مرتع طوفان ہے۔

(۱۴ : ۲۴)

### ۱۸- جو جھوٹے الزام نہیں لگاتے

... (پروردگار) تو پاک ہے۔ یہ تو (بہت) بڑا بہتان ہے! اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو ہر کسی ایسا (کام) نہ کرنا ۝

(۱۷-۱۶ : ۲۴)

### ۱۹- جو شیطان کے قدموں پر نہیں چلتے

مومنو! شیطان کے قدموں پر نہ چلنا۔ اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی (کی باتیں) اور بُرے کام ہی بتائے گا....

(۲۱ : ۲۴)

### ۲۰- جو فاسق سے بالکل

مختلف ہیں

بلا جو مومن ہو وہ اُس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔

(۱۸ : ۲۲)

### ۲۱- طاقتور دشمن کو دیکھ کر جن کی قوت ایمان

میں اضافہ اور حوصلے بلند ہوتے ہیں

اور جب مومنوں نے (کافروں کے) لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہ ہی ہے جس کا اللہ اور اُس کے پیغمبر نے ہم سے

what was true". And it only added to their faith and their zeal in obedience.

(XXXIII : 22) Y

## 22. WHO CONSIDER THEMSELVES BOUND TO OBEY THE DECISIONS OF ALLAH AND HIS MESSENGER

It is not fitting for a Believer, man or woman, when a matter has been decided by Allah and His Apostle, to have any option about their decision.-----

(XXXIII : 36) Y

## 23. WHO SPEAK STRAIGHT AND TO THE POINT

O ye who believe! Fear Allah, and (always) say a word directed to the Right.

(XXXIII : 70) Y

## 24. WHO HATE WRANGLING

-----Grievous and odious (is such conduct) in the sight of Allah and of the Believers. Thus doth Allah seal up every heart—of arrogant and obstinate transgressors.

(XL : 35) Y

## 25. WHO OBEY ALLAH AND HIS MESSENGER

O ye who believe! Obey Allah and obey the Apostle, and make not vain your deeds!

(XLVII : 33) Y

## 26. WHO ARE NOT FRIENDLY WITH THOSE WHO HAVE EARNED ALLAH'S WRATH

O ye who believe! Turn not (for friendship) to people on whom is the Wrath of Allah. Of

اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا  
وَتَسْلِيمًا ○

(۲۲۱ : ۳۳)

۲۲۔ وَالَّذِينَ لَا يَرِيدُونَ لِنَفْسِهِمُ الْخَيْرَ  
إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا لَهُمُ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ  
مِنْ أَمْرِهِمْ -----

(۳۶ : ۳۳)

۲۳۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ قَوْلًا سَدِيدًا  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا ○

(۷۰ : ۳۳)

۲۴۔ وَالَّذِينَ لَا يَحِبُّونَ الْفُسَادَ

----- كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَ  
عِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ  
عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارًا ○

(۴۰ : ۳۵)

۲۵۔ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  
الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ○

(۳۳ : ۴۷)

۲۶۔ وَالَّذِينَ لَا يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ  
غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا  
غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ

و مددہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا اور  
اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔  
(۲۲۱ : ۳۳)

۲۲۔ جو اللہ تعالیٰ اور رسول کے مقرر کردہ  
امر میں اپنا کچھ اختیار نہیں سمجھتے  
اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے  
کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو  
وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں۔ ....

(۳۶ : ۳۳)

۲۳۔ جو سیدھی بات کہتے ہیں  
مومنو! اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی  
کہا کرو۔

(۷۰ : ۳۳)

۲۴۔ جو جھگڑے کو ناپسند کرتے ہیں  
..... اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا  
سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر کس کے  
دل پر مہر لگا دیتا ہے۔

(۴۰ : ۳۵)

۲۵۔ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد مانتے اور رسول  
کی فرمانبرداری کرتے ہیں  
مومنو! اللہ کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرمانبرداری  
کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو۔

(۳۳ : ۴۷)

۲۶۔ جو ان لوگوں سے جن پر اللہ تعالیٰ غصے  
ہوا ہے دوستی نہیں کرتے  
مومنو! ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ہے دوستی  
نہ کرو (کیونکہ) جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے

the Hereafter they are already in despair, just as the Unbelievers are in despair about those (buried) in graves.

(LX : 13) Y

### 27. WHO DO NOT SAY WHAT THEY DO NOT PRACTISE

O ye who believe! Why say ye that which ye do not?

(LXI : 2) Y

### 28. WHO DO NOT LET FAMILY TIES STAND IN THE WAY OF ALLAH

O ye believe! Truly among your wives and your children are (some that are) enemies to yourselves: So beware of them! But if ye forgive and overlook and cover up (their faults), verily Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

(LXIV : 14) Y

### 29. WHO REPENT SINCERELY

O ye who believe! Turn to Allah with sincere repentance: in the hope that your Lord will remove from you your ills.-----

(LXVI : 8) Y

### 30. WHO ARE SINCERE BELIEVERS

The (true) believers are those only who believe in Allah and His messenger and afterward doubt not, but strive with their wealth and then lives for the cause of Allah. Such are the sincere.

(XLIX : 15) P

كَمَا يَسُ الكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ  
الْقُبُورِ ○

(۱۳ : ۱۳)

### ۲۷۔ وَالَّذِينَ لَا يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا  
تَفْعَلُونَ ○

(۲ : ۲۱)

### ۲۸۔ وَالَّذِينَ لَا يَصُدُّوا عَنْ زُجَّاتِهِمْ

وَالْأَوْلَادِ عَنْ سَبِيلِ الدِّينِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
وَأَوْلَادِكُمْ عدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ  
وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

(۱۴ : ۱۴)

### ۲۹۔ وَالَّذِينَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ

تَوْبَةً نَصُوحًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً  
نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ  
سَيِّئَاتِكُمْ ----

(۸۱ : ۲۹)

### ۳۰۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقُونَ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ  
رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ  
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ  
الصَّادِقُونَ ○

(۱۵ : ۴۹)

کی امید نہیں اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت  
دے کے آنے کی امید نہیں۔

(۱۳ : ۱۳)

۲۷۔ جو ایسی بات نہیں کہتے جو کرتے نہیں

مومنو! تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا  
نہیں کرتے۔

(۲ : ۲۱)

۲۸۔ جو بیوی بچوں کی محبت کو دین کی

راہ میں حائل نہیں ہونے دیتے

مومنو! تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے  
دشمن بھی ہیں سو ان سے بچتے رہو اور اگر معاف  
کردو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی  
بخشنے والا مہربان ہے۔

(۱۴ : ۱۴)

۲۹۔ جو اللہ تعالیٰ کے آگے صاف دل سے

توبہ کرتے ہیں

مومنو! اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو  
امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور  
کر دے گا.....

(۸۱ : ۲۹)

۳۰۔ سچے مومن کون ہیں

مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول  
پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور  
اللہ کی راہ میں جان و مال سے لڑے۔ یہی  
لوگ (ایمان کے) سچے ہیں۔

(۱۵ : ۴۹)

It is not righteousness that ye turn your faces towards East or West; but it is righteousness—to believe in Allah and the Last Day, and the Angels, and the Book, and the Messengers; to spend of your substance, out of love for Him, for your kin, for orphans, for the needy, for the wayfarer, for those who ask, and for the ransom of slaves; to be steadfast in prayers, and practise regular charity; to fulfil the contracts which ye have made; and to be firm and patient, in pain (or suffering) and adversity, and throughout all periods, of panic. Such are the people of truth, the God-fearing.

(II : 177) Y

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ  
قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ  
الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى  
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَ  
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ  
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ  
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ  
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ○

(۱۷۷ : ۲)

نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر  
ان کی طرف منہ کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر  
اور فرشتوں پر اور (اللہ کی) کتاب پر اور پیغمبروں  
پر ایمان لائیں۔ اور مال باوجود عزیز رکھنے کے  
رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور  
مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں  
دکے چھڑانے میں (ذبح کریں) اور نماز پڑھیں اور  
زکوٰۃ دیں اور جب عہد کریں تو اس کو پورا کریں اور  
سنجی اور تکلیف میں اور (معرکہ) کا روزا کے وقت  
ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں  
سچے ہیں اور یہی ہیں جو (اللہ سے) ڈرنے  
والے ہیں۔

(۱۷۷ : ۲)

## FACTS OF LIFE

## 1. ALLAH BREATHED HIS SPIRIT INTO MAN AT THE TIME OF CREATION

7. Who made all things good which He created, and He began the creation of man from clay; 8. Then He made his seed from a draught of despised fluid; 9. Then He fashioned him and breathed into him of His spirit; and appointed for you hearing and sight and hearts. Small thanks give ye! 11. Say: The angel of death, who hath charge concerning you, will gather you, and afterward unto your Lord ye will be returned.

(XXXII : 7-9, 11) P

## حقائق الحیاة

۱۔ نفع اللہ من روحہ فی الانسان  
عند خلقہ

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ  
خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۗ  
ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝۸  
ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۗ وَ  
جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ  
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝۹  
قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ  
بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝۱۱

(۱۱، ۹-۷۱ ۳۲)

## حقائق زندگی

۱۔ آفرینش کے وقت اللہ تعالیٰ نے انسان  
میں اپنی روح پھونک دی تھی

جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا (یعنی) اسکو پیدا کیا۔  
اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا ۸۔ پھر اسکی نسل  
خلاصے سے (یعنی) حیرت پانی سے پیدا کی ۹۔ پھر اسکو درست  
کیا پھر اس میں اپنی (روح سے) پھونکی اور تمہارے کان اور  
آنکھیں اور دل بنائے (مگر) تم بہت کم شکر کرتے  
ہو ۱۱۔ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری  
روح میں قبض کر لیتا ہے پھر تم اپنے پڑوسگار کی طرف  
لٹائے جاؤ گے ۱۱

(۱۱، ۹-۷۱ ۳۲)

They ask thee concerning the Spirit (of inspiration). Say: "The Spirit (cometh) by command of my Lord: Of knowledge it is only a little that is communicated to you, (O man!)"

(XVII: 85) Y

## 2. WHAT IS THE PURPOSE OF CREATING LIFE AND DEATH

1. Blessed is He in Whose hand is the Sovereignty, and He is Able to do all things: 2. Who hath created life and death that He may try you, which of you is best in conduct; and He is the Mighty, the Forgiving.

(LXVII: 1-2) P

## 3. EVERY SOUL SHALL HAVE TO TASTE DEATH

Every soul shall have a taste of death: and We test you by evil and by good by way of trial: To Us must ye return.

(XXI: 35) Y

## 4. ALLAH IS NEARER TO MAN THAN HIS JUGULAR VEIN, AND TWO ANGELS RECORD HIS DOINGS

16. It was We Who created man, and We know what dark suggestions his soul makes to him: for We are nearer to him than (his) jugular vein. 17. Behold, two (guardian angels) appointed to learn (his doings) learn (and note them), one sitting on the right and one on the left. 18. Not a word does he utter but there is a sentinel by him, ready (to note it).

(L: 16-18) Y

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

(۸۵: ۱۷)

## ۲- ما مقصد الحیاء والموت

تَبْرَكَ الَّذِي يَدِيَهِ الْمَلَكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①  
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ  
أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ②

(۲-۱۶۷)

## ۳- كل نفس ذائقة الموت

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ  
بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ①

(۳۵: ۲۱)

## ۴- الله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ  
نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ①  
إِذْ يَتَلَفَّى السَّمَلَقِيُّ الْمُتَلَقِّينَ ② عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ  
الشَّمَالِ قَاعِيدٌ ③  
مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ  
عَتِيدٌ ④

(۱۸-۱۶: ۵۰)

اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کی ایٹان ہے اور تم لوگوں کو (بہت ہی) کم علم دیا گیا ہے۔

(۸۵: ۱۶)

## ۲- زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے

وہ (اللہ) جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور  
اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ① اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ  
تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ  
زبردست (اور) بخشنے والا ہے ②

(۲-۱۶۷)

## ۳- ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا

ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سعی اور سونگ  
میں آزمائش کے طور پر متنا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔

(۳۵: ۲۱)

## ۴- اللہ انسان کی شہ رگ سے بھی قریب ہے اور دو فرشتے اس کا ہر کام لکھ لیتے ہیں

اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے  
دل میں گزرتے ہیں ہم انکو جانتے ہیں اور ہم اس کی رگ مان  
سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں ① جب (وہ کوئی کام کرتا ہے)  
دو لکھنے والے جو دائیں بائیں ہاتھ میں لکھتے ہیں ② کوئی بات  
اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک گھبان اس کے پاس تیار  
رہتا ہے ④

(۱۸-۱۶: ۵۰)

### 5. DECLARE FAITH IN ALLAH BEFORE DEATH

Answer the call of your Lord before there cometh unto you from Allah a Day which there is no averting. Ye have no refuge on that Day, nor have ye any (power of) refusal.

(XLII : 47) P

### 6. MERE SAYING "WE BELIEVE" IS NOT SUFFICIENT

2. Do men think that they will be left alone on saying, "We believe," and that they will not be tested? 3. We did test those before them, and Allah will certainly know those who are true from those who are false.

(XXIX: 2-3) Y

### 7. COMPARISON BETWEEN THOSE DESIRING "THIS WORLD" AND THOSE DESIRING "HEREAFTER"

18. Whoso desireth that (life) which hasteneth away, We hasten for him therein that We will for whom We please. And afterward We have appointed for him hell; he will endure the heat thereof, condemned rejected. 19. And whoso desireth the Hereafter and striveth for it with the effort necessary, being a believer, for such, their effort findeth favour (with their Lord).

(XVII : 18-19) P

### 8. WEALTH AND CHILDREN ARE AN ORNAMENT OF THIS LIFE

Wealth and children are an ornament of life of the world. But the good deeds which endure are better in thy Lord's right for reward, and better in respect of hope.

(XVIII : 46) P

### ۵۔ لیومن الإنسان قبل الموت

اِسْتَجِیْبُوا لِرَبِّکُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ یَّآتِیَکُمْ یَوْمًا مَّرَدًّا ۗ مِّنْ اِلٰهِ مَا لَکُمْ مِّنْ مَّجَآئِیْمٍ ۙ وَ مَا لَکُمْ مِّنْ تَکْوِیْنٍ ۝

(۴۷: ۴۲)

### ۶۔ لایکفی ان یقول الإنسان امنت

بِاللّٰهِ ۙ اَحْسِبَ النَّاسَ اَنْ یُّرَکَّوْا اَنْ یَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا یَفْتَنُوْنَ ۙ ۝۲  
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ فَلَیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۙ ۝۳

(۳-۲: ۲۹)

### ۷۔ ما الفرق بین من یرید الحیاة الدنیا ومن یرید الحیاة الآخرة

مَنْ كَانَ یُرِیْدُ الْعٰجِلَةَ جَعَلْنَا لَهٗ فِیْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِیْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۙ یَصْلٰہَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۝۱۸  
وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰی لَهَا سَعِیًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعِیُهُمْ مَّشْكُوْرًا ۝۱۹

(۱۹-۱۸: ۱۷)

### ۸۔ انما الاموال والاولاد زینة الحیاة الدنیا

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِیْنَةُ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ۙ وَالْبَقِیٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ۙ ثَوَابًا وَّ خَیْرًا مَّلًا ۝

(۴۶: ۱۸)

### ۵۔ موت سے پہلے ایمان لانا چاہئے

اُن سے کہہ کر قبل اس کے کہ وہ دن جوڑے گا نہیں اللہ کی عیبت سے امر جوڑے ہوئے پروردگار کا حکم قبول کرو اُس دن تمہارے لئے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور تم سے گنہگاروں کا انکار ہی بن پڑے گا۔

(۴۷: ۴۲)

### ۶۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ایمان لے آئے کافی نہیں ہے

کیا لوگ یہ خیال کئے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے جوڑے جائیے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمایا ہے (سوائے ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں) سچے ہیں اور ان کو بھی جو جوڑے گئے ہیں

(۳-۲: ۲۹)

### ۷۔ دنیا اور آخرت کی خواہش کرنے والوں میں کیا فرق ہے

جو شخص دنیا کی آسویں کاغذ ہنسنے ہو تو ہم اس سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں بدلے دیتے ہیں۔ پر اس کے لئے جہنم کو دیکھنا مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نغزین سُن کر اور (دو گنا لہ سے) بداندہ ہو کر داخل ہوگا ۝۱۸ اور جو شخص آخرت کا نواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اُسے لائق ہے اور وہ یقین ہی ہو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے

(۱۹-۱۸: ۱۶)

### ۸۔ مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں

مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی (درون) زینت ہیں اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔

(۴۶: ۱۸)

Know that the life of this world is only play, and idle talk, and pageantry, and boasting among you, and rivalry in respect of wealth and children as the likeness of vegetation after rain, where of the growth is pleasing to the husbandman, but afterwards it drieth up and thou seest it turning yellow, then it becometh straw. And in the Hereafter there is grievous punishment, and (also) forgiveness from Allah and His good pleasure, whereas the life of the world is but matter of illusion.

(LVII : 20) P

### 9. REALITY OF WORLDLY LIFE

14. Beautified for mankind is love of the joys (that come) from women and offspring, and stored-up heaps of gold and silver, and horses branded (with their mark) and cattle and land. That is comfort of the life of the world. Allah! With Him is a more excellent abode. 15. Say: Shall I inform you of something better than that? For those who help from evil, with their Lord, are Gardens underneath which rivers flow and pure companions, and contentment from Allah. Allah is Seer of His bondmen.

(III : 14-15) P

15. Those who desire the life of the present and its glitter, - to them We shall pay (the price of) their deeds therein, - without diminution. 16. They are those for whom there is nothing in the Hereafter but the Fire: Vain are the designs they frame therein, and of no effect are the deeds that they do!

(XI : 15-16) Y

اعلموا انما الحیوة الدنیا لعب و لهو  
وزینة و تفالخر بینکم و تکاشرفی  
الاموال و الاولاد کمثل غیث اعجب  
الکفار نباته ثم یرھیج فتریه مصفرا  
ثم یرکون حطاما و فی الاخرة عذاب  
شدید و مغفرة من الله و رضوان  
و ما الحیوة الدنیا الا متاع الغرور

(۲۰ : ۱۵۷)

۹۔ ما حقیقة الحیة الدنیا  
زین للناس حب الشهوات  
من النساء و البنین و القناطیر  
المقنطرة من الذهب و الفضة  
و الخیل المسومة و الانعام  
و الحزب ذلك متاع الحیوة الدنیا  
و الله عندا حسن المآب ۱۴  
قل اؤنبکم بخیر من ذلكم  
للذین اتقوا عند ربهم  
جنت تجری من تحتها الاهر  
خلیدین فیها و ازواج مطهرة  
و رضوان من الله و الله بصیر  
بالعباد ۱۵

(۱۵-۱۴ : ۱۱)

من کان یرید الحیوة الدنیا و  
زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها  
و هم فیها لا ینقصون ۱۵  
اولئک الذین لیس لهم فی الاخرة  
الا النار و حیط ما صنعوا فیها  
و بطل ما كانوا یعملون ۱۶

(۱۹-۱۵ : ۱۱)

جان کھر دنیای زندگی محض کھیل اور تماشہ اور زینت (و آرائش) اور  
تہارے آپس میں فخر و ستائش، اولاد اور اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ  
طلب (و خواہش) ہے (اسکی مثال ایسی ہے) جیسے بارش کر کے  
کھیتی آتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی مکتی ہے پھر وہ خوب زور پڑاتی ہے  
پھر رائے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ دیکھ کر زور پڑ جاتی ہے پھر  
پھوپھوڑا ہو جاتی ہے اور آخرت میں (کافروں کیلئے) عذاب شدید اور دوزخ  
کیلئے (اللہ کی طرف سے) بخشش اور خوشنودی جلد دنیای زندگی تمام فریب ہے۔

(۲۰ : ۵۶)

۹۔ دنیوی زندگی کی حقیقت کیا ہے  
لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی سررتیں  
اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے  
ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور  
کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں (مگر) یہ سب  
دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں۔ اور اللہ کے  
پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے ۱۴ (لئے پیغمبران سے)  
کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے  
کہیں اچھی ہو۔ (سنو) جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کیلئے اللہ کے  
ہاں باغات (بہشت) ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں  
ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ عورتیں ہیں۔ اور  
(سب بڑھ کر) اللہ کی خوشنودی۔ اور اللہ (اپنے  
نیک) بندوں کو دیکھ رہا ہے ۱۵

(۱۵-۱۴ : ۳)

جو لوگ دنیای زندگی اور اس کی زیب و زینت کے  
طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے  
دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تعالیٰ نہیں کی جاتی ۱۵  
یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں آتش دہم کے  
سوا اور کچھ نہیں اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کئے  
سب برباد اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا ۱۶

(۱۹-۱۵ : ۱۱)

Allah gives abundantly and sparingly to whom He pleases. Those who disbelieve rejoice in this life: but brief indeed is the comfort of this life compared to the life to come.

(XIII : 26) Z

The life of this world is but a sport and a pastime. Surely better is the life to come for those who are righteous. Will you not understand?

(VI : 32) Z

### 10. HOW DO PROFIT, LOSS AND MISFORTUNE ACCRUE TO MAN

Whatever good, (O man!) happens to thee, is from Allah; but whatever evil happens to thee is from thy (own) soul. And We have sent thee as an Apostle to (instruct) mankind:-----

(IV : 79) Y

Whatever misfortune happens to you, is because of the things your hands have wrought, and for many (of them) He grants forgiveness.

(XLII : 30) Y

### 11. WHEN IN TROUBLE MAN ENTREATS ALLAH FOR HELP BUT WHEN FORTUNE SMILES ON HIM HE GIVES THE CREDIT TO HIMSELF

Now, when trouble touches man, he cries to Us; but when We bestow a favour upon him as from Ourselves, he says, "This has been given to me because of certain knowledge (I have)!" Nay, but this is but a trial, but most of them understand not!

(XXXIX : 49) Y

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ  
وَفِرْحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ  
الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝

(۲۶ : ۱۳)

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهْوَةٌ  
وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ  
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

(۳۲ : ۶)

### ۱۰۔ کیف تصیب الإنسان حنة وسیئة

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا  
أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ  
لِلنَّاسِ رَسُولًا ۝-----

(۷۹ : ۴)

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ  
أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۝

(۳۰ : ۴۲)

### ۱۱۔ یذکر الإنسان اللہ عند الشدائد ولکن اذا أنعم اللہ علیہ یقول هذا من عندی

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ  
إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا  
أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلِ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِن  
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

(۴۹ : ۳۹)

اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کا  
چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور کافروں کی دنیا کی زندگی پر غور ہو ہے  
ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت (کے مقابلے میں) بہت (تمو) فائدہ ہے۔

(۲۶ : ۱۳)

اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے اور بہت اچھا  
گھر تو آخرت کا گھر ہے (یعنی، اُن کے لئے جو اللہ سے)  
ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں۔

(۳۲ : ۶)

### ۱۰۔ انسان کو فائدہ یا نقصان اور مصیبت کیسے آتی ہے۔

(اے آدم زاد) تم کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور  
جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی (شامت) اعمال کی وجہ سے ہے اور  
(اے محمد) ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کیلئے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔۔۔

(۷۹ : ۴)

اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں  
سے اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے۔

(۳۰ : ۴۲)

### ۱۱۔ انسان تکلیف میں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور نعمت ملے تو اسے اپنے کھاتے میں ڈال لیتا ہے

جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو میں پکارنے لگتا ہے پھر  
جب اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ  
یہ تو مجھے (میرے) علم (دانش) کے سبب ملی ہے (نہیں)  
بلکہ وہ (دانش) ہے مگر اُن میں سے اکثر نہیں جانتے۔

(۴۹ : ۳۹)



### 12. MAN WILL GET IN PROPORTION TO HIS EFFORT (WHAT HE WORKS FOR)

39. And that man has only that for which he maketh effort. 40. And that his effort will be seen. 41. And afterward he will be repaid for it with fullest payment;

(LIII : 39-41) P

### 13. DO NOT COVET OTHERS' POSITION

And covet not the thing in which Allah hath made some of you excel others.-----

(IV : 32) P

### 14. ALLAH GRANTS WISDOM TO WHOM HE PLEASES

He granteth wisdom to whom He pleaseth; and he to whom wisdom is granted receiveth indeed a benefit overflowing;-----

(II : 269) Y

### 15. ALL REVERENCE IS FOR ALLAH AND HE EXALTS WHOM HE PLEASES

Whoso desireth power (should know that) all power belongeth to Allah. Unto Him good words ascend, and the pious deed doth He exalt; but those who plot iniquities, there will be an awful doom;-----

(XXXV : 10) P

### 16. OVER EVERY KNOWER THERE IS YET ANOTHER KNOWER

-----We raise by grades (of mercy) whom We will, and over every lord of knowledge there is one more knowing.

(XII : 76) P

### ۱۲- لیس للانسان الا ما سعى

وَ اَنْ لَيْسَ لِلانْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

وَ اَنْ سَعِيَّهٖ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾

ثُمَّ يُجْزٰٓءُهٗ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰٓى ﴿٤١﴾

(۵۳ : ۳۹-۴۱)

### ۱۳- لا تتخذوا على ما فضل الله

به بعضكم على بعض

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ

(۴ : ۳۲)

### ۱۴- يعطى الله الحكمة

من يشاء

يُوۡتِي الْحِكْمَةَ مَنۢ يَّشَآءُ ۗ وَمَنۢ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوۡتِيَ خَيْرًا كَثِيۡرًا ۗ

(۲ : ۲۶۹)

### ۱۵- ان العزة لله ويعطيها

من يشاء

مَنۢ كَانَ يُرِيۡدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيۡعًا ۗ اِلَيْهٖ يَصۡعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ۗ وَالَّذِيۡنَ يَمۡكُرُوۡنَ السَّيِّئٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌ ۗ

(۱۰ : ۲۵)

### ۱۶- فوق كل ذي علم عليم

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ

مَّنۢ نَّشَآءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيۡ عِلۡمٍ عَلِيۡمٌ ۝

(۷۶ : ۱۲)

### ۱۲- انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ

کوشش کرتا ہے

اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے ﴿۳۹﴾ اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی ﴿۴۰﴾ پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ﴿۴۱﴾

(۵۳ : ۳۹-۴۱)

### ۱۳- دوسروں کی فضیلت پر

حسد مت کرو

اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو....

(۴ : ۳۲)

### ۱۴- اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے

دانائی بخش دیتا ہے

وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی ہے شک اس کو بڑی نعمت ملی.....

(۲ : ۲۶۹)

### ۱۵- عزت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور

وہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے

جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے۔ اسی کی طرف پاکیزہ کلمات پڑھتے ہیں اور نیک عمل اُن کو بلند کرتے ہیں اور جو لوگ بُرے بُرے مکر کرتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے....

(۱۰ : ۲۵)

### ۱۶- ہر صاحب علم سے بالاتر ایک اور علم والا ہے

... ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔

(۷۶ : ۱۲)

### 17. ALLAH PUTS MAN ON TRIAL THROUGH ADVERSITY AND PROSPERITY

Every soul must taste of death, and We try you with evil and with good, for ordeal. And unto Us you will be returned.

(XXI : 35) P

It is He Who hath made you (His) agents, inheritors of the earth. He hath raised you in ranks, some above others, that He may try you in the gifts He hath given you-----

(VI : 166) Y

And know that your possessions and your children are a test, and that with Allah is immense reward.

(VIII : 28) P

### 18. MAN IS TESTED WITH FEAR, HUNGER OR LOSS OF LIVES, WEALTH AND CROPS

And surely We shall try you with something of fear and hunger, and loss of wealth and lives and crops; but give glad tidings to the steadfast.

(II : 155) P

### 19. WHAT TO DO WHEN ON TRIAL BY ALLAH

156. Who say, when a misfortune striketh them: Lo! we are Allah's and lo! unto Him we are returning. 157. Such are they on whom are blessings from their Lord, and mercy. Such are the rightly guided.

(II : 156-157) P

### ۱۷- یبلو الله الانسان بالشر والخیر فتنه

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُمُ بِالْأَشْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۳۵﴾

(۲۱ : ۳۵)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ

(۱۶۶ : ۶)

وَأَعْلَمُوا أَنَّ مَا أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۲۸﴾

(۸ : ۲۸)

### ۱۸- یبلو الله الانسان بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات

وَلَنَبَلُّوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۵﴾

(۲ : ۱۵۵)

### ۱۹- ماذا یجب علی الانسان ان یفعل فی حالة البلاء من الله

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۱۵۶﴾  
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿۱۵۷﴾

(۲ : ۱۵۶-۱۵۷)

### ۱۷- الله تعالی انسان کو برے اور اچھے حالات میں ڈال کر اس کی آزمائش کرتا ہے

ہر نفس کو موت کا ذوق چکھنا ہے اور ہم تم کو برے اور اچھے حالتوں میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔

(۲۱ : ۳۵)

اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک دوسرے پر جسے بلند کئے تاکہ جو کچھ اُس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔

(۶ : ۱۶۶)

اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس (نیکیوں کا) بڑا ثواب ہے۔

(۸ : ۲۸)

### ۱۸- الله تعالی انسان کی خوف بھوک مال جان اور فصل کے نقصان سے آزمائش کرتا ہے

اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کریں اور اللہ کی خوشخبری کی بشارت سنا دو۔

(۲ : ۱۵۵)

### ۱۹- انسان کو اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش (یعنی مصیبت) کی صورت میں کیا کرنا چاہیے

ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ﴿۱۵۶﴾ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی

سیدھے رستے پر ہیں ﴿۱۵۷﴾

(۲ : ۱۵۶-۱۵۷)

## 20. DESIRE FOR WORLDLY INCREASE MAKES ONE NEGLECTFUL OF VIRTUOUS LIFE

1. Rivalry, in worldly increase distracteth you, 2. Until ye come to the graves.

(CH : 1-2) P

## 21. HONESTLY EARNED LIVELIHOOD IS BETTER AND MORE ENDURING THAN ACCUMULATION OF WORLDLY RICHES

Nor strain thine eyes in longing for the things We have given for enjoyment to parties of them, the splendour of the life of this world, through which We test them: But the provision of thy Lord is better and more enduring.

(XX : 131) Y

## 22. ALLAH GIVES RESPITE TO MAN TO MEND HIS WAYS

If Allah were to punish men for their wrong-doing, He would not leave, on the (earth), a single living creature: But He gives them respite for a stated Term: When their Term expires they would not be able to delay (the punishment) for a single hour, just as they would not be able to anticipate it (for a single hour).

(XVI : 61) Y

44. Then leave Me alone with such as reject this Message: by degrees shall We punish them from directions they perceive not. 45. A (long) respite will I grant them: Truly powerful is My Plan.

(LXVIII : 44-45) Y

## ۲۰۔ یجعل طلب المال الإنسان

غافلاً من عبادة ربه

ألهكم التكاثر ①

حتى زرتهم المقابر ②

(۲-۱: ۱۰۲)

## ۲۱۔ الرزق الحلال خیر

وأبقى من زينة الدنيا

وزخارفها

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ  
أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

(۱۳۱ : ۲۰)

## ۲۲۔ يسهل الله الانسان في

غيبه رويدا

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ  
مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَا كُنْ  
لِيُؤَخِّرَهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا  
جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً  
وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ①

(۶۱ : ۱۶)

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ  
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ②  
وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ③

(۴۵-۴۴ : ۶۸)

## ۲۰۔ بہت مال کی طلب تو انسان کو غافل کر دیتی ہے

دو گویا تم کو دمال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا ①

یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں ②

(۲-۱ : ۱۰۲)

## ۲۱۔ دنیوی زندگی کی آرائش کی چیزوں

سے رزق حلال بہت بہتر اور

باقی رہنے والا ہے

اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی (زندگی میں) آرائش کی  
چیزوں سے بہرہ من کیا ہے تاکہ ان کی آرائش کریں ان پر نگاہ نہ کرنا اور  
تہہ پڑھو گا کہ (مطالعہ فرمائی ہوئی) سوزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے

(۱۳۱ : ۲۰)

## ۲۲۔ اللہ تعالیٰ انسان کی رسی دراز کر کے

مہلت دیتا ہے

اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب  
پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے لیکن  
ان کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دے جاتا ہے  
جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ  
سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

(۶۱ : ۱۶)

تو جو کس کلام کے جملانے والوں سے بچنے دو ہم ان کو آہستہ آہستہ  
ایسے طریق سے پکڑنے لگے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی ① اور میں  
ان کو مہلت دے جاتا ہوں میری تدبیر قوی ہے ②

(۴۵-۴۴ : ۶۸)

23. ALLAH DOES NOT PLACE  
A BURDEN ON ANYBODY  
GREATER THAN ONE CAN  
BEAR

Allah does not charge a soul with more than it can bear. It shall be requited for whatever good and whatever evil it has done.-----

(II : 286) Z

We charge no soul with more than it can bear. We have a Book which speaks the truth: none shall be wronged.

(XXIII : 62) Z

24. HEAVENS AND EARTH  
HAVE BEEN SUBJECTED TO  
MANKIND

Do you not see how Allah has subjected to you all that the heavens and the earth contain and lavished on you both His visible and unseen favours? Yet some would argue about Allah without knowledge or guidance or illuminating Scripture.

(XXXI : 20) Z

25. ALLAH GIVES CHILDREN  
OR NONE AT ALL TO WHOM  
HE WILL

49. -----He creates what He will. He gives daughters to whom He will and sons to whom He pleases. 50. To some He gives both sons and daughters, and to others He gives none at all. Mighty is Allah and All-knowing.

(XLII : 49-50) Z

۲۳- لا یكلف الله نفسا إلا  
وسعها

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا  
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

(۲۸۶ : ۲)

وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا  
كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(۶۲ : ۲۳)

۲۴- سخر الله للإنسان ما في السموات  
والأرض

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ  
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ  
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمَنْ النَّاسُ مِنْ  
مُجَادِلٍ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا  
كِتَابٍ مُنِيرٍ

(۴۰ : ۳۱)

۲۵- يرزق الله من يشاء الأولاد  
أو يجعله عقيما

يَخْلُقُ  
مَا يَشَاءُ يُهَبِّبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَ  
يُهَبِّبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوْرَ ۗ  
أَوْ يَزْوِجُكُمْ ذَكَرًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ  
مَنْ يَشَاءُ عَاقِمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ  
قَدِيرٌ

(۵۰-۴۹ : ۴۲)

۲۳- اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اُس کی طاقت  
سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا

اللہ کسی شخص کو اس طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا چھ کام کرنا تو اسکو  
انکا فائدہ دیکھ کر بڑے کرنا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا.....

(۲۸۶ : ۲)

اور ہم کسی شخص کو اس طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے  
پاس کتاب ہے جو سچ کہتی ہے اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائیگا۔

(۶۲ : ۲۳)

۲۴- اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں ہر چیز  
کو انسان کے قابو میں کر دیا

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں  
ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر ظاہری  
اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے  
ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں نہ علم رکھتے ہیں  
اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔

(۴۰ : ۳۱)

۲۵- اللہ جس کو چاہے اولاد عطا فرماتا یا  
بے اولاد رکھتا ہے

..... وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے  
بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے ④  
یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے اور  
جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ تو جاننے والا  
(اور) قدرت والا ہے ⑤

(۵۰-۴۹ : ۴۲)

26. ALLAH WILL DIVIDE ALL PEOPLE INTO RANKS ACCORDING TO THEIR DEEDS

For all there will be ranks from what they did. Thy Lord is not unaware of what they do.

(VI: 133) P

And for all there will be ranks from what they do that He may pay them for their deeds! and they will not be wronged.

(XLVI: 19) P

27. ON RESURRECTION MAN WOULD THINK HE HAD STAYED IN THIS WORLD FOR A FEW HOURS

The day (will come) when He will gather them again, as though they had stayed (in this world) but an hour of the day. They will recognize one another. Lost are those that disbelieve in meeting their Lord and do not follow the right path.

(X: 45) Z

28. ALLAH IS NEVER UNJUST

Not by the smallest ant's weight will Allah wrong (any man). He that does a good deed shall be repaid twofold. Allah will bestow on him a rich recompense.

(IV: 40) Z

29. IT IS POSSIBLE THAT MAN MAY DISLIKE A THING WHICH IS GOOD FOR HIM AND LOVE A THING WHICH IS BAD FOR HIM

-----but it may happen that ye hate a thing which is good

۲۶۔ یجعل اللہ لكل انسان درجات حسب أعماله

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَ مَا رَبُّكَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيَعْمَلُونَ

(۱۳۳: ۶)

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(۱۹۱: ۲۹)

۲۷۔ يظن الانسان عند بعثه كانه لبث في الدنيا ساعة

وَيَوْمَ يُجْتَرَهُمْ كَانُ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ تَتَّعَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

(۴۵: ۱۰)

۲۸۔ لا يظلم الله أحدا مثقال ذرة

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

(۴۰: ۴)

۲۹۔ من السکن أن یكون

ما یکرهه الإنسان خیرا له وما یحبہ شرالہ  
----- وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى

۲۶۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے مقرر فرماوے گا

اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے (مقرر ہیں اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔

(۱۳۳: ۶)

اور لوگوں نے جو کام کئے ہیں ان کے مطابق سب درجے ہو گئے (غرض یہ) کہ انکو اپنے اعمال کا پورا بدلہ ملے اور انکا نقصان نہ کیا جائے۔

(۱۹۱: ۲۹)

۲۷۔ دوبارہ زندہ ہونے پر انسان خیال کرے گا کہ دنیا میں تو گھڑی بھر ہی رہا تھا

اور جس دن اللہ انکو جمع کرے گا (تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کرے گا) گویا (وہاں) گھڑی بھر ہی رہا ہے۔ یہ تو وہی ہے جسے (اور آپس میں ایک دوسرے کو شہادت بھی دینگے) جن لوگوں نے اللہ کے روبرو مانع ہونے کو چھلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہ یاب نہ ہوئے۔

(۴۵: ۱۰)

۲۸۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا

اللہ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا۔ اگر نیک (کی) ہوگی تو اس کو دو چندان کر دے گا۔ اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشنے گا۔

(۴۰: ۴)

۲۹۔ عین ممکن ہے کہ انسان کو بری لگنے والی

چیز اس کے لئے اچھی اور اچھی لگنے والی اس کے لئے بری ہو

.... مگر جب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو۔ اور جب نہیں کہ

for you, and it may happen that ye love a thing which is bad for you, Allah knoweth, ye know not.

(II : 216) P

### 30. BELIEVERS SHOULD ALSO SEEK THE MEANS OF APPROACH UNTO ALLAH

O ye who believe! Do your duty to Allah, seek the means of approach unto Him, and strive with might and main in His cause: that ye may prosper.

(V : 35) Y

### 31. UNINTENTIONAL ERRORS WILL NOT BE ACCOUNTABLE

-----And there is no sin for you in the mistakes that ye make unintentionally, but what your hearts purpose (that will be a sin for you). Allah is Forgiving, Merciful.

(XXXIII : 5) P

### 32. ALLAH HASTENS TO FULFIL THE DESIRE OF THOSE WHO WANT WORLDLY LIFE ONLY BEFORE APPOINTING HELL AS THEIR LAST ABODE

If any do wish for the transitory things (of this life), We readily grant them—such things as We will, to such persons as We will: in the end have We provided Hell for them: they will burn therein, disgraced and rejected.

(XVII : 18) Y

أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ  
لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ  
لَا تَعْلَمُونَ ○

(۲۱۶ : ۲)

۳۰۔ یجب علی المؤمنین ابتغاء  
الوسيلة إليه

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا  
إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

(۳۵ : ۵)

۳۱۔ لا يؤاخذكم الله فيما  
اخطأتم به

----- وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ  
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ○

(۵ : ۳۳)

۳۲۔ من لا يريد إلا السعادة الدنيوية  
يعجل الله له ما يشتهى ثم يجعل  
جنهم مصيرًا

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ جَعَلْنَا لَهُ  
فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا  
لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ○

(۱۸ : ۱۷)

ایک چیز تم کو پسند آئے اور وہ تمہارے لئے مضر ہو اور دان  
بتوں کو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

(۲۱۶ : ۲)

۳۰۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے  
کا وسیلہ بھی تلاش کرنا چاہیے

اسے ایمان والوں! اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا  
قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو اور اس کے  
رستے میں جہاد کرو تاکہ درستگاری پاؤ۔

(۳۵ : ۵)

۳۱۔ مجہول چوک سے غلطی سرزد ہونے پر  
مواخذہ نہیں کیا جائے گا

۔۔۔ اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی جو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں لیکن جو  
قصہ دہی سے کرو (اس پر مواخذہ ہے) اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(۵ : ۳۳)

۳۲۔ اللہ تعالیٰ صرف دنیا کی آسودگی مانگنے  
والوں کی خواہش کو جلد پورا کر کے ان کا  
ٹھکانہ جہنم مقرر فرمادیتا ہے

جو شخص دنیا کی آسودگی، کا خواہش مند ہو تو ہم اس سے جسے چاہتے ہیں اور  
جتنا چاہتے ہیں جلد دیتے ہیں پھر اس کیلئے جہنم کو ٹھکانا، مقرر کر  
رکھتے ہیں اور ان کو اس میں (دراگاہ اللہ) زندہ ہو کر داخل ہوگا۔

(۱۸ : ۱۷)

33. ALLAH WILL GRANT SUCCESS TO BELIEVERS WHO DESIRE THE HEREAFTER AND MAKE NECESSARY EFFORTS

Those who do wish for the (things of) the Hereafter, and strive therefore with all due striving, and have Faith, - they are the ones whose striving is acceptable (to Allah).

(XVII : 19) Y

34. ALLAH ASSIGNED MAN EYES, LIPS AND TONGUE AND SHOWED HIM THE WAY TO BOTH GOOD AND EVIL

8. Have We not given him two eyes, 9. A tongue, and two lips, 10. And shown him the two highways (of good and evil)?

(XC : 8-10) Z

35. DEATH WILL OVERTAKE MAN ANYWHERE (EVEN IN SPACE OR DEEP WATER)

"Wherever ye are, Death will find you out, even if ye are in towers built up strong and high"-----

(IV : 78) Y

۳۳۔ من اراد وطلب الآخرة  
من المؤمنین يعطيه الله فلاحا

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ  
مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝

(۱۹ : ۱۷)

۳۴۔ اعطى الله الإنسان اللسان  
والشفيتين وهداهما النجدين

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝

(۱۰-۸ : ۹۰)

۳۵۔ كل نفس ذائقة الموت  
(سوار في الفضاء أم في البحر)

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ  
فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۝

(۷۸ : ۴)

۳۳۔ آخرت کے لئے خواہش اور مناسب کوشش  
کرنے والے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمایا گا

اور شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اپنی کوشش کرے، متنی اُسے  
لائی ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش مشکور لگتی ہے۔

(۱۹ : ۱۷)

۳۴۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیکھیں زبان اور

ہونٹ دے کر خیر و شر کے دونوں راستے دکھائے

بجلا ہم نے اُس کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ ۸ اور زبان اور دو ہونٹ

(نہیں دیئے) ۹ (دو چیزیں بھی دیں) اور اُس کو (خیر و شر کے)

دونوں راستے بھی دکھا دیئے ۱۰

(۱۰-۸ : ۹۰)

۳۵۔ موت تو انسان کو ہر جگہ آئے گی (چاہے

خلا میں یا گہرے پانی ہی میں کیوں نہ ہو)

تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں ہی تم کو موت آدباوے گی

اگرچہ تم قلعی چوٹیا کے قلعوں ہی میں ہو۔۔۔۔۔ ۲-۱-ع

(۷۸ : ۴)

## MATRIMONIAL LAWS AND INJUNCTIONS ON VEILING

### MUSLIM MALE AND FEMALE

#### 1. CREATION OF WOMAN

And of His signs is this: He created for you helpmates from yourselves that ye might find rest in them, and He ordained between you love and mercy. Lo, herein indeed are portents for folk who reflect.

(XXX : 21) P

#### 2. RIGHTS OF MEN AND WOMEN

---- And they (women) have rights similar to those (of men) over them in kindness,-----

(II : 228) P

---- (and He saith): Lo! I suffer not the work of any worker, male or female, to be lost. Ye proceed one from another.----- (III : 195) P

#### 3. MEN HAVE A STATUS ABOVE WOMEN

---- although men have a status above women. Allah is Mighty and Wise.

(II : 228) Z

## القوانين الزوجية وأحكام الحجاب

### المسلم والسلمة

#### ۱- خلق المرأة

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

(۲۱ : ۳۰)

#### ۲- حقوق الرجل والمرأة

وَلَهُنَّ مِثْلُ  
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللرِّجَالِ

(۲۲۸ : ۲)

أَنْتِ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ  
مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ○

(۱۹۵ : ۳)

#### ۳- للرجال درجة على النساء واللرجال

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ ○

(۲۲۸ : ۲)

## عائلي قوانین و پردہ کے احکام

### مسلمان مرد اور عورت

#### ۱- عورت کا پیدا کیا جانا

اور اسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ اس نے تیار  
لئے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں اگر انکی طرف (مائل ہو کر)  
آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی کر دو۔ جو لوگ غور  
کرتے ہیں ان کیسے ان باتوں میں (بہت سی نشانیاں ہیں

(۲۱ : ۳۰)

#### ۲- مرد اور عورت کے حقوق

... اور عورتوں کا حق (مردوں پر) ویسا ہی ہے جیسے ستور  
کے مطابق (مردوں کا حق) عورتوں پر ہے ....

(۲۲۸ : ۲)

... (اور فرمایا) کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد  
جو یا عورت ضائع نہیں کرتا تم ایک دوسرے کی جنس ہو

(۱۹۵ : ۳)

#### ۳- مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے

... البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ اور اللہ غالب  
(اور) صاحبِ مکت ہے۔

(۲۲۸ : ۲)



And before thee also the apostles We sent were but men, to whom We granted inspiration. If ye realise this not, ask of those who possess the Message

(XVI 43) Y

Your women are a tilth for you (to cultivate) so go to your tilth as ye will, and send (good deeds) before you for your souls, and fear Allah, and know that ye will (one day) meet Him. Give glad tidings to believers, (O Muhammad!).

(II 223) P

#### 4. WHY MEN HAVE A STATUS ABOVE WOMEN

Men are incharge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other, and because they spend of their property (for the support of women). So good women are the obedient, guarding in secret that which Allah hath guarded-----

(IV 34) P

And covet not the thing in which Allah hath made some of you excel others. Unto men a fortune from that which they have earned, and unto women a fortune from that which they have earned. (Envy not one another) but ask Allah of His bounty. Lo! Allah is ever knower of all things.

(IV 32) P

#### 5. WOMEN SHOULD NOT BE CONSIDERED AS AN INHERITED PROPERTY

O ye who believe! It is not lawful for you forcibly to inherit the women (of your deceased kinsmen),-----

(IV 19) P

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا  
نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ  
كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

(۴۳: ۱۶)

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ مِمَّا تَوَاتُوا  
حَرْثَكُمْ أَنْ تُسْتَمْرَزَ وَقَدْ مَوْأ  
لِ أَنْفُسِكُمْ وَالْتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مَلْفُؤَةٌ ط وَبَشِّرِ  
الْمُؤْمِنِينَ ○

(۲۲۳: ۲)

#### ۴۔ لماذا للرجال درجة على النساء

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا  
فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ  
بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ  
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
اللَّهُ ط -----

(۳۴: ۴)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ  
عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبْنَ ط وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ○

(۳۲: ۴)

#### ۵۔ لايجل لكم ان ترثوا النساء كرها

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ  
لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ط -----

(۱۹: ۴)

اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔

(۲۳: ۱۶)

تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ۔ اور اپنے لئے (نیک عمل) آگے بھیجو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ (ایک دن) تمہیں اس کے ثواب و عاقبت ہونا ہے اور (اسے پیغمبر) ایمان والوں کو بشارت مسادو۔

(۲۲۳: ۲)

#### ۴۔ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ کیوں دیا گیا ہے

مرد عورتوں پر تسلط و حاکم ہیں اس لئے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لئے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو جو نیک بیبیاں ہیں وہ مردوں کے کلم پر چلتی ہیں۔ اور ان کے پیچھے اللہ کی حفاظت میں (مال و آبرو کی) خبر داری کرتی ہیں.....

(۳۴: ۴)

اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو۔ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کئے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کئے اور اللہ سے اس کا فضل (و کرم) مانگئے رہو کہ شکر نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

(۳۲: ۴)

#### ۵۔ عورت کو مال میراث نہ سمجھو

مومنو! تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ.....

(۱۹: ۴)

## MARRIAGE (Nikah)

### 6. WOMEN WITH WHOM MARRIAGE IS LAWFUL OR UNLAWFUL

22. And marry not those women whom your fathers married, except what hath already happened (of that nature) in the past. Lo! it was ever lewdness and abomination, and an evil way. 23. Forbidden unto you are your mothers, and your daughters and your sisters, and your father's sisters and your mother's sisters, and your brother's daughters and your sister's daughters, and your foster-mothers, and your foster sisters, and your mother-in-law, and your step daughters who are under your protection (born) of your women unto whom you have gone in but if ye have not gone in unto them, then it is no sin for you (to marry their daughters)—and the wives of your sons who (spring) from your own loins. And (it is forbidden unto you) that ye should have two sisters together, except what hath already happened (of that nature) in the past. Lo! Allah is ever Forgiving, Merciful. 24. And all married women (are forbidden) unto you save those (captives) whom your right hand possess. It is a decree of Allah for you. Lawful unto you are all beyond those mentioned, so that ye seek them with your wealth in honest wedlock, not debauchery-----

(IV : 22-24) P

## النكاح

۶۔ مع ایة امرأة النکاح حلال  
ومع من حرام

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
إِلَّا مَا قَدْ سَفَّاتَهُ كَانَ فَاحِشَةً  
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۲۲  
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ  
الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ  
أَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ  
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي جُحُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ  
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ذَلِكُمْ  
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ  
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۲۳  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
وَإِحْلَافَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۚ أَن  
تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرِ  
مُسَافِحِينَ ۲۴

(۲۴ : ۲۲-۲۳)

## نکاح

۶۔ کن عورتوں سے نکاح حلال  
اور کن سے حرام ہے

اور جن عورتوں سے تیسرے اپنے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا  
مگر وہ میت میں جو بچہ نکلا سو بچکا، یہ نہایت بے حیائی اور  
اللہ کی نافرمانی کی بات تھی اور بہت بڑا دستور تھا (۲۲) تم پر تباہی  
مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور بھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور  
بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضاعی  
بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں اور جن عورتوں سے تم  
مباشرت کر چکے ہو ان کی ملائیں جنہیں تم پرورش کرتے ہو  
(وہ بھی تم پر حرام ہیں) ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے  
مباشرت نہ کی ہو تو ان کی ملائیں کے ساتھ نکاح کر  
لیں گے (تم پر کچھ گنہ نہیں۔ اور تمہارے صلیبی بیٹوں کی  
عموتیں بھی۔ اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی (حرام ہے)  
مگر جو بچہ نکلا (سو بچکا) بیشک اللہ بخشنے والا (اور) رحم  
والا ہے (۲۳) اور شوہر والی عورتیں بھی (تم پر حرام ہیں)  
مگر وہ جو (سیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر) تمہارے قبضے میں  
آجائیں۔ (یہ حکم) اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے اور ان  
(محرمات) کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں۔  
اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے  
نکاح کر لو بشرطیکہ (نکاح سے) مقصود عفت  
قائم رکھنا ہو نہ شہوت رانی.... (۲۴)

(۲۴ : ۲۲-۲۳)

## 7. MARRIAGE OF WIDOWS

Such of you as die and leave behind them wives, they (the wives) shall wait, keeping themselves apart, four months and ten days. And when they reach the term (prescribed for them) then there is no sin for you in aught that they may do with themselves indecency. Allah is informed what ye do.

(II : 234) P

## 8. METHOD OF PROPOSING TO WIDOWS

There is no sin for you in that which ye proclaim or hide in your minds concerning your troth with women. Allah knoweth that ye will remember them. But plight not your troth with women except by uttering a recognised form of words. And do not consummate the marriage until (the term) prescribed is run. Know that Allah knoweth what is in your minds, so beware of Him; and know that Allah is Forgiving, Clement.

(II : 235) P

## 9. MARRIAGE WITH FEMALE ORPHANS

They consult thee concerning women. Say: Allah giveth you decree concerning them, and the scripture which hath been recited unto you (giveth decree), concerning female orphans unto whom ye give not that which is ordained for them though ye desire to marry them, and (concerning) the weak among children, and that

## ۷۔ نکاح الأرمال

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

(۲۳۴: ۲)

## ۸۔ طریقہ رسالۃ النکاح مع الأرمال

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

(۲۳۵: ۲)

## ۹۔ الزواج مع الیتیمات

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ طَلَّقَ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى

## ۷۔ بیوہ عورتوں کا نکاح

اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں چار مہینے اور دس دن اپنے آپ کو روکے ہیں اور جب (یہ) مدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام (یعنی نکاح) کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

(۲۳۴: ۲)

## ۸۔ بیوہ عورتوں سے نکاح کے پیغام کا طریقہ

اگر تم کائنات کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا (نکاح کی خواہش کو) اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے (نکاح کا) ذکر کرو گے۔ مگر ایامِ بندہ میں اس کے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا اور جب تک مدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا (اور) علم والا ہے۔

(۲۳۵: ۲)

## ۹۔ یتیم عورتوں سے نکاح

(اے پیغمبر) لوگ تم سے (یتیم عورتوں) کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو (یعنی) بیچارے بے بس بچوں کے بارے میں اور یتیم (حکم دیتا

ye should deal justly with orphans. Whatever good ye do lo! Allah is ever Aware of it.

(IV : 127) P

### 10. MARRIAGE WITH SLAVE GIRLS

And whoso is not able to afford to marry free believing women, let them marry from the believing maids whom your right hand possess. Allah knoweth best (concerning) your faith. Ye (proceed) one from another; so wed them by permission of their folk, and give unto them their portions in kindness, they being honest, not debauched nor of loose conduct. And if when they are honourably married they commit lewdness they shall incur the half of the punishment (prescribed) for free women (in that case). This is for him among you who feareth to commit sin. But to have patience would be better for you. Allah is Forgiving, Merciful.

(IV : 25) P

### 11. MARRIAGE OF SINGLE PERSONS AND SLAVES

And marry such if you as are solitary and the pious of your slaves and maid servants. If they be poor, Allah will enrich them of His bounty. Allah is of ample means, Aware.

(XXIV : 32) P

### 12. DEALING WITH THE PEOPLE OF SCRIPTURE

This day are (all) good things made lawful for you. The food of those who have received the Scripture is lawful for you,

بِالْقِسْطِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

(۱۲۷: ۴)

### ۱۰۔ النکاح مع الإماء

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّاتِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فِي مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مَخْذُوتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ أَنْ تَنْكِحُوا فَالْحِشْيَةُ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وَإِنْ ذَلِكُمْ لَمِنْ خَشْيَةِ الْعَنَتِ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(۲۵: ۴)

### ۱۱۔ نکاح الایامی والعبد

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

(۲۴: ۳۴)

### ۱۲۔ طعام أهل الكتاب ونساءهم

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

ہے) کہ تمہارے بارے میں انصاف پر قائم رہو۔ اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔

(۱۲۷: ۴)

### ۱۰۔ لونڈیوں سے نکاح

اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں (یعنی بیبیوں) سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارا قبضے میں آگئی ہوں (نکاح کر لے) اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ تو ان لونڈیوں کے ساتھ اچھے مالکوں کی اجازت حاصل کر کے نکاح کرو اور دستور کے مطابق ان کا بھی اور اگر وہ بشرطیکہ عیضہ ہوں نہ ایسی کہ کلمہ کھلا بدکاری کریں اور نہ درپردہ دوستی کرنا چاہیں۔ پھر اگر نکاح میں آکر بدکاری اور کتاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں (یعنی بیبیوں) کیلئے ہے اسکی آدمی ان کو (دی جائے) یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لئے بہت اچھا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(۲۵: ۴)

### ۱۱۔ مجرؤ افراد اور غلاموں کی شادی

اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر لیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں (نکاح کر لیا کرو) اور وہ جس سے تم اللہ کو اپنے فضل سے خوشحال کر لیا کرو اور اللہ بہت مست والا (اور سب کے) جاننے والا ہے۔

(۲۴: ۳۴)

### ۱۲۔ اہل کتاب کا کھانا اور ان کی عورتیں

آج تمہارے لئے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا

and your food is lawful for them. And so are the virtuous women of the believers and the virtuous women of those who received the Scripture before you (lawful for you) when ye give them their marriage portions and live with them in honour, not in fornication, nor taking them as secret concubines. Who-so demeth the faith, his work is vain, and he will be among the losers in the Hereafter.

(V 5) P

### 13. MARRIAGE WITH POLY-THEISTS

Wed not idolatresses till they believe, for lo! a believing bond-woman is better than an idolatress though she please you; and give not your daughters in marriage to idolaters till they believe, for lo! a believing slave is better than an idolator though he please you. These asvite unto the Fire, and Allah asviteeth unto the Garden and unto forgiveness by His grace, and expoundeth thus His revelations to mankind that haply they may remember.

(II 221) P

### 14. MARRIAGE WITH DIVORCEE OF ADOPTED SON

--- So when Zeyd had performed the necessary formality (of divorce) from her, We gave her unto thee in marriage, so that (henceforth) there may be no sin for believers in respect of wives of their adopted sons, when the latter have performed the necessary formality (of release) from them. The commandment of Allah must be fulfilled.

(XXXIII : 37) P

وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ  
مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ  
غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ  
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ○

(۵۱۵)

۱۳- الزواج مع المشركه او المشرك  
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ  
وَلَا مَمْلُوءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا  
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا  
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ  
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى  
النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَ  
الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○

(۲۲۱۲)

### ۱۴- الزواج مع مطلقه التبني

---- فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا  
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا  
مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ  
مَفْعُولًا ○

(۲۷۱۲۲)

ان کو حلال ہے۔ اور پاک دامن عورتیں اور پاک دامن  
اہل کتاب عورتیں ہی (حلال) ہیں۔ جبکہ ان  
کا ہر دے دو۔ اور ان سے عفت قائم رکھنی  
مقصود ہو نہ کھل بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی  
کرنی۔ اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے  
عمل منسوخ ہو گئے۔ اور وہ آخرت میں نقصان  
پلنے والوں میں ہوگا۔

(۵۱۵)

### ۱۳- مشرک عورت یا مرد سے نکاح

اور (مومن) مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح  
نہ کرنا کیونکہ مشرک عورت غلام کو کسی ہی جہلی لگے اس سے  
مومن لونڈی بہتر ہے۔ اور (اسی طرح) مشرک  
مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی  
زوجیت میں نہ دینا کیونکہ مشرک (مرد) سے خواہ وہ  
تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ یہ (مشرک  
لوگوں کو) دوزخ کی طرف بھوتے ہیں۔ اور اللہ اپنی پہلانی  
سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اور اپنے علم لوگوں  
سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔

(۲۲۱ : ۲)

### ۱۴- تبنی کا مطلقہ کے ساتھ نکاح

سپرہ بننے سے (کوئی طابت متعلق) نہ کی (یعنی اسکا طلاق  
دی تو مومن تم سے اسکا نکاح کر لیا تاکہ مومن کیلئے ان کے مزاج میں  
کدہ نہیں (کے ساتھ نکاح کر لینے سے) ایمان (اپنی طابت متعلق)  
نہ کیس (یعنی طلاق دیدیں) کہ تم ہی نہیں اسکا طلاق کا مطلق ہو کر رہے لایا

(۲۷۱۲۲)

### 15. CONDITIONS FOR MARRYING MORE THAN ONE WIFE

Ye will not be able to deal equally between (your) wives, however much ye wish (to do so). But turn not altogether away (from one), leaving her as in suspense. If ye do good and keep from evil, lo! Allah is ever Forgiving, Merciful.

(IV : 129) P

### 16. CONDITIONS FOR MARRYING MAXIMUM OF FOUR WIVES

And if ye fear that ye will not deal fairly by the orphans, marry of the women, who seem good to you, two or three or four, and if ye fear that ye cannot do justice (to so many) then one (only) or (the captives) that your right hand possess. Thus it is more likely that ye will not do injustice.

(IV : 3) P

### 17. MARRIAGE OF UNBELIEVERS AND LEWD PERSONS

26. Vile women are for vile men and vile men for vile women.----- 3. The adulterer shall not marry save an adulteress or an idolatress, and the adulterers none shall marry save an adulterer or an idolator. All that is forbidden unto believers.

(XXIV : 26, 3) P

### ۱۵۔ شروط الزواج مع أكثر من زوجة واحدة

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ  
وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ  
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِنْ تَصِحُّوا  
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

(۱۲۹: ۴)

### ۱۶۔ الشروط للزواج مع أربع زوجات

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَى  
فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ  
أَدْنَى أَلَّا تَعْوِلُوا

(۳: ۴)

### ۱۷۔ نکاح الخبيث والغيبه والزاني

وَالزَّانِيَةُ وَالْمُشْرِكَةُ  
الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ  
لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالزَّانِي لَا يُنْكَحُ إِلَّا  
زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا  
يُنْكَحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرْمَ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

(۲۱: ۲۶)

### ۱۵۔ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی شرائط

اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے تو ایسا ہی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف توجہ دلاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا اوہر میں لٹک ہی رہے اور اگر آپس میں منافقت کرو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(۱۲۹: ۴)

### ۱۶۔ زیادہ سے زیادہ چار بیویاں رکھنے کی شرائط

اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ تم یقیناً ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین یا چار چار ان سے نکاح کرو اور اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت (کافی ہے) یا لونڈی جس کے تم مالک ہو اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔

(۳: ۴)

### ۱۷۔ ان ناپاک، بد کردار، زانی اور مشرک مردوں اور عورتوں کا نکاح

ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لئے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لئے۔ ۳۔ بد کردار مرد تو بد کردار یا مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرتا اور بد کردار عورت کو بھی بد کردار یا مشرک مرد کے ساتھ اور کوئی نکاح نہیں لیتا اور یہ یعنی بد کردار عورت سے نکاح کرنا (مومنوں پر حرام ہے)

(۲۱: ۲۶)

## DISSENSIONS BETWEEN HUSBAND AND WIFE

### 18. TREAT YOUR WIFE WITH KINDNESS

---- But consort with them in kindness, for if ye hate them it may happen that ye hate a thing wherein Allah hath placed much good.

(IV 19) P

### 19. DEALING WITH A DISLOYAL WOMAN

---- As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and scourge them. Then if they obey you, seek not a way against them. Lo! Allah is ever High, Exalted, Great.

(IV 34) P

### 20. CONJUGAL DIFFERENCES

And if ye fear a breach between them twain (the man and wife), appoint an arbiter from his folk and an arbiter from her folk. If they desire amendment Allah will make them of one mind. Lo! Allah is ever Knower, Aware

(IV 35) P

### 21. APPREHENSION OF ILL TREATMENT BY HUSBAND

If a woman feareth ill treatment from her husband, or desertion, it is no sin for them

## الاختلاف بين المرأة وزوجها

### ۱۸- حکم المعاشرة المعروفة مع الزوجة

---- وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

(۱۹ : ۴)

### ۱۹- المعاملة مع الزوجة الناشرة

---- وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

(۳۴ : ۴)

### ۲۰- الشقاق بين المرور وزوجه

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَأَهْلِهَا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

(۳۵ : ۴)

### ۲۱- مخافة الزوجة من زوجها

وَإِنْ امْرَأَةٌ خِيفَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ

## میاں بیوی کے درمیان نا اتفاق

### ۱۸- بیوی کے ساتھ بھلے طریقے سے

زندگی بسر کرنے کی ہدایت

... اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو مجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کرنے۔

(۱۹ : ۴)

### ۱۹- سرکش عورت کے ساتھ برتاؤ

... اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکش اور بدخونی بخزنے لگی ہیں تو پہلے انکو زبانی سمجھاؤ اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کرو اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو اور اگر فرمانبردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ بے شک اللہ سب سے اعلیٰ (اور) جلیل القدر ہے۔

(۳۴ : ۴)

### ۲۰- میاں بیوی میں جھگڑا

اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں ان بن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ وہ اگر صلح کرادینی چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دیگا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔

(۳۵ : ۴)

### ۲۱- عورت کو شوہر سے زیادتی کا ڈر

اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرار

twain if they make terms of peace between themselves. Peace is better. But greed hath been made present in the minds (of men). If ye do good and keep from evil, lo! Allah is ever informed of what ye do.

(IV : 128) P

## 22. SEPARATION IS PERMISSIBLE IF SERIOUS DISAGREEMENT EXISTS BETWEEN HUSBAND AND WIFE

But if they separate, Allah will compensate each out of His abundance. Allah is ever All-Embracing, All-knowing.

(IV : 130) P

## 23. SWEARING ABSTENTION FROM WIFE

Those who forswear their wives must wait four months; then, if they change their mind, lo! Allah is Forgiving, Merciful.

(II : 226) P

## 24. CALLING WIFE AS HIS MOTHER AS AN EXCUSE FOR STAYING AWAY FROM HER

2. Such of you as put away your wives (by saying they are as their mothers)—They are not their mothers; none are their mothers except those who gave them birth—they indeed utter an ill word and a lie. And lo! Allah is Forgiving, Merciful. 3. Those who put away their wives (by saying they are as their mothers) and afterward would go back on that which they have said, (the penalty) in that case (is) the freeing of a slave before they touch one another. Unto this

عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ  
الشُّرُوءَ وَإِنْ حَسِنُوا وَاتَّقُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝  
(۱۲۸ : ۴)

## ۲۲ - التفرق بين الزوجين في حالة

عدم الموافقة بينهما

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كِلَيْهِمَا  
مِنْ سَعَتِهِ طَوْكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا  
حَكِيمًا ۝

(۱۳۰ : ۴)

## ۲۳ - حكم الإيلاء الحلف بعدم

المباشرة مع الزوجة

لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ  
تَرْبِصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ أَتَوْا  
فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝  
(۲۲۶ : ۲)

## ۲۴ - حكم الطهار إذ قال الزوج

لزوجه أنت علي مثل أمي

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّن نِّسَائِهِمْ  
قَاهُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْ  
وَلَدُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ  
الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ ۝  
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ  
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ  
قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ يُوعَظُونَ بِهِ

پر صلح کر لیں اور صلح خوب (دھیر) ہے اور طبیعتیں تو صلح کی  
طرف مائل ہوتی ہیں۔ اور اگر تم نیکو کاری اور پرہیزگاری  
کرو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے  
واقف ہے۔

(۱۲۸ : ۴)

## ۲۲ - میاں بیوی میں اتفاق نہ ہونے کی

صورت میں علیحدگی

اور اگر میں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے  
سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر  
دے گا۔ اور اللہ بڑی سخاوت والا اور رحمت والا ہے۔

(۱۳۰ : ۴)

## ۲۳ - بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم

کھالینا

جو لوگ اپنی مورتوں کے پاس جانے کی قسم کھالیں  
انکو چار مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر اس عہد میں قسم سے  
رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(۲۲۶ : ۲)

## ۲۴ - اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹنے کی

صورت میں (طہار)

جو لوگ تم میں سے مورتوں کو ماں کہتے ہیں وہ انکی ماں نہیں  
دہو جاتیں، انکی ماں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔  
بیشک وہ نامعقول اور مجبوری بات کہتے ہیں۔ اور اللہ بڑا معاف  
کریم والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں  
کہہ بیٹیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو بہتر بیٹے  
سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے۔ (مؤمن، اس حکم)  
سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے



ye are exhorted, and Allah is informed of what ye do. 4. And he who findeth not (the where-withal), let him fast for two successive months before they touch one another; and for him who is unable to do so (the penance is) the feeding of sixty needy ones. This, that ye may put trust in Allah and His messenger.-----

(LVIII : 2-4) P

### DOWER MONEY (Mehr)

#### 25. PAYMENT OF DOWER

----- And those of whom ye seek content (by marrying them), give unto them their portions as a duty. And there is no sin for you in what ye do by mutual agreement after the duty (hath been done). Lo! Allah is ever Knower, Wise

(IV : 24) P

And give unto the women, (whom ye marry) free gift of their marriage portions; but if they of their own accord remit unto you a part thereof, then ye are welcome to absorb it (in your wealth).

(IV : 4) P

#### 26. DIVORCE BEFORE FIX- ING DOWER OR ENTERING THE BRIDAL CHAMBER

It is no sin for you if ye divorce women while yet ye have not touched them, nor

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۴﴾  
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ آثَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَأَطْعَامَ سِتِّينَ مَسْكِينًا ذَلِكَ لِيُؤْمِنُوا  
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ط  
----- ﴿۴﴾ (۴-۲ : ۵۸)

### المهر

#### ۲۵- دفع المهر

----- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ  
مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ  
بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝  
(۲۴ : ۴)

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً  
فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝  
(۴ : ۴)

#### ۲۶- الطلاق قبل مس الزوجة وفرض المهر

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ  
النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ

نظر ہے ﴿۴﴾ جس کو غلام نہ ملے وہ جماعت سے پہلے متواتر  
دو مہینے کے دنے رکھے جس کو اس کا بھی مقدر نہ ہو (اسے ساتھ  
محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے) یہ (حکم اس لئے ہے)  
کہ تم اللہ اور رسول کے فرمانبردار ہو جاؤ اور یہ  
اللہ کی حدیں ہیں ..... ﴿۴﴾  
(۴-۲ : ۵۸)

### حق مہر

#### ۲۵- حق مہر کی ادائیگی

... توجہ عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر  
جو مقرر کیا ہوا اور اگر دو اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی  
رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ  
نہیں۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتے والا (اور  
حکمت والا ہے۔

(۲۴ : ۴)

اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا  
کرو۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے  
کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے فوق شوق سے کھا لو۔

(۴ : ۴)

#### ۲۶- عورت کے پاس جانے اور مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق

اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر  
مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ

appointed unto them a portion. Provide for them, the rich according to his means and the straitened according to his means, a fair provision. (This is) a bounden duty for those who do good.

(II : 236) P

### 27. DIVORCE AFTER FIXING DOWER BUT BEFORE ENTERING THE BRIDAL CHAMBER

If ye divorce them before ye have touched them and ye have appointed unto them a portion, then (pay the) half of that which ye appointed, unless they (the women) agree to forgo it, or he agreeth to forgo it in whose hand is the marriage tie. To forgo is nearer to piety. And forget not kindness among yourselves. Allah is Seer of what ye do.

(II : 237) P

### 28. PAYMENT OF RANSOM BY WOMAN IF SHE WANTS DIVORCE

----- And it is not lawful for you that ye take from women aught of that which ye have given them; except (in the case) when both fear that they may not be able to keep within the limits (imposed by Allah) in that case it is no sin for either of them if the woman ransom herself-----

(II : 229) P

كفروضوا لهنّ فريضةً مّ و  
متّوهنّ على الموسر قدره  
وعلى المقتر قدره متاعاً  
بالمعروف حقاً على المحسنين  
(۲۳۶: ۲)

### ۲۷- الطلاق قبل مس الزوجة وبعد فرض المهر

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ  
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ  
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي  
بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ  
تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا  
الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(۲۳۷: ۲)

### ۲۸- المخلع - الفدية من قبل الزوجة

فِي حَالَةِ رَغْبَتِهَا فِي الطَّلَاقِ  
----- وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ  
أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً  
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ  
بِهِ

(۲۲۹: ۲)

نہیں۔ ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو  
(یعنی) مقدور و لا اپنے مقدور کے مطابق سے اور  
تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ  
ایک طعن کا حق ہے۔  
(۲۳۶: ۲)

### ۲۷- ہاتھ لگانے سے پہلے اور مہر مقرر کرنے کے بعد طلاق

دراگرتہ عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے  
عقد دے دو۔ لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا  
دینا ہوگا۔ ہاں اگر عورتیں منہ بخش دیں یا مدجن کے  
ہاتھ میں عقد نکاح ہے (اپنا حق چھوڑ دیں) اور اگر  
پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے اور اگر  
تم مہر دلوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری  
کی بات ہے اور آپس میں بھلائی کرنے کو  
فراموش نہ کرنا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ  
سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

(۲۳۶: ۲)

### ۲۸- عورت کی طرف سے شوہر سے ہاں حاصل کرنے کے لئے رقم کی ادائیگی (مخلع)

۔۔۔ اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو  
اس میں سے کچھ واپس لو۔ ہاں اگر زن شوہر کو خوف  
ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو اگر  
عورت (خاندان کے ہاتھ سے) رہائی پانے کے بدلے میں  
کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں.....  
(۲۲۹: ۲)

## 29. TIMING THE DIVORCE

O Prophet! when ye do divorce women, divorce them at their prescribed periods, and count (accurately) their prescribed\* periods. And fear Allah your Lord. And turn them not out of their houses, nor shall they (themselves) leave, except in case they are guilty of some open lewdness....

(LXV 1) Y

## 30. DIVORCE BEFORE ENTERING THE BRIDAL CHAMBER

O ye who believe! If ye wed believing women and divorce them before ye have touched them, then there is no period that ye should reckon. But content them and release them handsomely.

(XXXIII 49) P

## 31. WAITING PERIOD FOR A DIVORCED WOMAN

Women who are divorced shall wait, keeping themselves apart, three (monthly) courses. And it is not lawful for them that they should conceal that which Allah hath created in their wombs if they are believers in Allah and the Last Day.....

(II: 228) P

## 32. DECISIVE MOMENT AFTER DIVORCE IS PRONOUNCED TWICE

Divorce must be pronounced twice and then (a woman)

\*Refer to para 48.

۲۹۔ متى يجب أن يتم الطلاق  
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ  
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ  
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ  
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ط-----

(۱: ۶۵)

## ۳۰۔ الطلاق قبل الس

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ  
تَحْتَ طَلْقَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا  
فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَارَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ط-----

(۴۹: ۳۳)

## ۳۱۔ فترة من الانتظار للمطلقة

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ  
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ  
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط-----

(۲۲۸: ۲)

## ۳۲۔ المرحلة الحاسمة بعد الطلاق مرتين

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ سَاءَ بِمَا عُرِفْتَ

۲۹۔ طلاق کن اوقات میں ہی مانی جائیے  
اے پیغمبر! (مسلمانوں سے کہہ دو) جب تم عورتوں کو طلاق دینے  
لگو تو انہی عدت کے شروع میں طلاق دو۔ اور عدت کا شمار کرو۔  
اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے رو (نہ تو تم ہی) (اللہ) ایام عدت میں  
انہی گھروں سے نکالو اور نہ وہ (خود ہی) نکلیں۔ ہاں اگر وہ گھروں  
بے حیائی کریں (تو نکال دینا چاہیے)۔ ....

(۱: ۶۵)

## ۳۰۔ ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق

مومنو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ  
لگانے (یعنی ان کے پاس جانے) سے پہلے طلاق دے  
دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کرو اور اگر  
کچھ فائدہ (یعنی خرچ ہونے) کراچی طرح سے رخصت کر دو۔

(۴۹: ۳۳)

## ۳۱۔ مطلقہ عورتوں کے لئے انتظار کا وقفہ

اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے تئیں روکے  
رہیں۔ اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی  
ہیں تو ان کو مانت نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں  
پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں.....

(۲۲۸: ۲)

## ۳۲۔ دوسری دفعہ طلاق کے بعد فیصلہ کن مرحلہ

طلاق (صرف) دو بار ہے (یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر

must be retained in honour or released in kindness. And it is not lawful for you that ye take from women aught of that which ye have given them:---

(II : 229) P

When ye have divorced women, and they have reached their term, then retain them in kindness or release them in kindness. Retain them not to their hurt so that ye transgress (the limits). He who doth that hath wronged his soul.---

(II : 231) P

### 33. DECIDE FINALLY BEFORE THE PRESCRIBED PERIOD IS OVER

Then, when they have reached their term, take them back in kindness, or part from them in kindness, and call to witness two just men among you, and keep your testimony upright for Allah.---

(LXV : 2) P

### 34. REUNION AFTER DIVORCE HAS BEEN PRONOUNCED FOR THE THIRD TIME

And if he hath divorced her (the third time), then she is not lawful unto him thereafter until she hath wedded another husband. Then if he (the other husband) divorce her it is no sin for both of them that they come together again if they consider that they are able to observe the limits of Allah. These are the limits of Allah. He manifesteth them for people who have knowledge.

(II : 230) P

اَوْ تَسْرِجُوا بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ  
اَنْ تَاْخُذُوْا مِنْهَا اْتِيْمُوْهُنَّ شَيْئًا

(۲۲۹: ۲)

وَ اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا كُنَّ  
اَجَلَهُنَّ فَاْمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ  
اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ مَّا وَّلَا  
تُضِرُّوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَاَنْتُمْ لَكُمْ  
يَفْعَلُ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

(۲۳۱: ۲)

۳۳- اتخذوا القرار قبل انتهاء  
موعد العدة

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاْمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ  
اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَاَشْهَدُوْا  
عَدْلًا مِنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ

(۲: ۶۵)

۳۴- إعادة عقد الزواج بعد  
الطلاق الثالث

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهَا مِنْ بَعْدِ  
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَاِنْ  
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ  
يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يَفِيْمَا  
حُدُوْدَ اللّٰهِ ط وَ تِلْكَ حُدُوْدُ  
اللّٰهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُوْنَ

(۲۳۰: ۲)

موتوں کو یا تو بے شرک یا شرک میں بنے دینا ہے یا بھلائی کے  
ساتھ چھوڑ دینا اور یہ جائز نہیں کہ جوہر تم کو کھوے چکے ہو میں کچھ واپس لو۔

(۲۲۹: ۲)

اور جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق سے چکھو اور ان کی عدت پوری  
ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں بنے دو  
یا بے شرک یا شرک سے نکاح کر دو اور اس نیت سے  
ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دوز  
ان پر بیوقوفی کرو اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔

(۲۳۱: ۲)

۳۳- عدت کی میعاد ختم ہونے سے پہلے  
فیصلے کا انتخاب کرو

پھر جب وہ بی بی میں دینی نقصان سے بچنے کے وقت پہنچ جائیں تو یا  
تو انکو بھلائی سے نبوت میں رہنے دو یا بھلائی سے علیحدہ کر دو  
اپنے پاس دو نصف مومن کو گواہ کرو گواہوں سے ایسے دست برداری

(۲: ۶۵)

۳۴- تیسری دفعہ طلاق دیے جانے کے بعد دوبارہ  
زوجیت میں لیا جانا

پھر اگر شوہر دو طلاقیں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دیدے تو اسے  
بعد جب تک عورت کسی سے شہسختی سے نکاح نہ کرے اس پہلے شوہر پر  
حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر وہ اس کا بھی طلاق دے دے اور عورت او  
پہلا شوہر ایک دست برداری طلاق میں تو ان پر کچھ گناہ نہیں  
بشرطیکہ دونوں یقین کریں کہ اللہ کی مدد کو قائم رکھ سکیں گے۔  
اور یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کو وہ ان لوگوں کے لئے  
بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔

(۲۳۰: ۲)

### 35. FREEDOM OF SECOND MARRIAGE AFTER DIVORCE

And when ye have divorced women and they reach their term, place not difficulties in the way of their marrying their husbands, if it is agreed between them in kindness.----

(II : 232) P

### 36. SUCKLING PERIOD FOR INFANTS

Mothers shall suckle their children for two whole years; (that is) for those who wish to complete the suckling.-----

(II : 233) P

### 37. EXTENT OF COMPENSATION TO MOTHER/NURSE FOR FEEDING THE INFANT

----- The duty of feeding and clothing nursing mothers in a seemly manner is upon the father of the child. No one should be charged beyond his capacity. A mother should not be made to suffer because of her child nor should he to whom the child is born (be made to suffer) because of his child. And on the (father's) heir is incumbent the like of that (which was incumbent on the father). If they desire to wean the child by mutual consent and (after) consultation, it is no sin for them; and if ye wish to give your children out to nurse, it is no sin for you, provided that ye pay what is due from you in kindness. Observe your duty to Allah, and know that Allah is Seer of what ye do.

(II : 233) P

۳۵- حرية الزواج الثاني بعد الطلاق  
وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ  
أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ  
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا  
بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط  
-----  
(۲۳۲: ۲)

۳۶- مدة الرضاعة  
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ  
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ  
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط  
-----  
(۲۳۳: ۲)

۳۷- تعويض مربية الطفل

----- وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِضَاعُهُمْ وَأَسْوَأُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ط  
لَا تَكْفُلُ نَفْسٌ إِلَّا مَا رَزَقَتْهَا  
وَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ لَهُنَّ وَأُولَاؤُهُنَّ  
يُرْضِعْنَ لَهُنَّ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ط  
فَإِنْ أَرَادَ إِفْصَالٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ  
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ط وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

(۲۳۳: ۲)

۳۵- طلاق کے بعد دوسری شادی کی آزادی  
اور جب تم عورتوں کو طلاق سے چھو اور ان کی عدت پوری  
ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب  
وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے  
سے مت روکو۔۔۔۔۔  
(۲۳۲: ۲)

۳۶- بچے کو دودھ پلانے کی ميعاد  
اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ  
پلائیں یہ (حکم) اس شخص کے لئے ہے جو پوری  
مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔۔۔۔۔  
(۲۳۳: ۲)

۳۷- بچہ پالنے والی عورت کا معاوضہ

----- اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا اور توہ کے مطابق بچے  
کے ذمے ہر گاہ کسی شخص کو اسکی طقت سے زیادہ تکلیف نہیں ہی باقی  
(تو یاد رکھو کہ) نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا  
جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان  
پہنچایا جائے اور اسی طرح (نان نفقہ) بچے کے ورثہ  
کے ذمے ہے اور اگر دونوں (یعنی ماں باپ) آپس کی  
رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑوانا چاہیں تو ان  
پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو (نیر عورت سے) دودھ پلوانا  
چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ بشرطیکہ تم دودھ پلانے والیوں  
کو ہتر کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تماد سے دو۔  
اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ہر کچھ تم کرتے ہو  
اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

(۲۳۳: ۲)

### 38. GETTING BACK THE PRESENTS FROM WIDOWS

---- nor (that) ye should put constraint upon them that ye may take away a part of that which ye have given them, unless they be guilty of flagrant lewdness.-----

(IV : 19) P

### 39. WIDOW'S STAY IN LATE HUSBAND'S HOUSE

(In the case of) those of you who are about to die and leave behind them wives, they should bequeath unto their wives a provision for the year without turning them out, but if they go out (of their own) accord there is no sin for you in that which they do of themselves within their rights. Allah is Mighty, Wise.

(II : 240) P

### 40. SUBSISTENCE FOR DIVORCED WOMEN

For divorced women a provision in kindness; a duty for those who ward off (evil).

(II : 241) P

### 41. RETURN OF GIFTS AND DOWER IS DISALLOWED

20. And if ye wish to exchange one wife for another and ye have given unto one of them a sum of money (however great), take nothing from it. Would ye take it by the way of calumny and open wrong? 21. How can ye take it (back) after one of you hath gone in unto the other, and they have taken a strong pledge from you?

(IV : 20-21) P

### ۳۸۔ استرجاع ماؤتیت الأرملة من مال

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ

(۱۹ : ۴)

### ۳۹۔ قیام الأرملة فی بیت الزوج السابق

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ  
يَذُرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةٌ  
لِأَزْوَاجِهِمْ مِمَّا عَلَى الْاِحْوَالِ  
غَيْرِ الْاِخْرَاجِ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي  
أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

(۲۴۰ : ۲)

### ۴۰۔ النفقة للطلقة

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

(۲۴۱ : ۲)

### ۴۱۔ المنوع استرجاع ما أعطيت المرأة من مال

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ  
زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا  
تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونََهُ كُنْتُمْ  
وَأَنْتُمْ مُبِينًا ۝

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ  
إِلَى بَعْضٍ ۖ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

(۲۰ : ۲۱ - ۲۱)

### ۳۸۔ بیوہ عورت سے دیئے ہوئے مال سے واپس لینا

... اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے انکو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو انہیں (گھر میں) مت دکھنا ہاں اگر وہ کلمے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو روکنا نامناسب ہے۔

(۱۹ : ۴)

### ۳۹۔ بیوہ ہونے کے بعد مدد کے گھر میں رہائش

اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گنہ نہیں۔ اور زبردست حکمت والا ہے۔

(۲۴۰ : ۲)

### ۴۰۔ مطلقہ عورتوں کے لئے نان و نفقہ

اور مطلقہ عورتوں کو بھی سسٹو کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے۔

(۲۴۱ : ۲)

### ۴۱۔ پہلی عورت سے مال کی واپسی ممنوع ہے

اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا۔ بھلا تم بھلا نظر پر اور مرتع غلام سے اپنا مال اس سے واپس لوگ؟ اور تم دیا سا مال کیوں واپس لے سکتے ہو جو کچھ تم ایک برس کے ساتھ صحت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد و اتق بھی لے چکی ہیں۔

(۲۰ : ۲۱ - ۲۱)

## PRESCRIBED PERIOD FOR WOMEN (IDDAT)

### 42. 'IDDAT' FOR WIDOWS

Such of you as die and leave behind them wives, they (the wives) shall wait, keeping themselves apart four months and ten days.---

(II : 234) P

### 43. 'IDDAT' FOR WOMEN DIVORCED BEFORE TOUCHING

O ye who believe! If ye wed believing women and divorce them before ye have touched them, then there is no period that ye should reckon. But content them and release them handsomely.

(XXXIII : 49) P

### 44. 'IDDAT' FOR DIVORCED WOMEN HAVING MENSTRUATION

Women who are divorced shall wait, keeping themselves apart, three (monthly) courses.---

(II : 228) P

### 45. 'IDDAT' FOR DIVORCED WOMEN WITHOUT MENSES OR PREGNANT WOMEN

And for such of your women as despair of menstruation, if ye doubt, their period (of waiting) shall be three months, along with those who have it not. And for those with child, their period shall be till they bring forth their burden. And whosoever keepeth his duty to Allah, He maketh his course easy for him.

(LXV : 4) P

## عدة المرأة

### ۴۲۔ عدة الأرملة

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

(۲۳۴: ۲)

### ۴۳۔ عدة المرأة التي لم يسها زوجها

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

(۴۹ : ۴۳)

### ۴۴۔ عدة المرأة المطلقة الحائض

وَالْمُطَلَّقاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

(۲۲۸ : ۲)

### ۴۵۔ عدة المرأة المطلقة الحامل والتي

### ليست حائضا

وَالَّذِي يَشْنُ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسِيَكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

(۴ : ۶۵)

## عورت کے لئے عِدَّت

### ۴۲۔ بیوہ کے لئے عِدَّت

اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں چار مہینے اور دس دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔۔۔۔

(۲۳۴ : ۲)

### ۴۳۔ ان عورتوں کے لئے عِدَّت جن کو

### ہاتھ نہ لگایا گیا ہو

مومنوں جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عِدَّت پوری کرو۔ ان کو کچھ فائدہ (یعنی خرچ) دے کر اچھی طرح سے رخصت کرو۔

(۴۹ : ۴۳)

### ۴۴۔ مطلقہ باحیض عورتوں کے لئے عِدَّت

اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں۔۔۔۔۔

(۲۲۸ : ۲)

### ۴۵۔ مطلقہ بے حیض یا حاملہ عورتوں

### کے لئے عِدَّت

اور قہاری (مطلقہ) عورتیں حیض سے نا امید ہو چکی ہوں اگر تمکو (یعنی عِدَّت کے بارے میں) شبہ ہو تو انکی عِدَّت تین مہینے ہے جن کو اہم حیض نہیں آنے لگا (یعنی عِدَّت ہی ہے) اور عمل والی عورتوں کی عِدَّت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے اور جو اللہ سے ڈھے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔

(۴ : ۶۵)

#### 46. CARE OF WOMEN DURING 'IDDAT'

Lodge them where ye dwell, according to your wealth, and harass them not so as to straiten life for them.-----

(LXV : 6) P

#### 47. CARE OF PREGNANT WOMEN DURING 'IDDAT'

----- And if they are with child, then spend for them till they bring forth their burden. Then, if they give suck for you, give them their due payment and consult together in kindness; but if ye make difficulties for one another, then let some other women give suck for him (the father of the child).

(LXV : 6) P

#### 48. RECKONING 'IDDAT' PERIOD IN CASE OF DIVORCE

O Prophet! When ye (men) put away women, put them away for their (legal) period and reckon\* the period.-----

(LXV : 1) P

#### MISCELLANEOUS

#### 49. EXTENT OF EXPENDITURE BY FATHER ON CHILD'S MAINTENANCE

Let him who hath abundance spend of his abundance, and he whose provision is measured, let him spend of that which Allah hath given him. Allah asketh naught of any soul save that which He hath given it. Allah will touch ease after hardship, ease.

(LXV : 7) P

\*i.e. after menstruation before performing an intercourse.

#### ۴۶۔ عناية المطلقة

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم  
ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ---

(۶۵ : ۶)

#### ۴۷۔ عناية المرأة الحامل خلال العدة

-----  
كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى  
يضعن حملهن فان ارضعن لكم  
فانوهن اجورهن واتمروا بينكم معروف  
وان تعاسرتهم فاسترضعوه لآخرى ○

(۶۵ : ۶)

#### ۴۸۔ كيف يتم إحصاء العدة عند الطلاق

يأيتها النبي إذا طلقتم النساء  
فطلقوهن لحدتهن وأحصوا  
العدة ○

(۱ : ۶۵)

#### المتفرقات

#### ۴۹۔ مقدار التعويض من قبل الوالد

بشان تربية الولد  
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر  
عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله  
لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه  
سيجعل الله بعد عسر يسرا ○

(۷ : ۶۵)

\* یعنی فوراً بعد المہیض وبدون الباشرة

#### ۴۶۔ مطلقہ عورت کی عدت کے دوران نگہداشت

مطلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدر کے مطابق وہیں رکھو  
جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لئے تکلیف نہ دو۔

(۶۵ : ۶)

#### ۴۷۔ حاملہ عورت کی عدت کے دوران نگہداشت

۔۔ اور اگر عمل سے بچوں تو بچہ جننے تک انکا پر جیتے رہو پھر اگر وہ  
بچے کو تباہ کرنے سے ڈرو وہ پلائیں تو انکو اپنی اہرت اور ذمہ کے بارے  
میں پسندہ طریق سے ممانعت رکھو اور اگر باہم ضد (اور اتفاق) کرو گے تو  
بچے کو اپنے (باپ کے) کہنے سے کوئی اور عورت ڈو وہ پلائے گی۔

(۶۵ : ۶)

#### ۴۸۔ طلاق میں عدت کا شمار کیسے کیا جائے

اے پیغمبر! مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق  
دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق  
دو اور عدت کا شمار رکھو۔۔۔۔

(۱ : ۶۵)

#### متفرق

#### ۴۹۔ والد کی طرف سے بچے کی دیکھ بھال

کرنے پر معاوضہ کی مقدار  
ساحب سست کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور  
جس کے رزق میں تنگی ہو وہ بتنا اللہ نے اسکو دیا ہے اس کے مطابق  
خرچ کرے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اسکو  
دیا ہے۔ اور اللہ منتریب تنگی کے بعد کشائش بخشنے گا۔

(۷ : ۶۵)

\* یعنی حیض کے فوراً بعد بغیر مباشرت کیے۔



### 50. MENSTRUATION AND COHABITATION

They question thee (O Muhammad) concerning menstruation. Say: It is an illness so let woman alone at such times and go not in unto them till they are cleansed. And when they have purified themselves, then go in unto them as Allah hath enjoined upon you. Truly Allah loveth those who turn unto Him and loveth those who have a care for cleanness.

(II: 222) P

### 51. FORCING SLAVE GIRLS INTO PROMISCUITY IS PROHIBITED

But force not your minds to prostitute on when they desire chastity in order that ye may make a gain in the goods of this life. But if any one compels them yet after such compulsion is Allah Oft-forgiving Most Merciful (to them).

(XXIV: 33) Y

### 52. SODOMY IS TO EXCEED ALL LIMITS

Lo! ye come with lust unto men instead of women. Nay, but ye are wanton folk.

(VII: 81) F

### 53. ADOPTED SONS

4. ----- nor has He made your adopted sons your sons. Such is (only) your (manner of) speech by your mouths -----  
5. Call them by (the names) of their fathers that is juster in the sight of Allah, but if you know not their father's (names) call them) your Brothers in faith or your Maulas -----

(XXXIII: 4-5) Y

۵۰۔ العلاقات الزوجية عند الحيض  
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ  
هُوَ أَذَىٌّ فَاعْتَرِزُوا النِّسَاءَ فِي  
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ  
يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ  
فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ  
اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ  
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

(۲۲۲: ۲)

### ۵۱۔ لا تکرہوا فتياتکم علی البغاء

---- وَلَا تَكْرِهُوا فَتَاتِكُمْ  
عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ  
مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

(۲۳: ۲۴)

### ۵۲۔ اللواط عدوان علی اللہ

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ  
دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝

(۸۱: ۷)

### ۵۳۔ المتبنون

---- وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ  
أَبْنَاءَكُمْ ۗ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ  
أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ  
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ ----- ۝

(۵۰: ۳۳)

### ۵۰۔ حیض کے دوران بیوی سے تعلقات

اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو وہ تو نجاست ہے سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو۔ اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو۔ ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تو بہترین والوں اور پاک صاف بننے والوں کو دوست کرتا ہے۔

(۲۲۲: ۲)

### ۵۱۔ لونڈیوں کو قہر گری پر مجبور نہ کرو

... اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو (بے شرمی سے) دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لئے بیکاری پر مجبور نہ کرنا۔ اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان (بیچاروں) کے محبوب کے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(۲۳: ۲۴)

### ۵۲۔ لواطت تو حد سے نکل جانا ہے

یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لئے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈیوں پر گرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔

(۸۱: ۷)

### ۵۳۔ متبنی

... اور نہ تمہارے لئے پاکوں کو تمہارے بیٹے بنایا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ ... لے پاکوں کو ان کے (اصلی) باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔

(۵۰: ۳۳)

## INJUNCTIONS ON VEILING

## احکام الحجاب

## پردہ کے احکام

### 1. GARMENTS FOR MAN- KIND

O Children of Adam! We have revealed unto you raiment to conceal your shame, and splendid vesture, but the raiment of restraint from evil, that is best. This is of the revelations of Allah, that they may remember.

(VII : 26) P

### 2 VEILING FOR MEN

Tell the believing men to lower their gaze and be modest. That is purer for them. Lo! Allah is Aware what they do.

(XXIV : 30) P

27 O ye who believe! Enter not houses other than your own without first announcing your presence and invoking peace upon the folk thereof. That is better for you, that you may be heedful. 28. And if ye find no one therein, still enter not until permission hath been given. And if it be said unto you: Go away again, then go away, for it is purer for you. Allah knoweth what ye do.

(XXIV : 27-28) P

### ۱- اللباس للإنسان

يَبْنَى ادمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُوْنَ

(۲۶: ۷)

### ۲- الحجاب للرجال

قُلْ لِلرِّسُوْمِيْنَ يَغْضُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا اَرْوَاهِمُ ذَٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

(۳۰: ۲۴)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بِيٰتٍ غَيْرِ بِيٰتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا وَاَسَلِمُوْا عَلٰى اٰهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قَبِلَ لَكُمْ اَرْجِعُوْا فَاَرْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

(۲۸-۲۷: ۲۴)

### ۱- انسان کے لئے لباس

اے آدم کی اولاد! ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے پردہ دار بدن کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے۔ اور تقویٰ کا لباس اس سے بڑھ کر ہے۔

(۲۶: ۷) م-و-ع

### ۲- مردوں کے لئے پردہ

مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یہ ان کے لئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کلام یہ کہتے ہیں اللہ ان سے جزا دے۔

(۳۰: ۲۴)

مؤمنو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں کے گھروں میں گھروالوں سے اجازت لے اور انکو سلام کہئے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور ہم یہ نصیحت اس لئے کرتے ہیں کہ شاید تم پاؤ رکھو۔ اگر تم گھر میں کسی کو سوجھو نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں دست داخل ہو۔ اور اگر دیکھا گیا کہ جس جگہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔ یہ تمہارے لئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کلام تم کہتے ہو اللہ

سب جانتا ہے

(۲۸-۲۷: ۲۴)

### 3. EXTENT OF VEILING FOR WOMEN

And say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty; that they should not display their beauty and ornaments except what (most ordinarily) appear thereof. That they should draw their veils over their bosoms, and not display their beauty except to their husbands, their fathers, their husband's fathers, their sons, their husband's sons, their brothers or their brothers' sons, or their sisters' sons or their women or the slaves whom their right hand possess or male servants free of physical needs, or small children who have no sense of the shame of sex; and that they should not strike their feet in order to draw attraction to their hidden ornaments. And O ye Believers! Turn ye all together towards Allah, that ye may attain Bliss.

(XXIV : 31) Y

### 4. WOMEN WHO MAY DISCARD VEILING

As for women past child-bearing, who have no hope of marriage, it is no sin for them if they discard their (outer) clothing in such a way as not to show adornment. But to refrain is better for them. Allah is Hearer, Knower.

(XXIV : 60) P

### 5. VEILING WHILE GOING OUTDOORS

O Prophet! Tell thy wives and thy daughters and the women of the believers to draw their cloaks close round them (when they go abroad). That will

### ۳- حدود الحجاب للسرأة

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمَخْرُجِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

(۲۴ : ۳۱)

### ۴- من لا تتجب من النساء

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

(۲۴ : ۶۰)

### ۵- كيف يجب أن تخرج النساء

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ رَجَعْتَ وَأَجِبْ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى

### ۳- عورتوں کے لئے پردہ کی حدود

اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شوگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر ہونے دیا کریں مگر حوس میں سے کھلا رہتا ہوا لہنے سینوں پر اور ہنسیاں اور رخسے رکھیں اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجیوں اور بھانجیوں اور اپنی وہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدمت کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں (فرض ان لوگوں کے سوا) کسی پر اپنی زینت (اور سنگار کے مقامات) کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ اور اپنے پاؤں (ایسے پردے سے نہیں پر) نہ ماریں کہ جھنکار کٹوں میں پہننے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے اور منسوب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

(۲۴ : ۳۱)

### ۴- کونسی عورتیں پردہ اتار سکتی ہیں

اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں ہے اور وہ کپڑے اتار کر نہ نکلا کر، یا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ اپنی زینت کی چیزیں ظاہر کریں۔ اور اگر اس سے بھی نہیں توبہ، لے جس میں بہتر ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔

(۲۴ : ۶۰)

### ۵- عورتوں کو کیسے باہر نکلنا چاہیے

اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو (باہر نکلا کریں تو) اپنے (منہوں) پر چادر رکھا (رکھ کر ٹھٹھ نکال) یا کریں یہ امر ان کے لئے موجب

be better, so that they may be recognised and not annoyed. Allah is ever Forgiving, Merciful.

(XXXIII : 59) P

#### 6. INSTRUCTIONS FOR DOMESTIC SERVANTS AND MINORS

O ye who believe! Let your slaves, and those of you who have not come to puberty, ask leave of you at three times (before they come into your presence): before the prayer of dawn, and when ye lay aside your raiment for the heat of noon, and after the prayer of night, three times of privacy for you. It is no sin for them or for you at other times, when some of you go round attendant upon others (if they come into your presence without leave). Thus Allah maketh clear the revelations for you. Allah is Knower, Wise.

(XXIV : 58) P

#### 7. PERMISSION TO ENTER IS NECESSARY FOR SONS EVEN ON ATTAINING PUBERTY

And when the children among you come to puberty then let them ask leave even as those before them used to ask it. Thus Allah maketh clear His revelations for you. Allah is Knower, Wise.

(XXIV : 59) P

أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ  
عَفُورًا رَحِيمًا ۝  
(۵۹ : ۳۳)

۶۔ الاحکام لخدمت البيت والذین  
لم يبلغوا الحلم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَ الَّذِينَ  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ  
مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ  
حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ  
مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ  
لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ ذَلِكَ  
طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

(۵۸ : ۴۴)

۷۔ يجب أن يستأذن الأبناء عند  
بلوغهم الحلم

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ  
فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝  
(۵۹ : ۴۴)

شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا اور  
اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔  
(۵۹ : ۳۳)

۶۔ گھریلو ملازمین اور نابالغوں  
کے لئے احکام

مومنوں تمہارے غلام لونڈیاں اور بچے تمہیں سے بلوغ کو نہیں پہنچے  
تین دفعہ (یعنی تین اوقات میں) تم سے اجازت لیا کریں (ایک تو  
نماز صبح سے پہلے اور دوسرا گرمی کی) دوپہر کو جب تم کپڑے اتارتے  
ہو اور تیسرا) عشا کی نماز کے بعد (یہ تین وقت تمہارے  
پرو سے دے) ہیں۔ ان کے (آگے) چمچے (یعنی دوسرے وقتوں  
میں انہم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ دکھ کچھ کئے) ایک  
دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول  
کھول کر بیان فرماتا ہے لہذا اللہ بڑا عظیم والا (اور) بڑا حکمت والا ہے۔

(۵۸ : ۳۳)

۷۔ بیٹوں کے لئے بھی بالغ ہونے پر  
اجازت لازم ہے

اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو انکو بھی اسی طرح اجازت  
لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے (یعنی بڑے آدمی) اجازت حاصل  
کرتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر  
بیان فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔  
(۵۹ : ۳۳)

## ECONOMIC PROVISIONS

### ECONOMY

#### 1 ALL LIVING CREATURES ARE SUSTAINED BY ALLAH

There is not a creature on the earth whose sustenance is not (provided) by Allah. He knows its resting-place and its repository. All is (recorded) in a glorious Book.

(XI 6) Z

And We have provided therein means of subsistence, for you and for those for whose sustenance you are not responsible.

(XV 20) Y

#### 2 ALLAH HAS DISTRIBUTED LIVELIHOOD AND POSITIONS AMONGST PEOPLE

Is it they who apportion their Lord's mercy? We have apportioned among them their livelihood in the life of the world, and raised some of them above others in rank that some of them may take labour from others and the mercy of thy Lord is better than (the wealth) that they amass.

(XLIII 32) P

## الاقتصادیات

### العیشت

۱۔ علی اللہ رزق کل دابة  
وما من دابة فی الارض الا  
علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها  
ومستودعها کل فی کتاب مبین ○

(۶: ۱۱)

وجعلنا لکم فیہا معاش ومن لکم  
لہ برزقین ○

(۲۰: ۱۵)

۲۔ قسم اللہ معاش ودرجات  
بین الناس

ألم یقسمون رحمۃ ربک لحسن  
بینہم معیشہم فی الحیوة الدنیا و  
رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیخذ  
بعضہم بعضا سخریاء ورحمت ربک  
خیر مما یجمعون ○

(۳۲: ۴۳)

## معاشیات

### معیشت

۱۔ ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے  
اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ  
کے ذمے ہے وہ جہاں رہتا ہے اُسے ہی جانتا ہے اور جہاں  
سونا جاتا ہے اُسے ہی سب کو کتاب و سن میں لکھا ہوا ہے

(۶: ۱۱)

اور ہم ہی نے تمہارے لئے اور ان لوگوں کیلئے جنکو تم  
روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کئے

(۲۰: ۱۵)

۲۔ معیشت اور درجات کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں  
میں تقسیم کر دیا ہے

کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو باندھے ہیں؟  
ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم  
کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بند کئے تاکہ ایک  
دوسرے سے خدمت لے اور جو کچھ جمع کرتے ہیں تمہارے  
پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔

(۳۲: ۴۳)

### 3. ALLAH INCREASES OR DECREASES SUSTENANCE AS HE PLEASURES FOR WHOM HE PLEASURES

Lo! thy Lord enlargeth the provision for whom He will, and straiteneth (it for whom He will). Lo! He was ever knower, Seer of His slaves.

(XVII : 30) P

That it is He Who giveth wealth and satisfaction;

(LIII : 48) Y

See they not that Allah enlarges the provision and restricts it, to whomsoever He pleases? Verily in that are Signs for those who believe.

(XXX : 37) Y

Say (O Muhammad): Lo! my Lord enlarges the provision for whom He will and narroweth it (for whom He will). But most of mankind know not.

(XXXIV : 36) P

Know they not that Allah enlarges providence for whom He will, and straiteneth it (for whom He will)---

(XXXIX : 52) P

### 4. ALLAH PROVIDES HIS SERVANTS FROM UNSUSPECTED QUARTERS

And will provide for him from (a quarter) whence he has no expectations. And whosoever putteth his trust in Allah, He will suffice him.---

(LXV : 3) P

### 5. WEALTH SHOULD NOT CIRCULATE AMONGST THE AFFLUENT ONLY

That which Allah giveth as spoil unto His messenger from

### ۳- اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّكَ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ○

(۳۰ : ۱۷)

وَأِنَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ وَالْأَفْنَى ○

(۴۸ : ۵۲)

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ مُّؤْمِنُونَ ○

(۳۷ : ۳۰)

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

(۳۹ : ۳۶)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ----

(۵۲ : ۳۹)

### ۴- اللہ یرزق من یشاء من حیث لا یحسب

وَيَرْزُقُهُ مِمَّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ----

(۳ : ۹۵)

### ۵- لا یجوز کون المال دولةً بین الاغنیاء

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى

### ۳- اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے فراخ یا تنگ کر دیتا ہے

بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور (ان کو) دیکھتا ہے۔

(۳۰ : ۱۷)

اور یہ کہ وہی غنی رہتا ہے اور غریب (دیکھ کر محظوظ اور ہلکی رکھتا ہے) (۳۰ : ۱۷)

(۴۸ : ۵۲)

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کیلئے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

(۳۷ : ۳۰)

کہہ دو کہ میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

(۳۹ : ۳۶)

کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کیلئے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کیلئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے.....

(۵۲ : ۳۹)

### ۴- اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو

اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے (وہم) گمان بھی ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کیا تو وہ اسکو کفایت کرے گا.....

(۳ : ۹۵)

### ۵- مال دولت مندوں کے ہاتھوں میں نہ پھرتے رہنا چاہیے

اور جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیات والوں سے لایا ہے

the people of the township, it is for Allah and His messenger and for the near of kin and the orphans and the needy and the wayfarer, that it become not a commodity between the rich among you-----

(LIX : 7) P

### 6. HOARDING OF GOLD AND SILVER BRINGS PAINFUL CHASTISEMENT

34 ----- They who hoard up gold and silver and spend it not in the way of Allah, unto them give tidings (O Muhammad) of a painful doom: 35. On the Day when it will (all) be heated in the fire of hell, and their foreheads and their flanks and their backs will be branded therewith (and it will be said unto them): Here is that which ye hoarded for yourselves. Now taste what ye used to hoard.

(IX : 34-35) P

### 7. ONLY THE MISGUIDED CHERISH RICHES

20. And love wealth with abounding love. 21. Nay, but when the earth is ground to atoms, grinding grinding, 22. And thy Lord shall come with angels, rank on rank, 23. And hell is brought near that day; on that day man will remember, but how will the remembrance (then avail him)? 24. He will say: Ah, would that I had sent before me (some provision) for my life!

(LXXXIX : 20-24) P

### 8. DESIRE FOR WORLDLY INCREASE MAKES ONE NEGLECT OF VIRTUOUS LIFE

1. Rivalry in wordly increase distracteth you 2. Until you come to the graves.

(CII : 1-2) P

قُلِّلِهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ  
دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ -----

(۷ : ۵۹)

### ۶- جمع الذهب والفضة عذاب الیم

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  
يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا  
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا  
مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝

(۲۵-۲۴: ۹)

### ۷- حب المال عين الضلال

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝  
كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝  
وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝  
وَجِئْتَنِي يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ  
يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ۝  
يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۝

(۴۴-۴۰: ۸۹)

### ۸- طلب المال المفرط يجعل الانسان غافلا

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۝  
حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝

(۴-۱: ۱۰۴)

وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور (پیغمبر کے) قربت میں کے اور  
یتیموں کے اور ماہتمیوں کے اور مسافروں کے لئے ہے تاکہ لوگ  
تم میں دولت مند ہی نہیں کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے۔۔۔

(۷ : ۵۹)

### ۶- سونا چاندی جمع کرنا تو عذاب الیم ہے

۔۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسکو اللہ کے  
رستے میں خرچ نہیں کرتے انکو اس دن کے عذاب الیم کی خبر سنا دو  
جس دن وہ (مال) دوزخ کی آگ میں (خوب) گرم کیا جائیگا پھر  
اس سے ان (ذخیروں) کی پیشیاں اور پہلو اور پیٹیں داغ جائیں گی  
(اور کہا جائے گا کہ) یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لئے جمع  
کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے (اب) اس کا مزہ چکھو ۝

(۲۵-۲۴ : ۹)

### ۷- مال کو بہت ہی عزیز رکھنا عین گمراہی ہے

اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو ۝ تو جب زمین کی بلندی گڑ گڑ کر  
کریں گے اور زمین دکڑ دکڑ کر رہ جائے گی ۝ اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما کر آئے گا اور  
قطار باندہ باندہ آکر اسکو دہرائے گا ۝ اور دوزخ اس دن ملنے کی  
جائے گی تو انسان اس دن متنبہ رہے گا (اب ہاتھ دے) اُسے  
(ظاہر) کہاں (دل کے) گا؟ ۝ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی  
(جاودانی) کے لئے کچھ آگے بھیا ہوتا ۝

(۴۴-۴۰ : ۸۹)

### ۸- بہت مال کی طلب انسان کو غافل کر دیتی ہے

(لوگو) تم کو (مال کی) بہت سی طلب نے غافل کر دیا  
یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں ۝

(۴-۱ : ۱۰۴)

### 9. HOARDING RICHES IS FORBIDDEN

16. Eager to roast, 17. It calleth him who turned and fled (from truth), 18. And hoarded (wealth) and withheld it.

(LXX : 16-18) P

### 10. THOSE WHO PILE UP WEALTH AND COUNT IT MANY TIMES WILL BE THROWN INTO THE DESTROYING FLAME

2. Who amasses wealth and counts it, 3. Thinking his wealth will render him immortal! 4. By no means! They shall be flung to the Destroying Flame.

(CIV : 2-4) Z

### 11. AVARICE: SATAN FRIGHTENS OF POVERTY

The Evil One threatens you with poverty and bids you to conduct unseemly. Allah promiseth you His forgiveness and bounties.-----

(II : 268) Y

### 12. AVARICE: NIGGARDLI-NESS IS NOT GOOD

And let not those who hoard up that which Allah has bestowed upon them of His bounty think that it is better for them. Nay, it is worse for them. That which they hoard will be their collar on the Day of Resurrection.-----

(III : 180) P

### 13. AVARICE: A MISER PRACTISES STINGINESS AND URGES OTHERS TO BE STINGY ALSO

Who hoard their wealth and enjoin avarice on others, and

### ۹۔ لایجوز ایعار المال بعد جمعه

نَزَاعَةً لِّلشَّوْىِ ۝۱۶  
تَدْعُوْا مَنۢ أَذْبَرَ وُتُوْلًا ۝۱۷  
وَجَمَعَهَا وَاوْعَى ۝۱۸

(۱۸-۱۶: ۷۰)

### ۱۰۔ لیبذت فی الحطمة الذی جمع مالاً وعدده

الَّذِیۡ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَدَهُ ۝۲  
یَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُۥ اَخْلَدَکَ ۝۳  
کَلَّا لَیُنْبَذَنَّ فِی الْحَطْمَةِ ۝۴

(۴-۲: ۱۱۰۴)

### ۱۱۔ البخل۔ الشیطن یعدکم الفقر

الشَّیْطٰنُ یَعِدُّکُمْ الْفَقْرَ وِیَاْمُرُکُمْ  
بِالْفَحْشَآءِ ؕ وَاللّٰهُ یَعِدُّکُمْ مَّغْفِرَةً  
مِّنْهُ وَّفَضْلًا ۝۲۶۸

(۲۶۸: ۲۶۸)

### ۱۲۔ البخل۔ لایحسن البخل بالمال

وَلَا یُحْسِبَنَّ الَّذِیۡنَ یَبْخُلُوْنَ  
بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ  
خَیْرًا لِّهْمۡ ۭ بَلْ هُوَ شَرٌّ لِّهْمۡ ۭ  
سَیَظْوَقُوْنَ مَا بَخَلُوْا بِهٖ یَوْمَ  
الْقِیٰمَةِ ط ۝۱۸۰

(۱۸۰: ۱۸۰)

### ۱۳۔ البخل۔ البخل یبخل ویعلم الناس

البخل  
الَّذِیۡنَ یَبْخُلُوْنَ وِیَاْمُرُوْنَ النَّاسَ  
بِالْبُخْلِ وِیَكْمُوْنَ مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ

### ۹۔ مال کو جمع کر کے بند نہیں کرنا چاہیے

کھال ڈھیر ڈالنے والے ۱۶) اُن لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے (دین حق سے) اعراض کیا اور مٹھیر لیا ۱۷) اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا ۱۸)

(۱۸-۱۶: ۷۰)

### ۱۰۔ حرص سے مال جمع کر کے اُس کو

بار بار گننے والے توڑ پھوڑ کر نیوالی آگ (حطمة) میں ڈالے جائیں گے

جو مال جمع کرتا اور اُس کو گن گن کر رکھتا ہے ۲) اور نہیں کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا ۳) نہ تو نہیں وہ نہ حطمة میں ڈالا جائیگا

(۴-۲: ۱۱۰۴)

### ۱۱۔ کنجوسی شیطان تو مٹھسی سے ڈرتا ہے

اور رکھنا، شیطان (کا کبنا ماننا وہ تمہیں تندستی کا خوف دلانا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے...

(۲۶۸: ۲۶۸)

### ۱۲۔ کنجوسی۔ مال میں بخل کرنا اچھا نہیں

جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں (وہ اچھا نہیں) بلکہ ان کیلئے برا ہے وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اُس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا....

(۱۸۰: ۱۸۰)

### ۱۳۔ کنجوسی۔ کنجوس خود بھی بخل کرتا اور لوگوں

کو بھی بخل سکھاتا ہے جو مال اللہ نے اُن کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور



hide that which Allah has bestowed upon them of His bounty. For disbelievers We prepare a shameful doom;

(IV : 37) P

#### 14. ALLAH DOES NOT LOVE THE SPENDTHRIFT

---- and eat and drink, but be not prodigal. Lo! He loveth not the prodigals.

(VII : 31) P

#### 15. THE WASTRELS ARE THE BROTHERN OF SATAN

26. ... and squander not (thy wealth) in wantonness. 27. Lo! the squanderers were ever brothers of the devils, and the devil was ever an ingrate to his Lord.

(XVII : 26-27) P

#### 16. HOW TO SPEND

And let not thy hand be chained to thy neck nor open it with a complete opening, but thou sit down rebuked, denuded.

(XVII : 29) P

And those who, when they spend, are neither prodigal nor grudging; and there is ever a firm station between the two;

(XXV : 67) P

#### 17. COMMERCE IS LAWFUL IN RELIGION

---- they say: Trade is just like usury; whereas Allah permit-teth trading and forbiddeth usury.-----

(II : 275) P

#### 18. TRADE WITH MUTUAL AGREEMENT

O ye who believe! Squander not your wealth among your-

مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ  
عَذَابًا مُّهِينًا ۝

(۳۷: ۴)

۱۴- إن الله لا يحب المفسرف البذر

---- وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۝

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝

(۳۱: ۷)

۱۵- المبدرون إخوان الشياطين

---- وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ۝

إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

(۲۶-۲۷: ۱۷)

۱۶- بيان كيفية الإنفاق

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ

مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝

(۲۹: ۱۷)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ

يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝

(۶۷: ۲۵)

۱۷- أحل الله البيع

---- قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

الرِّبَا وَمَآ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَا ۝

(۲: ۲۷۵)

۱۸- التجارة عن تراض

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

چھپا چھپا کے رکھیں۔ اور ہم نے ناشکروں کے لئے ذلت کا  
عذاب تیار کر رکھا ہے۔

(۳۷: ۴)

۱۴- فضول خرچ کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا

.... اور کھاؤ اور پیو اور بے جا نہ اڑاؤ کہ اللہ  
بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

(۳۱: ۷)

۱۵- فضول خرچ تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں

... اور فضول خرچ سے مل نہ اڑاؤ ۝ کہ فضول خرچ کی گزیر لے تو  
شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں، کافران  
کونے والا یعنی ناشکر ہے ۝

(۲۶-۲۷: ۱۷)

۱۶- خرچ کیسے کرنا چاہیے

اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گون سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کرلو  
کہ کسی کو کھمبہ نہیں ہاندہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کو دے ڈالو اور  
انجام یہ ہو کہ طاقت نہ دہ اور در ماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔

(۲۹: ۱۷)

اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو بے جا اڑاتے ہیں اور نہ ملے کو کام  
میں لاتے ہیں۔ بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔

(۶۷: ۲۵)

۱۷- تجارت کو حلال قرار دیا ہے

... وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا ہی تو نفع کے لئے ہے (یسا ہی ہے  
جیسے سود) (یہاں) حالانکہ سود کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔

(۲: ۲۷۵)

۱۸- باہمی رضامندی سے تجارت

مومنو! ایک دوسرے کا مال نامتق نہ کھاؤ ہاں اگر آپس  
کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے

selves in vanity, except it be a trade by mutual consent,-----

(IV : 29) P

### 19. BE JUST IN USE OF WEIGHTS AND MEASURES

1. Woe to those that deal in fraud,— 2. Those who, when they have to receive by measure, from men, exact full measure, 3. But when they have to give by measure or weight to men, give less than due. 4. Do they not think that they will be called to account?

(LXXXIII : 1-4) Y

152. Say: Come, I will recite unto you that which your Lord hath made a sacred duty for you:--- 153.--- Give full measure and full weight, in justice---

(VI : 152-153) P

--- so give full measure and full weight, and wrong not mankind in their goods,---

(VII : 85) P

Fill the measure when ye measure, and weigh with a right balance; that is meet, and better in the end.

(XVII : 35) P

181. Give full measure, and be not of those who give less (than the due). 182. And weigh with the true balance. 183. Wrong not mankind in their goods, and do not evil, making mischief in the earth.

(XXVI : 181-183) P

7. And the sky He has uplifted; and He hath set the measure. 8. That ye exceed not the measure, 9. But observe the measure strictly, nor fall short thereof.

(LV : 7-9) P

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ تَف .....  
(۲۹: ۴)

۱۹۔ اعدلوا عند الكيل والوزن

وَيَلِّمُ الْمُطَقِفِينَ ①

الَّذِينَ إِذَا كَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ②  
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ③  
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ④

(۴-۱: ۸۳)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي كُفْرًا  
عَلَيْكُمْ ⑤ ----- وَأَوْفُوا

الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ⑥ -----  
(۱۵۳-۱۵۲: ۶)

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ

وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ⑦  
(۸۵: ۷)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا  
بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ⑧ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا ⑨  
(۳۵: ۱۷)

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ⑩  
وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ⑪  
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا  
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ⑫  
(۱۸۳-۱۸۱: ۲۹)

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ⑬

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ⑭

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ⑮

(۹-۷: ۵۵)

مال فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے).....

(۲۹: ۴)

۱۹۔ ناپ اور تول میں انصاف کرو

ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لئے خرابی ہے ① جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں ② اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں ③ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے ④

(۴-۱: ۸۳)

کہو کہ لوگو! آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سنائوں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں... ⑤ اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو... ⑥

(۱۵۳-۱۵۲: ۶)

... تو تم ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو.....

(۸۵: ۷)

اور جب (کوئی چیز) ناپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور جب تول کر دو تو (توازن) سیدھی رکھ کر تول کرو۔ یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت ہے۔

(۳۵: ۱۷)

دیکھو! پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو ⑩ اور توازن سیدھی رکھ کر تول کرو ⑪ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو ⑫

(۱۸۳-۱۸۱: ۲۹)

اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور توازن قائم کیا ⑬ کہ توازن (سے تولنے) میں حد سے تجاوز نہ کرو ⑭ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو ⑮

(۹-۷: ۵۵)

## 20. PROCEDURE FOR FIXED TERM DEBTS AND CASH TRANSACTIONS

O ye who believe! When ye contract a debt for a fixed term, record it in writing. Let a scribe record it in writing between you in (terms of) equity. No scribe should refuse to write as Allah has taught him, so let him write, and let him who incurth the debt dictate, and let him observe his duty to Allah his Lord, and diminish naught thereof. But if he who oweth the debt is of low understanding, or weak, or unable himself to dictate, then let the guardian of his interest dictate in (terms of equity). And call to witness, from among your men, two witnesses. And if two men be not (at hand) then a man and two women, of such as ye approve as witnesses, so that if the one erreth (through forgetfulness) the other will remember. And the witnesses must not refuse when they are summoned. Be not averse to writing down (the contract) whether it be small or great, with (record of) the term thereof. That is more equitable in the sight of Allah and more sure for testimony, and the best way of avoiding doubt between you; save only in the case when it is actual merchandise which ye transfer among yourselves from hand to hand. In that case it is no sin for you if ye write it not. And have witnesses when you sell one to another, and let no harm be done to scribe or witness. If ye do (harm to them) lo! it is a sin in you. Observe your

۲۰۔ طریقہ الاقراض لأجل مسمى  
والتجارة الحاضرة  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَّيْتُمْ  
بِذَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَالْكَتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ  
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا  
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ  
أَنْ يُمِلَّ هُوَ فليُمِلَّ وَلِيُّهُ  
بِالْعَدْلِ وَأَسْشْهُدُوا شَهِيدَيْنِ  
مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا  
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا  
الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا  
مَادُّوهُمُ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ  
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ  
ذَلِكَ أَوْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا  
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا  
يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ

۲۰۔ میعادى قرض اور دست بدست  
سودے کا طریق کار

مومنو! جب تم آپس میں کسی میعاد میں کے لئے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اسکو لکھ لیا کرو اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے۔ نیز لکھنے والا جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے۔ اور جو شخص قرض لے وہی (دستاویز کا) مضمون بول کر لکھوائے اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے اور اپنے میں سے دو مردوں کو (ایسے معاملے کے) گواہ کر لیا کرو۔ اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو (کافی ہیں) کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائیگی تو دوسری اُسے یاد دلا دے گی۔ اور جب گواہ (گواہی کے لئے) طلب کئے جائیں تو انکار نہ کریں۔ اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس (کی دستاویز) کے لکھنے لکھانے میں کابلی نہ کرنا۔ یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے اور شہادت کے لئے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے۔ اس قسم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر (ایسے معاملے کی) دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور جب خرید و فروخت کیس کر دو تو بھی گواہ کر لیا کرو۔ اور کاتب دستاویز اور گواہ (معاملہ کرنے والوں کا) کسی طرح کا نقصان نہ کریں۔ اگر تم دو لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لئے گناہ کی بات ہے اور اللہ سے ڈرو اور

duty to Allah. Allah is teaching you. And Allah is Knower of all things.

(II : 282) P

### 21. TRANSACTIONS DURING JOURNEY

If you be on a journey and cannot find a scribe, then a pledge in hand (shall suffice). And if one of you entrusts to another let him who is trusted deliver up that which is entrusted to him (according to the pact between them) and let him observe his duty to Allah. Hide not testimony. He who hideth it, verily his heart is sinful. Allah is aware of what ye do.

(II : 283) P

### 22. IF THE DEBTOR IS INDIGENT WRITE OFF THE LOAN OR GIVE CHANCE TO REPAY

And if the debtor is in straitened circumstances, then (let there be) postponement to (the time of) ease; and that ye remit the debt as almsgiving would be better for you if you did but know.

(II : 280) P

### 23. INJUNCTIONS AGAINST INTEREST

O ye who believe! Devour not usury, doubling and quadrupling (the sum lent). Observe your duty to Allah, that ye may be successful.

(III : 130) P

O, ye who believe! Observe your duty to Allah, and give up what remaineth (due to you) from usury, if you are (in truth) believers.

(II : 278) P

تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

(۲۸۲:۲)

۲۱۔ طریقہ الاقراض اثناء السفر

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا  
كَاتِبًا فِرْهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ  
أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلْيَتَّقِ  
اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ  
وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

(۲۸۳:۲)

۲۲۔ اِذَا كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي  
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ أَوْ مَعَاوَةٌ

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ  
إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا  
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

(۲۸۰:۲)

۲۳۔ التَّائِيدُ عَلَى تَرْكِ الرِّبَا وَعَدَمُ أَكْلِهِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا  
الرِّبَا أضعافاً مضاعفةً ۖ واتَّقُوا  
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

(۱۳۰:۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا  
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

(۲۷۸:۲)

دیکھو کہ وہ تم کو (کسی مفید باتیں) سکھاتا ہے  
اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

(۲۸۲:۲)

۲۱۔ سفر کے دوران قرضہ کا طریق کار

اور اگر تم سفر پر ہو اور (کتابتین) لکھنے والا نہ مل سکے تو  
(کوئی چیز) دین باقبضہ رکھ کر (قرض لے لو) اور اگر کوئی  
کسی کو امین سمجھے یعنی دین کے بغیر قرض دے دے تو  
امانت دار کو چاہیے کہ صاحبِ امانت کی امانت یاد رکھے  
اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے اسے اور (دیکھنا)  
شبہوت کو مت چھپانا۔ جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا  
گنہگار ہوگا۔ اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

(۲۸۳:۲)

۲۲۔ اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو  
مہلت دو یا بخش دو

اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے (کشائش) کے  
حاصل ہونے تک مہلت دو اور اگر ذر ذر قرض بخش دو تو وہ  
تمہارے لئے زیادہ اچھا ہے۔ بشرطیکہ سمجھو۔

(۲۸۰:۲)

۲۳۔ سود نہ کھانے اور اس کو چھوڑ دینے کی تاکید

اسے ایساں والو! وگن چوگن سود  
نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات  
حاصل کرو۔

(۱۳۰:۳)

مومنو! اللہ سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو  
تو تمہارا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔

(۲۷۸:۲)

## 24. DIFFERENCE BETWEEN INTEREST AND TRADE

Those who swallow usury cannot rise up save as he arises whom the devil has prostrated by (his) touch. That is because they say: Trade is just like usury; whereas Allah permitteth trading and forbiddeth usury. He unto whom an admonition from his Lord cometh and (he) refraineth (in obedience thereto), he shall keep (the profits of) that which is past, and his affair (henceforth) is with Allah. As for him who returneth (to usury) Such are rightful owners of the Fire. They will abide therein.

(II : 275) P

## 25. DIFFERENCE BETWEEN INTEREST AND 'ZAKAT'

That which ye give in usury in order that it may increase on (other) people's property hath no increase with Allah; but that which ye give in charity, seeking Allah's countenance, hath increase manifold.

(XXX : 39) P

## 26. DIFFERENCE BETWEEN INTEREST AND CHARITY

Allah has belighted usury and made almsgiving fruitful. Allah loveth not the impious and guilty.

(II : 276) P

## 27. ILLICIT GAIN IS REPREHENSIBLE

62. Many of them dost thou see, racing each other in sin and rancour, and their eating of things forbidden. Evil indeed are the things that they do. 63. Why do not the Rabbis and the doctors of law forbid them from

## ۲۴۔ ما الفرق بين الربا والتجارة

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بَأْتَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

(۲۷۵: ۲)

## ۲۵۔ ما الفرق بين الربا والزكاة

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ○

(۳۹: ۳۰)

## ۲۶۔ ما الفرق بين الربا والصدقات

يَحَقُّ لِلَّهِ الرِّبَا وَوَيْرَبِي الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ○

(۲۷۶: ۲)

## ۲۷۔ أكل المحرام شئ سيئ

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ لَوْلَا يُنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ

## ۲۴۔ سود اور تجارت میں کیا فرق ہے

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (قدوں سے) اس طرح (جس بانٹے) اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے پٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا بھی تو (نفع کے لحاظ سے) ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سڑے کو لٹہ نے طلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ (سُورینے سے) باز آیا تو جو پہلے بوجھکا وہ اس کا اور (قیامت میں) اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں (بٹلتے) رہیں گے۔

(۲ : ۲۷۵)

## ۲۵۔ سود اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے

اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو اللہ کے نزدیک اُس میں افزائش نہیں ہوتی اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اُس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو (وہ) مرجع برکت بناو، ایسے ہی لوگ (اپنے مال) کو چند سہ چند کرنے والے ہیں۔

(۳۰ : ۳۹)

## ۲۶۔ سود اور صدقات میں کیا فرق ہے

اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت، کرتا اور خیرات (کی برکت) کو بڑھاتا ہے۔ اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو دوست نہیں کھاتا

(۲ : ۲۷۶)

## ۲۷۔ حرام کھانا بڑی چیز ہے

اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں۔ بیشک یہ جو کچھ کرتے ہیں بڑا کرتے ہیں ○ جہاں ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام

their (habit of) uttering sinful words and eating things forbidden? Evil indeed are their works.

(V : 62-63) Y

## 28. MISAPPROPRIATION OF ORPHAN'S PROPERTY

Give unto orphans their wealth. Exchange not the good for the bad (in your management thereof) nor absorb their wealth into your own wealth. Lo! that would be a great sin.

(IV : 2) P

## 29. BRIBERY IS FORBIDDEN

And eat not up your property among yourselves in vanity, nor seek by it to gain the hearing of the judges that ye may knowingly devour a portion of the property of others wrongfully.

(II : 188) P

Listeners for the sake of falsehood! Greedy for illicit gain! If then they have recourse unto thee (Muhammad) judge between them or disclaim jurisdiction----

(V : 42) P

## 30. CONSUME THAT WHICH IS LAWFUL

O mankind! Eat of that which is lawful and wholesome in the earth, and follow not the footsteps of the devil. Lo! he is an open enemy for you.

(II : 168) P

Eat of that which Allah has bestowed on you as food lawful and good,-----

(V : 88) P

عَنْ قَوْلِهِمْ اَلَا تَمَّ وَاَكْلَهُمُ الشُّحَّتْ  
لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝  
(۶۳ - ۶۲ : ۵)

۲۸۔ لا تتبدلوا مال اليتامى الطيب  
بمالكم الخبيث

وَاتُوا الْيَتَامَىٰ اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا  
الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا  
اَمْوَالَهُمْ اِلَىٰ اَمْوَالِكُمْ طَرِيقًا  
كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝  
(۴ : ۲)

۲۹۔ منع الرشاء

وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ اَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝  
(۱۸۸ : ۲)

سَمْعُوْنَ لِلكَذِبِ اَكْلُوْنَ لِلسُّحَّتِ ۝  
فَاِنْ جَاءَكَ وَاكْ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ  
عَنْهُم ۝  
(۴۲ : ۵)

۳۰۔ لا يجوز الا اكل الحلال

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْاَرْضِ  
حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطَانِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝  
(۱۶۸ : ۲)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۝  
(۸۸ : ۵)

کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلاشبہ  
وہ بھی برا کرتے ہیں ۝  
(۶۳ - ۶۲ : ۵)

۲۸۔ یتیموں کا عمدہ مال اپنے ناقص  
مال سے تبدیل نہ کرو  
اور یتیموں کا مال (جو تہری تمویل میں ہوا) نیکے حوالے کر  
دو اور ان کے پاکیزہ (اور عمدہ) مال کو اپنے ناقص  
اور بیکے مال سے نہ بدلو۔ اور ان کا مال اپنے مال میں  
ملا کر کھاؤ۔ کہ یہ بڑا سخت گنہہ ہے۔  
(۴ : ۲)

۲۹۔ رشوت کی ممانعت

اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اسکو  
(رشوت) حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال  
کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ اور (اسے)  
تم جانتے ہی ہو۔  
(۱۸۸ : ۲)

یہ (جو) باتیں بنانے کے لئے جاسوسی کرنے والے اور  
(رشوت کا) حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس (کوئی)  
متعدد فیصلے کرنے کو (آئی) تو تم اس میں فیصلہ کو نیا یا امر اس کو نیا۔  
(۴۲ : ۵)

۳۰۔ حلال چیزیں ہی کھانی چاہئیں

لوگو جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ۔  
اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا  
دشمن ہے  
(۱۶۸ : ۲)

اور جو حلال طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ۔۔۔۔  
(۸۸ : ۵)

So eat of the lawful and good food which Allah has provided for you, and thank the bounty of your Lord if it is Him ye serve.

(XVI : 114) P

### 31. RESTORE TRUSTS

Lo! Allah commandeth you that ye restore deposits to their owners,-----

(IV : 58) P

1. Successful indeed are the believers. 8. And who are shepherds of their pledge and their covenant.

(XXIII : 1,8) P

### 32. FAILURES FOR THE BETRAYERS OF TRUST

----- And that surely Allah guideth not the snare of the betrayers.

(XII : 52) P

It is not for any Prophet to deceive (mankind) whoso deceiveth will bring his deceit with him on the Day of Resurrection.-----

(III : 161) P

### MANDATORY ALMS (ZAKAT AND USHR)

Refer to "Worship of Allah"  
page 113

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا  
طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ  
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○  
(114 : 114)

### ۳۱۔ بحب رد الامانات

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا  
الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ----

(۵۸ : ۴)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ○  
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ○  
(۸۱ : ۴۳)

### ۳۲۔ للخائنين خسران

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ  
الْخَائِنِينَ ○  
(۵۲ : ۱۴)

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلِبَ وَ مَنْ  
يَغْلِبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
(۱۶۱ : ۳)

### الزكاة والعشر

لاحظ عنوان "عبادة الله" على الصفح رقم ۱۱۳

پس اللہ نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اُسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔

(۱۱۴ : ۱۶)

### ۳۱۔ امانت لوٹا دینی چاہیے

اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔۔۔۔

(۵۸ : ۴)

بیشک ایمان والے رستگار ہو گئے ○ اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں ○  
(۸۱ : ۴۳)

### ۳۲۔ خیانت کرنے والوں کیلئے ناکامی ہے

..... اور اللہ خیانت کرنے والوں کے مکروں کو رو براہ نہیں کرتا۔

(۵۲ : ۱۴)

اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اللہ کی خیانت کریں اور خیانت کرنے والوں کو قید رکھ دین خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے دہرے لاما نہ کرنے ہوگی۔

(۱۶۱ : ۳)

### زکوة وعشر

ملاحظہ فرمائیں "عبادات" صفحہ ۱۱۳

## VOLUNTARY ALMS (SADQAAT)

## الصدقات

## صدقات

### 1. DESCRIPTION OF CHARITY

The likeness of those who spend their wealth in Allah's way is as the likeness of a grain which groweth seven ears, in every ear a hundred grains. Allah giveth increase manifold to whom He will. Allah is All-Embracing All-Knowing.

(II : 261) P

### 2. GIVE CHARITY FOR ALLAH'S PLEASURE

And the likeness of those who spend their wealth in search of Allah's pleasure, and for the strengthening of their souls, is as the likeness of a garden on a height. The rainstorm smiteth it and it bringeth forth its fruit two-fold. And if the rainstorm smite it not, then the shower. Allah is Seer of what ye do.

(II : 265) P

24. And those in whose wealth is a recognized right. 25. For the (needy) who asks and him who is prevented (for some reason from asking):

(LXX : 24-25) Y

18. Those who spend their wealth for increase in self-purification, 19. And have in their minds no favour from any one for which a reward is expected in return, 20. But only the desire to seek for the Countenance of their Lord Most High, 21. And soon will they attain (complete) satisfaction.

(XCII : 18-21) Y

### ۱۔ بیان الصدقات

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ ثَمَرَةٌ وَسِتَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

(۲۶۱: ۲)

۲۔ انفقوا المال ابتغاء مرضاة الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتشبیهاً من أنفسهم كمثل حبة أنبت برتولاً أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ۝

(۲۶۵: ۲)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝<sup>۲۴</sup> لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝<sup>۲۵</sup>

(۲۵-۲۴: ۷۰)

الذین یؤتی مالہ یتزکی ۝<sup>۱۸</sup> وما لاحد عنده من نعمة تجزی ۝<sup>۱۹</sup> إلا ابتغاء وجه ربه الاعلیٰ ۝<sup>۲۰</sup> ولسوف یرضیٰ ۝<sup>۲۱</sup>

(۲۱-۱۸: ۹۲)

### ۱۔ خیرات کا بیان

جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں سو سو دانے ہوں اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ وہ بڑی کشائش والا (اور) سب کچھ جاننے والا ہے۔

(۲۶۱: ۲)

### ۲۔ خیرات اللہ کی خوشنودی کے لئے دو

اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اور غرض نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو (جب) اس پر مینہ پڑے تو دوگنٹ پھل لائے اور اگر مینہ نہ بھی پڑے تو خیر پھرا ہی رہی اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

(۲۶۵: ۲)

اور جن کے مال میں حق معلوم ہے ۝<sup>۲۴</sup> (یعنی) مانگنے والے کا۔ اور نہ مانگنے والے کا ۝<sup>۲۵</sup>

(۲۵-۲۴: ۷۰)

اور جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو ۝<sup>۱۸</sup> اور (اس لئے) نہیں (دیتا) اس پر کسی کا احسان (ہے) جس کا وہ بدلہ لاتا ہے ۝<sup>۱۹</sup> بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے دیتا ہے ۝<sup>۲۰</sup> اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا ۝<sup>۲۱</sup>

(۲۱-۱۸: ۹۲)



### 3. CHARITY IS A TRADE BUT WITHOUT LOSS

29. Those who rehearse the Book of Allah, establish regular Prayer and spend (in Charity) out of what We have provided for them, secretly and openly, hope for a Commerce that will never fail. 30. For He will pay them their need, nay, He will give them (even) more out of His Bounty :---

(XXXV 29-30) Y

### 4 WHAT SHOULD THE RICH DO

And spend something (in charity) out of the substance which We have bestowed on you, before Death should come to any of you and he should say "O my Lord! Why didst thou not give me respite for a little while? I should then have given (generally) in charity, and I should have been one of the doers of good"

(LXIII 10) Y

For those who give alms, both men and women, and lend unto Allah a goodly loan, it will be doubled for them, and theirs will be a rich reward.

(LVII 18) P

### 5 NO FEAR OR GRIEF FOR THE CHARITABLE

Those who (in charity) spend of their goods by night and by day, in secret and in public, have their reward with their Lord. On them shall be no fear, nor shall they grieve.

(II 274) Y

### 6. DEVIL PLACES FEAR OF POVERTY AS HURDLE IN THE WAY OF CHARITY

The Evil One threatens you with poverty and bids you to

### ۳- الانفاق تجارة لن تبور

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ۝۳۰ لِيُؤْتِيَهُمُ أَجْرَهُم مِّن فَضْلِهِ ۝۳۱

(۳۰-۲۹۱ ۳۵)

### ۴- ماذا يجب على اولى سعة

وَأَنفَقُوا مِّن مَّا رَزَقْنَاهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُن مِّن الصَّالِحِينَ ۝

(۱۰۱۶۳)

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لِّيُضْعِفَ لَهُمْ وَا لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۝

(۱۸: ۵۷)

۵- لا خوف على السفتين ولا هم يحزنون  
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

(۲۷۴: ۲)

۶- يعدكم الشيطان الفقر ويصدكم عن الانفاق  
الشَّيْطَانُ يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ

بِالْفَقْرِ وَيَأْمُرُكُمْ

### ۳- خیرات بغیر خسائے کی تجارت ہے

جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انکو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت (کے فائدے) کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی ۳۰ کیونکہ اللہ انکو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا ۳۱

(۳۰-۲۹: ۳۵)

### ۴- مقدر والوں کو کیا کرنا چاہیے

اور جو (مال) ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس (وقت) سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آجائے تو (اس وقت) کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے تمہاری سی اور بہت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا۔ اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔

(۱۰: ۶۳)

جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں مردھی اور عورتیں بھی اور اللہ کو (نیت) نیک (اور خلوص سے) قرض دیتے ہیں انکو دو چندان دیا جائے گا اور ان کے لئے عزت کا سلسلہ ہے۔

(۱۸: ۵۷)

### ۵- خیرات دینے والے بے خوف اور بے غم ہوں گے

جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر (راہ اللہ میں) خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا سلسلہ پروردگار کے پاس ہے۔ اور ان کو (قیامت کے دن) نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔

(۲۷۴: ۲)

۶- شیطان تو غربت کا خوف کھڑا کر کے خیرات میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے

(اور دیکھنا) شیطان (کا کہا زمانا وہ) تمہیں تنگدستی کا

conduct unseemly. Allah promi-  
seth you His forgiveness and  
bounties.----

(II : 268) Y

### 7. UNBELIEVERS' REAC- TION TO CHARITY

And when they are told,  
"Spend ye of (the bounties)  
with which Allah has provided  
you", you Unbelievers say to  
those who believe: "Shall we  
then feed those whom; if Allah  
had so willed, He would have  
fed, (Himself)? Ye are in nothing  
but manifest error."

(XXXVI : 47) Y

### 8. PRINCIPLES OF CHARI- TY

Ye will not attain unto  
piety until ye spend of that  
which ye love. And whatsoever  
ye spend, Allah is aware there-  
of.

(III : 92) P

Therefore the begger drive  
not away.

(XCH : 10) P

Kind words and the cover-  
ing of faults are better than  
charity followed by injury.----

(II : 263) Y

Those who spend their  
substance in the cause of Allah,  
and follow not up their gifts  
with reminders of their genero-  
sity or with injury,—for them  
their reward is with their Lord;  
On them shall be no fear, nor  
shall they grieve.

(II : 262) Y

### 9. GIVE CHARITY IN AD- VERSITY ALSO

Those who spend (of that  
which Allah has given them) in  
ease and in adversity,-----

(III : 134) P

بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّيْثِ وَاللَّغْوِ  
مِنْهُ وَفَضْلًا ----

(۲۶۸: ۲)

### ۷۔ مارد فعل الکفار للانفاق

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ  
اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ  
آمَنُوا أَنْفِقُوا مَنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ  
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○

(۴۷: ۳۶)

### ۸۔ اصول الانفاق

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا  
حَبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ○

(۹۲: ۳)

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ○

(۱۰: ۹۳)

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ  
مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى ○

(۲۶۳: ۲)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبَعُونَ مَا  
أَنْفَقُوا مِمَّا وَلَا آذَى لَهُمْ  
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

(۲۶۲: ۲)

### ۹۔ انفقوا في السراء والضراء

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ  
الضَّرَّاءِ ----

(۱۳۴: ۳)

خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور  
اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔۔۔۔  
(۲۶۸: ۲)

### ۷۔ خیرات پر کافروں کا رد عمل کیا ہوتا ہے

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے  
اس میں سے خرچ کرو۔ تو کافر منوں سے کہتے ہیں کہ بھلا  
ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود  
کھلا دیتا۔ تم تو صریح غلطی میں ہو۔

(۴۷: ۳۶)

### ۸۔ خیرات کے اصول

مومنوں! جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عین ہیں  
راہ اللہ میں صرف نہ کرو گے کہیں نیکی حاصل نہ کر سکو گے  
اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔

(۹۲: ۳)

اور مانگنے والوں کو بھڑکی نہ دینا۔

(۱۰: ۹۳)

جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے  
اُس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اسکی بے ادبی سے دور گزرنا بہتر ہے۔

(۲۶۳: ۲)

جو لوگ اپنا مال اللہ کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے  
بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور  
نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار  
کے پاس (تیار) ہے۔ اور (قیامت کے روز) نہ ان کو  
کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔

(۲۶۲: ۲)

### ۹۔ تنگی میں بھی خیرات کرو

جو آسودگی اور تنگی میں (اپنا مال اللہ کی راہ میں)  
خرچ کرتے ہیں۔۔۔۔

(۱۳۴: ۳)

## 10. ADVANTAGES AND REWARDS OF CHARITY

3. Who establish regular prayers and spend (freely) out of the gifts We have given them for sustenance: 4. Such in truth are the Believers: They have grades of dignity with their Lord, and forgiveness, and generous sustenance:

(VIII : 34) Y

Who is he that will loan to Allah a beautiful loan, which Allah will double into his credit and multiply many times? It is Allah that giveth (you) want or plenty.----

(II : 245) Y

Who is he that will lend unto Allah a goodly loan, that He may double it for him, and his may be a rich reward?

(LVII : 11) P

If ye lend unto Allah a goodly loan, He will double it for you and will forgive you, for Allah is Responsive Clement.

(LXIV : 17) P

---- And those saved from the covetousness of their own souls, they are the ones that achieve prosperity;

(LIX : 9) Y

## 11. WHOM TO GIVE

---- That which ye spend for good (must go) to parents and near kindred and orphans and the needy and the way-farer.----

(II : 215) P

(Charity is) for those in need, who, in Allah's cause, are restricted (from travel), and cannot move about in the land, seeking (for trade or work). The ignorant man thinks, because of

## ۱۰۔ اجر الانفاق و منافعة

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَهُمْ يُؤْتُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝  
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

(۴-۳۱۸)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ

(۲۴۵:۲)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

(۱۱ : ۵۷)

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضِعُّهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

(۱۷۱ : ۶۴)

وَمَنْ يُؤْتِ شَيْئًا مِّنْ نَّفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(۹ : ۵۹)

## ۱۱۔ بیان مستحق الصدقات

مَّا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالسَّبِيلِ

(۲۱۵: ۲)

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصُوا وَاتِّبَاعِ السَّبِيلِ  
اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ

## ۱۰۔ خیرات کا اجر اور فوائد

اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے انکو دیا ہے اس میں سے (نیک کاموں میں) خرچ کرتے ہیں ۵ یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لئے پروردگار کے ہاں (بڑے بڑے) اجر اور بخشش اور عزت کی سوزی ہے ۶

(۴-۳۱۸)

کوئی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا۔ اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور (وہی اسے کشادہ کرتا ہے)۔۔۔۔

(۲۴۵ : ۲)

کون ہے جو اللہ کو دینت (نیک) (اور نیک) قرض سے تڑوے اسکو اس سے نیک اور نیک اور اس کی عت کا صلہ (یعنی جنت) ہے۔

(۱۱ : ۵۷)

اگر تم اللہ کو (خیر) اور نیک (نیک) سے قرض ملے تو تم کو اس کا اجر دے گا اور تمہارا گناہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ قرض شناس اور بڑا بار ہے۔

(۱۷۱ : ۶۴)

اور جو شخص مومن سے پھانسیا لیا تو ایسے ہی لوگ کو لوٹنے والے ہیں۔

(۹ : ۵۹)

## ۱۱۔ مدد کے مستحق کون لوگ ہیں

جو مال خرچ کرنا چاہو وہ (دیکھو) جو اہل استحقاق یعنی (ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتسبوں کو اور مسافروں کو (سب کو دو)۔۔۔۔

(۲۱۵ : ۲)

اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان مجتہدوں کیلئے جو اللہ کی راہ میں لگے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف ملنے کی طاقت نہیں رکھتے (اور مانگنے سے مار لگتے ہیں) یہاں تک کہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف

their modesty, that they are free from want. Thou shalt know them by their (unfailing) mark: They beg not importunately from all and sundry.....

(II : 273) Y

The alms are only for the poor and the needy, and those who collect them, and those whose hearts are to be reconciled, and to free the captives and the debtors, and for the cause of Allah, and (for) the way-farers: a duty imposed by Allah. Allah is Knower, Wise.

(IX : 60) P

## 12. GIVE THE BEST IN THE WAY OF ALLAH

---- And do not even aim at getting anything which is bad, in order that out of it you may give away something, when ye yourselves would not receive it except with closed eyes.....

(II : 267) Y

They ask thee, (O Muhammad), what they shall spend. Say: That which ye spend for good,.....

(II : 215) P

## 13. HOW MUCH TO SPEND IN CHARITY

---- They ask thee how much they are to spend; Say: "What is beyond your needs".....

(II : 219) Y

## 14. HOW TO GIVE CHARITY

If ye disclose (acts of) charity, even so it is well. But if ye conceal them, and make them reach those (really) in need, that is best for you: It will remove from you some of your (stains of) evil.....

(II : 271) Y

أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ  
بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ  
الْحَافَاءَ -----  
(۲۷۳: ۲)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالسَّكِينِ  
وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَمَوْلَاةٍ فَمَوْجِبُهُمْ وَرَفِي  
تُرُقَابٍ وَالْغَارِبِينَ وَرَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ  
سَبِيلٍ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  
(۶۰: ۹)

۱۲۔ يجب انفاق الاجود في سبيل الله  
ولا  
تيمموا الخبيث منه تنفقون  
ولستم باخذيه الا ان تغضوا  
فيه -----  
(۲۶۷: ۲)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ  
مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ  
(۲۱۵: ۲)

۱۳۔ کم مالاً يجب انفاقه في سبيل الله  
-----  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا  
يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ -----  
(۲۱۹: ۲)

۱۴۔ كيف يجب انفاق المال في سبيل الله  
ان تبدوا الصدقات فنعما هي  
وان تخفوها وتؤتوها الفقراء  
فهو خير لكم ويكفر عنكم  
من سيئاتكم -----  
(۲۷۱: ۲)

شخص اگر غنی بنیاں کرتا ہے اور تمہارا پانی سے ان کو مان  
پہچان لو کہ ماہتمد میں اور شرم کے سبب لوگوں سے  
منہ چھوڑ کر اور اپنی گت کر نہیں سکتے.....  
(۲۶۳: ۲)

صدقات یعنی نیکوہ و خیرات تو مفلس اور محتاجوں کو دینا اور اگر ان کے ہاتھوں سے  
بے لگ کر یا کسی ایسی حالت میں دیا جائے کہ ان کے دل میں اور قصد و ارادوں  
کے قریب و آگے میں اور اللہ کی راہ میں دینا اور ان کو ان میں سے بھی دینا  
نہیں چاہیے بلکہ جو اللہ کی راہ میں دینا اور اللہ کی راہ میں دینا اور اللہ کی راہ میں دینا

۱۲۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہترین مال دینا چاہیے  
..... اور بڑی اور ناپاک چیز میں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر  
وہ چیز میں تمہیں دینی جائیں تو بجز اس کے کہ دیتے وقت  
آنہیں بند کرو تو ان کو کبھی نہ لو.....  
(۲۶۷: ۲)

۱۳۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کتنا مال خرچ کرنا چاہیے  
..... اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں  
کس طرح کا مال خرچ کریں کہ دو کہ جو بجا ہو خرچ کرو.....  
(۲۱۵: ۲)

۱۴۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کیسے خرچ کرنا چاہیے  
..... اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا  
کتنا مال خرچ کریں کہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو.....  
(۲۱۹: ۲)

۱۴۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کیسے خرچ کرنا چاہیے  
اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے اور  
اگر پوشیدہ دو اور وہی اہل حاجت کو تو  
وہ خوب تر ہے۔ اور اس طرح کا دینا تمہارے  
گناہوں کو بھی دور کر دے گا.....  
(۲۷۱: ۲)

Those who (in charity) spend of their goods by night and by day, in secret and in public.....

(II 274) Y

### 15. DO NOT SHOW OFF WHILE SPENDING

Nor those who spend of their substance, to be seen of men.....

(IV 38) Y

### 16. DO NOT BE MISERLY

Who hoard their wealth and enjoin avarice on others, and hide that which Allah has bestowed upon them of His bounty. For disbelievers We prepare a shameful doom:

(IV : 37) P

### 17. BE MODERATE IN CHARITY

And let not thy hand be chained to thy neck nor open it with a complete opening, lest thou sit down rebuked, denuded.

(XVII 29) P

### 18. BEHAVIOUR WITH THE POOR AND NEEDY

But if thou turn away from them, seeking mercy from thy Lord, for which thou hopest, then speak unto them a reasonable word.

(XVII : 28) P

### 19. THE AFFLUENT SHOULD GIVE TO THEIR RELATIVES AND THE NEEDY EVEN IF THEY ANNOY THEM

And let not those who possess dignity and ease among you swear not to give to the near of kin and to the needy, and to fugitives for the cause of

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ  
وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ---

(۲۷۴ : ۲)

۱۵۔ لاتنفقوا رما للناس

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ  
رِثَاءَ النَّاسِ ---

(۳۸ : ۴)

۱۶۔ لا تبخلوا

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ  
بِالبُخْلِ وَيَكْمُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ  
عَذَابًا مُهِينًا ○

(۳۷ : ۴)

۱۷۔ راقبوا الاعتدال في الإنفاق

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ  
وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ  
مَلُومًا تَحْسُورًا ○

(۲۹ : ۱۷)

۱۸۔ كيفية معاملة السائلين والفقراء

وَإِذَا تَعَرَّضْنَا عَنْهُمْ بَتِغَاءَ رَحْمَةٍ  
مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا  
مَّيْسُورًا ○

(۲۸ : ۱۷)

۱۹۔ يجب على أولى الفضل الإنفاق

على الأقارب والسائلين حتى  
في حالة عدم الرضى

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ  
أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَ

جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر  
(راہ اللہ) میں خرچ کرتے رہتے ہیں.....

(۲۷۴ : ۲)

۱۵۔ دکھاوے کا مال خرچ نہ کرو

اور خرچ بھی کریں تو اللہ کے لئے نہیں بلکہ  
لوگوں کے دکھانے کو.....

(۳۸ : ۴)

۱۶۔ بخل سے مت کام لو

جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو  
(مال) اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے  
چھپا چھپا کے رکھیں اور ہم نے ناشکروں کے لئے  
ذلت کا مذاب تیار کر رکھا ہے۔

(۳۷ : ۴)

۱۷۔ خیرات میں میا نہ روی اختیار کرو

اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا (یعنی بہت تنگ)  
کر لو (کسی کو کچھ دوسری نہیں) اور نہ بالکل کھول ہی و  
(کبھی کبھی ڈالو اور انعام یہ ہے کہ طاعت نہ اور روزانہ ہرگز بھلاؤ۔

(۲۹ : ۱۷)

۱۸۔ سائل اور غربا کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو

اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت (یعنی فراخ دستی) کے  
انتظار میں جس کی تمیں امید ہو ان (مستحقین) کی طرف توجہ  
نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو۔

(۲۸ : ۱۷)

۱۹۔ صاحب فضل کو رشتہ داروں اور

محتاجوں کے ساتھ ناراضگی کی حالت  
میں بھی خرچ دینا چاہیے

اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب مسرت ہیں وہ  
اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور

Allah. Let them forgive and show indulgence. Yearn ye not that Allah may forgive you? Allah is Forgiving, Merciful.

(XXIV : 22) P

## 20. GIVE WITHOUT REMINDER OR HARASSMENT

O ye who believe! Cancel not your charity by reminders of your generosity or by injury, —like those who spend their substance to be seen of men, but believe neither in Allah nor in the Last Day. They are in parable like a hard, barren rock, on which is a little soil; on it falls heavy rain, which leaves it (just) a bare stone.---

(II : 264) Y

## 21. DO NOT SCOFF AT POOR MAN'S CHARITY

Those who slander such of the believers as give themselves freely to (deeds of) charity, as well as such as confined nothing to give except the fruits of their labour,— and throw ridicule on them,—Allah will throw back their ridicule on them: And they shall have a grievous penalty.

(IX : 79) Y

## 22. KEEP COVENANT OF CHARITY WHEN ALLAH GRANTS PROSPERITY

And of them is he who made a covenant with Allah (saying): If He gives us of His bounty we will give alms and become of the righteous.

(IX : 75) P

المُهَجِّرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا  
وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ  
لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝  
(۲۴ : ۲۲)

۲۰۔ اعطوا الصدقات بدون المن والذى  
يأتيها الذين آمنوا لا تبتطئوا  
صدقتكم باليمن والذى كالذى  
ينفق ماله رياء الناس ولا  
يؤمن بالله واليوم الآخر  
فمثلته كمثل صفاوان عليه  
تراب فأصابه وابل فتركه  
صلدا ۝  
(۲۶۴ : ۲)

۲۱۔ لا تطعنوا في كية إفاق الفقراء

الذين يلمزون المطوعين من  
المؤمنين في الصدقات والذين لا  
يجدون إلا عهدهم فيخرون منهم  
بغير الله منهم ولهم عذاب أليم ۝  
(۷۹ : ۹)

۲۲۔ يجب الإيفاء بعهد الله عند  
قضاء الحاجة إلى الرزق والمال  
ومنهم من عهد الله لمن اتنا من فضله  
لنصدقن ولنكونن من الصالحين ۝  
(۷۵ : ۹)

دمن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں میں گے۔  
ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم پسند نہیں  
کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔  
(۲۲ : ۲۲)

۲۰۔ خیرات احسان جتائے اور دکھ دئیے بغیر دو  
مومن! اپنے صدقات (و خیرات) احسان رکھنے اور  
ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو  
لوگوں کو دکھاوے کے لئے مال خرچ کرتا ہے اور  
اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس (کے مال)  
کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی  
پڑی ہو اور اس پر زور کا میز برس کر اسے صاف  
کر ڈالے .....  
(۲۶۴ : ۲)

۲۱۔ غریب کی خیرات کا مذاق نہ اڑاؤ

جو فوجی استقامت (مسلمانوں کو) خیرات کرتے ہیں اور جو دہچکے  
غریب (صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے) اور تھوڑی سی  
کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں (ان پر جو منافق) طعن کرتے اور ہنستے  
ہیں اللہ ان پر ہنساتا ہے اور ان کیلئے تکلیف دینے والا عذاب (تیار) ہے۔  
(۷۹ : ۹)

۲۲۔ رزق و مال کی خواہش پوری کرنے پر اللہ تعالیٰ  
سے کہے ہوئے خیرات کے عہد کو پورا کرنا چاہیے  
لہذا میں بعض ایسے مومن اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہلت سے  
(مال) عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیک کاموں میں ہوں گے۔  
(۷۵ : ۹)

## BEQUEST AND INHERITANCE

### BEQUEST

#### 1. HOW TO MAKE A WILL

O ye who believe! When death approaches any of you, (take) witnesses among yourselves when making bequests, two just men of your own (brotherhood) or others from outside----

(V : 106) Y

#### 2. BEQUEST (WILL) DURING JOURNEY

----- If you are journeying through the earth, and the chance of death befalls you (thus), if you doubt (their truth) detain them both after prayer, and let them both swear by Allah "We wish not in this for any worldly gain, ever though the (beneficiary) be our near relation: We shall hide not the evidence before Allah: If we do, then behold! The sin be upon us!"

(V : 106) Y

#### 3. INJUNCTIONS REGARDING CHANGES IN WILL

And whoso changeth (the will) after he hath heard it-- the sin thereof is only upon those who change it. Lo! Allah is Hearer, Knower.

(II : 181) P

But he who feareth from a testator some unjust or sinful, clause, and maketh peace between the parties, (it shall be) no sin for him.-----

(II : 182) P

107. But then, if it is afterwards ascertained that both of

## أحكام الوصية والوراثة الوصية

### ۱- كيفية القيام بالوصية

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ---

(۱۰۶: ۵)

### ۲- الوصية أثناء السفر

أؤ---

أَخْرَيْنَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَنْ نُشْتَرِي بِهِنَّ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ○

(۱۰۶: ۵)

### ۳- أحكام تبديل الوصية

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

(۱۸۱: ۲)

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَاحًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ----

(۱۸۲: ۲)

فَإِنْ عُدِرَ عَلَىٰ آثِمًا اسْتَحَقَّ إِثْمًا

## احکام وصیت اور وراثت وصیت

### ۱- وصیت کیسے کرنی چاہیے

مومنو! جب تم میں سے کسی کی موت آمو رہو تو شہادت (کا نصاب) یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم (مسلمانوں) میں سے دو مرد عادل (یعنی صاحب اعتبار) گواہ ہوں....

(۱۰۶: ۵)

### ۲- سفر کے دوران وصیت

... یا اگر مسلمان زمین میں اور تم سفر کر رہے ہو اور (اس وقت) تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو (شخصوں کی) گواہ (کر لو) اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو انکو (موت کی) نماز کے بعد کھرا کر دو روزوں (تک) قسین کھائیں کہ تم شہادت کا کچھ عرض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ داری ہو۔ اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے اگر ایسا کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔

(۱۰۶: ۵)

### ۳- وصیت میں تبدیلی کے احکام

جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہیں لوگوں پر ہے جو اس کو دیکھیں اور بے شک اللہ سنا جانتا ہے۔

(۱۸۱: ۲)

اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی ارشاد کی (طرز فطری یا حق تعالیٰ کا اندیشہ ہو تو اگر وہ (وصیت کو بدل کر) وارثوں میں صلح کرادے تو اس پر کچھ گناہ نہیں....

(۱۸۲: ۲)

پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں (جوٹ بکر) گنہگار ہیں کیسے

them merit (the suspicion of) sin, let two others take their place of those nearly concerned, and let them swear by Allah, (saying): Verily our testimony is truer than their testimony and we have not transgressed (the bounds of duty), for then indeed we should be of the evildoers. 108. Thus it is more likely that they will bear true witness or fear that after their oath, the oath (of others) will be taken. So be mindful of your duty (to Allah) and hearken. Allah guideth not the froward folk.

(V : 107-108) P

## INHERITANCE

### 4. RELATIONSHIP WITH ADOPTED SONS

4. .... nor hath He made those whom ye claim (to be your sons) your sons. This is but a saying of your mouths. But Allah sayeth the truth and He showeth the way. 5. Proclaim their real parentage. That will be more equitable in the sight of Allah. And if ye know not their fathers, then (they are) your brethren in the faith, and your clients....

(XXXIII : 4-5) P

### 5. BLOOD RELATIONS HAVE PRIORITY OVER OTHERS

.... and those who are akin are nearer one to another in the ordinance of Allah....

(VIII : 75) P

.... Blood-relations among each other have closer personal ties, in the Decree of Allah, than (the Brotherhood of) Believers and Muhajirs (*fugitives*).

فَلْخَرَّ يَقُومِينَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِلَّا إِذَ الْإِذِ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٨﴾  
ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٩﴾

(۱۰۸-۱۰۷:۵)

## الوراثۃ

### ۴۔ العلاقة بالادعیاء

.... وَمَا جَعَلَ ادْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥﴾  
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاُولَٰئِكَ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ... ﴿٤﴾

(۵-۴: ۳۳)

### ۵۔ اولوالارحام بعضهم اولی بعض

وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ... ﴿٨﴾

(۷۵: ۸)

.... وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

میں لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہتا تھا انہیں سے انکی جگہ اور دو گلوہ کوٹے ہوں جو دیت سے (قرابت قریبہ کہتے ہوں پھر وہ لاشکی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت انکی شہادت سے بہت سچی ہے اور مجھے کوئی زیادتی نہیں کی۔ ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔ ﴿۱۰۸﴾ اس طریق سے بہت قریب جگہ پر لوگ صحیح صحیح شہادت دین یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری (شہادت انکی قسموں کے بعد ذکر دی جائیں گی۔ اور اللہ سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوشہ پوش سے سنو اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ﴿۱۰۹﴾

(۱۰۸-۱۰۷:۵)

## وراثت

۴۔ لے پالک بیٹوں سے کیا رشتہ ہے

... اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے ﴿۱۰۸﴾  
لے پالکوں کو ان کے (اصلی) باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں... ﴿۱۰۹﴾

(۵-۴: ۳۳)

دخون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں

.... اور رشتہ دار اللہ کے حکم کی رو سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں... ﴿۸﴾

(۷۵: ۸)

.... اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی رو سے مسلمانوں اور مجاہدوں سے ایک دوسرے (کے ترکے) کے زیادہ



Nevertheless do ye what is just to your closest friends: such is the writing in the Decree (of Allah).

(XXXIII : 6) Y

## 6. INHERITORS OF DECEASED'S PROPERTY

From what is left by parents and those nearest related, there is a share for men and a share for women, whether the property be small or large, — a determinate share.

(IV : 7) Y

## 7. CONSIDERATION FOR THE POOR AT THE TIME OF DISTRIBUTION

8. But if at the time of division other relatives, or orphans, or poor, are present, feed them out of the (property), and speak to them words of kindness and justice. 9. Let those (disposing of an estate) have the same fear in their minds as they would have for their own, if they had left a helpless family behind: Let them fear Allah, and speak words of appropriate (comfort):

(IV : 8-9) Y

## 8. SHARE OF HEIRS

11. Allah (thus) directs you as regards your children's (inheritance): to the male, a portion equal to that of two females: If only daughters, two or more, their share is two-third of the inheritance; if only one, her share is a half. For parents, a sixth share of the inheritance to each, if the deceased left children; if no children, and the parents are the (only) heirs, the mother has a third; if the deceas-

وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَٰكُمْ  
مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

(۶۱ : ۲۲)

## ۶۔ ورثاء مال الیٰت

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ  
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

(۷ : ۴)

## ۷۔ معاملہ الفقراء عند القسمة

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ  
مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا  
مَّعْرُوفًا ۝

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ  
خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا ۝

(۹-۸ : ۴)

## ۸۔ بیان من له نصیب فی مال الیٰت

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ  
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ  
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ  
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ  
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ  
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ مِمَّا  
تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ

حضر ہیں مگر کہ تم اپنے دوستوں سے اسان کنا چاہو۔  
یہ حکم کتاب (یعنی قرآن) میں لکھ دیا گیا ہے۔

(۶۱ : ۲۲)

## ۶۔ میت کے مال میں کس کس کو حق پہنچتا ہے

جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ میں  
چھوڑا ہو یا بہت اُس میں مردوں کا بھی حصہ  
ہے اور عورتوں کا بھی۔ یہ حصے (اللہ کے) مقرر  
کئے ہوئے ہیں۔

(۷ : ۴)

## ۷۔ تقسیم کے وقت غرباء کے ساتھ برتاؤ

اور جب میراث کی تقسیم کے وقت (فقراء، رشتہ دار اور یتیم اور محتاج  
آجائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ حصے دیا کرو اور یتیمیں کلامی  
سے پیش آیا کرو ۝ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو  
(ایسی حالت میں ہوں کہ) اپنے بعد نئے نئے بیٹے چھوڑ  
جائیں۔ اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے  
مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا، پس چاہیے  
کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور معقول بات کہیں ۝

(۹-۸ : ۴)

## ۸۔ میت کے مال میں کس کس کو کتنا ملنا چاہیے

اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے  
کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر  
ہے اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں  
(یعنی دو یا) دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان  
کا دو تہائی ملو اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اُس کا  
حصہ نصف۔ اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں  
میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ۔ بشرطیکہ

ed left brothers (or sisters), the mother has a sixth (The distribution in all cases is) after the payment of legacies and debts. Ye know not whether your parents or your children are nearest to you in benefit. These are settled portions ordained by Allah and Allah is All-Knowing, All Wise. 12. In what your wives leave, your share is a half, if they leave no child; but if they leave a child, ye get a fourth; after payment of legacies and debts. In what ye leave, their share is a fourth, if ye leave no child. But if ye leave a child, they get an eighth; after payment of legacies and debts. If the man or woman whose inheritance is in question has left neither ascendants nor descendants, but has left a brother or a sister, each one of the two gets a sixth; but if more than two, they share in a third; after payment of legacies and debts; so that no loss is caused (to anyone). Thus is it ordained by Allah, and Allah is All-Knowing, Most Forbearing. 13. Those are limits set by Allah: Those who obey Allah and His Apostle will be admitted to Gardens.----- 14. But those who disobey Allah and His Apostle and transgress His limits will be admitted to a Fire.-----

(IV : 11-14) Y

يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ  
فَلِأُمَّهِ الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ  
إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ  
بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ  
أَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ  
أَيُّكُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ  
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ⑩  
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ  
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا  
تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي  
بِهَا أَوْ دِينِ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا  
تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ  
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ  
السُّنُّ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ  
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً  
أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ  
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ  
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ  
مُضَآرٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑪ تِلْكَ حُدُودُ  
اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ⑫  
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ  
يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا

(۱۴-۱۱-۱۴) ⑫

میت کے اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف  
ماں باپ ہی اُس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں  
کا حصہ۔ اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا  
چھٹا حصہ (اور یہ تقسیم ترکہ میت کی) وصیت (کی تعمیل)  
کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے (ادا ہونے کے بعد  
جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی) تم کو معلوم نہیں  
کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں فائدے کے  
لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ صحت اللہ  
کے مقرر کئے ہوئے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا  
(اور) مکت والی ہے ⑩ اور جو مال تمہاری عمر میں چھوڑ  
میں۔ اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا اور  
اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ جو تمہاری (لیکن تقسیم)  
وصیت (کی تعمیل) کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے  
ادا ہونے کے بعد ان کے ذمے ہو کی جائے گی) اور جو  
مال تم (مرد) چھوڑو۔ اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری  
عورتوں کا اس میں چھٹا حصہ۔ اور اگر اولاد ہو تو ان  
کا آٹھواں حصہ (یہ صحت) تمہاری وصیت (کی تعمیل) کے بعد جو  
تم نے کی ہو اور (ادائے) قرض کے (بعد تقسیم کئے جائیں گے)  
اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہوں  
بیٹا نہ اُس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا  
چھٹا حصہ اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی  
میں شریک ہوں گے (یہ حصے بھی) بعد ادا کے وصیت قرض  
بشرطیکہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم  
کئے جائیں گے) یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ نہایت علم والا  
(اور) نہایت علم والا ہے ⑪ (تمام احکام) اللہ کی حدیں  
ہیں اور جو شخص اللہ اور اُس کے پیغمبر کی فرمانبرداری کرے گا اللہ اُس کو  
بہشتوں میں داخل کرے گا۔ ⑫ اور جو اللہ اور اُس کے رسول کی فرمانبرداری کرے  
اور اُس کی حدوں سے نکل جائے گا اُس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا ⑬

(۱۴-۱۱-۱۴)

### 9. PROPERTY OF DECEASED WITH NO SURVIVING CHILDREN OR PARENTS

They ask thee for a legal decision. Say Allah directs (thus) about those who leave no descendants or ascendants as heirs. If it is a man that dies, leaving a sister but no child, she shall have half the inheritance. If (such a deceased was) a woman, who left no child, her brother takes her inheritance. If there are two sisters, they shall have two-third of the inheritance (between them). If there are brothers and sisters, (they share), the male having twice the share of the female. Thus doth Allah make clear to you (His law), lest ye err. And Allah hath knowledge of all things.

(IV 177) Y

### 10. KEEP YOUR PLEDGE TO ALL HEIRS AND SHARERS

To (benefit) everyone, We have appointed shares and heirs to property left by parents and relatives. To those also to whom your right hand was pledged, give their due portion for truly Allah is witness to all things.

(IV 33) Y

### ۹۔ بیان الیت الذی لیس أبواہ

ولا أولادہ علی قید الحیاة

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا لَهْ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(۱۷۷: ۴)

### ۱۰۔ اعطوا كل ذي حق حقه

حسب العقد

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَانُؤْمُوا بِمَا عَقَدْتُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

(۳۳: ۴)

### ۹۔ ایسی میت جس کے زماں باپ نہ

اولاد زندہ ہوں

(اے پیغمبر) لوگ تم سے (کلام کے بارے میں) حکم (اللہ) دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ کلام کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ) اور اس کے بہن بہنوئی اس کو بھائی کے ترکے میں سے آواحقہ ملے گا اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا اور اگر (مرنے والے بھائی کی) دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے بھائی وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو تہائی اور عورت کے حصے برابر (یہ حکم اللہ تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ تم اپنے وارثوں کو جو حق ملتا ہے)

(۱۷۷: ۴)

### ۱۰۔ عہد و پیمان کے مطابق سب حقداروں

کو حصہ دو

اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑیں تو (حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار معترف کر دیئے ہیں۔ اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کے سامنے ہے۔)

(۳۳: ۴)

## SOCIAL LIFE

### SOCIAL MORES

#### 1. MAKE ROOM FOR OTHERS IN ASSEMBLIES

O ye who believe! When ye are told to make room in the assemblies, (spread out and) make room. (ample) room will Allah provide for you. And when you are told to rise up, rise up:-----

(LVIII: 11) Y

#### 2. SPEAK OF APPROVED THINGS

Say to My servants that they should (only) say those things that are best. For Satan doth sow dissensions among them:-----

(XVII: 53) Y

#### 3. BE MODEST IN BEARING AND VOICE

Be modest in thy bearing and subdue thy voice. Lo! the harshest of all voices is the voice of the ass.

(XXXI: 19) P

#### 4. DO NOT BE ARROGANT OR BOASTFUL

----- Lo! Allah loveth not such as are proud and boastful:

(IV: 36) P

## الحياة الاجتماعية

### آداب المجلس

#### ۱۔ تفسحوافی المجالس للآخرین

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا ----

(۱۱: ۵۸)

#### ۲۔ قولوا قولا حسنا

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ----

(۵۳: ۱۷)

#### ۳۔ اقصد في مشيكم واغضضوا من اصواتكم

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ○

(۱۹: ۳۱)

#### ۴۔ لاتكبروا ولا تكونوا فخورين

---- إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ○

(۳۶: ۴)

## سماجی زندگی

### آداب مجلس

#### ۱۔ مجلسوں میں دوسروں کو جگہ دو

ممنو جب تم سے کہا جائے مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو۔ اللہ تم کو کشادگی بخئے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو کرو۔ ----

(۱۱: ۵۸)

#### ۲۔ پسندیدہ باتیں ہی کہو

اور دوسروں سے کہنے والے (لوگوں) ایسی باتیں کہنا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں اور شیطان (بڑی باتوں) انہیں فساد دلا دیتا ہے۔ ----

(۵۳: ۱۷)

#### ۳۔ بول چال میں اعتدال رکھو

اور اپنی چال میں اعتدال کے رہنا اور (بہتے وقت) آواز نیچے رکھنا اور نیچے آواز لگھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بڑی آواز لگھوں کی ہے۔ ----

(۱۹: ۳۱)

#### ۴۔ تکبر نہ کرو اور نہ ہی بڑائی مارو

..... اللہ تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا

(۳۶: ۴)

### 5. AVOID SPEAKING ILL OF OTHERS EXCEPT WHEN YOU ARE WRONGED

Allah loveth not that evil should be noised abroad in public speech, except where injustice hath been done; for Allah is He Who heareth and knoweth all things. (IV : 148) Y

### 6. DO NOT BE HAUGHTY IN YOUR BEHAVIOUR

"And swell not thy cheek (for pride) at men, nor walk in insolence through the earth----

(XXXI : 18) Y

### 7. DO NOT IMPUTE YOUR FAULTS TO OTHERS

But if anyone earns a fault or a sin and throws it on to one that is innocent, he carries (on himself) (both) a falsehood and a flagrant sin.

(IV : 112) Y

### 8. ASCERTAIN THE TRUTH BEFORE ACCEPTING REPORT FROM A WICKED PERSON

O ye who believe! If a wicked person comes to you with any news, ascertain the truth, lest ye harm people unwillingly, and afterwards become full of repentance for what ye have done.

(XLIX : 6) Y

### 9. PURSUE NOTHING OF WHICH YOU HAVE NO KNOWLEDGE

And pursue not that of which thou hast no knowledge; for every act of hearing, or of seeing, or of (feeling in) the heart will be enquired into (on the Day of Reckoning).

(XVII : 36) Y

۵۔ لا تجھروا بالسوء من القول إلا  
فی حالة کونکم مظلومین  
لایحیبت اللہ الجھراً بالسوء من  
القول إلا من ظلمه وكان اللہ  
سمیعاً علیمًا ○  
(۱۴۸ : ۴)

۶۔ اجتنبوا التکبر فی سلوککم  
ولا تصعروا خدک ل للناس ولا تمشی فی  
الارض مرحاًہ۔۔۔۔  
(۱۸ : ۳۱)

۷۔ لا ترموا الابریاء بخطایاکم

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ اتَمَّ تَمَيُّزًا  
بِهِ بَرِيًّا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ○  
(۱۱۲ : ۴)

۸۔ ان جا رکم فاسق بنا فتبینوا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ  
بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ  
فَتُصِِحُّوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَدِيرًا ○  
(۶ : ۴۹)

۹۔ لا تقفوا ما ليس لكم به علم

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ  
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّهُ أُولَئِكَ  
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ○  
(۳۶ : ۱۷)

۵۔ ظالم کے سوا کسی کو منہ پھوڑ کر  
بڑا نہ کہو

اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ بڑا  
کہے مگر جو مظلوم ہو اور اللہ (سب کچھ) سنا دے اور جانتا ہے  
(۱۴۸ : ۴)

۶۔ اپنے رویے میں غرور سے اجتناب کرو  
اور (ازراہ غرور) لوگوں سے گال نہ چلانا اور زمین  
میں اگر نہ چلنا۔۔۔۔۔

(۱۸ : ۳۱)

۷۔ اپنے گناہ کو دوسروں کے ذمہ نہ لگاؤ

اور شخص کوئی قصہ یا گناہ تو خود کرے لیکن اس کسی بے گناہ کو  
بتہم کرے تو اس نے بہتان اور مزاح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔  
(۱۱۲ : ۴)

۸۔ بدکردار کی لائی ہوئی خبر کی تحقیق کر لیا کرو

مومنو! اگر کوئی بدکردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے  
تو خوب تحقیق کر لیا کرو (سبوا) کہ کسی قوم کو نادانی سے  
لفسان پہنچا دو پھر تم کو اپنے لئے پرنا دم ہونا پڑے۔

(۶ : ۴۹)

۹۔ ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا علم نہ ہو

اور (اسے بندے) جس چیز کا تجھے علم نہیں اس  
کے پیچھے نہ پڑ۔ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب  
(جوارج) سے ضرور باز پرس ہوگی۔

(۳۶ : ۱۷)

### 10. DO NOT SCOFF, DEFAME OR USE OFFENSIVE NICK-NAMES

O ye who believe! Let not some men among you laugh at others: It may be that the (latter) are better than the (former): Nor let some women laugh at others: It may be that the (latter) are better than the (former): Nor defame nor be sarcastic to each others, nor call each other by (offensive) nicknames: Ill-seeming is a name connoting wickedness (to be used of one) after he has believed:-----

(XLIX : 11) Y

### 11. DO NOT BE SCANDAL-MONGER AND BACKBITER

Woe to every (kind of) scandal-monger and backbiter,

(CIV : 1) Y

### 12. DO NOT SWEAR OVER TRIFLES

And make not Allah's (name) an excuse in your oaths against doing good, or acting rightly, or making peace between persons;-----

(II : 224) Y

### 13. AVOID SUSPECTING, PRY-ING AND BACKBITING

O ye who believe! Avoid suspicion as much (as possible): For suspicion in some cases is a sin: And spy not each other, nor speak ill of each other behind their backs. Would any of you like to eat the flesh of his dead brother?-----

(XLIX : 12) Y

### ۱۰۔ لاتسخروا من أحد ولا تلمزوا إخوانكم ولا تنابزوا بالألقاب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَنَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ

(۱۱ : ۴۹)

### ۱۱۔ لاتمشوا بالفيمة

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝

(۱ : ۱۰۴)

### ۱۲۔ لاتجعلوا الله عرضة لآيائكم

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِآيَاتِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۚ

(۲۲۴ : ۲)

### ۱۳۔ اجتنبوا الظن والغيبة ولا تجسسوا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ۚ

(۱۲ : ۴۹)

### ۱۰۔ نہ مذاق اڑاؤ، نہ طعنہ دو اور نہ ہی برائنام رکھو

مومنو! کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ عورتیں عورتوں سے (تمسخر کریں) ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں اور اپنے (مومن) بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برائنام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برائنام (رکھنا) گناہ ہے.....

(۱۱ : ۴۹)

### ۱۱۔ طعنہ زنی اور چیل خوری نہ کرو

ہر مومن آئینہ اشارتیں کرنے والے چیل خور کی خرابی ہے۔

(۱ : ۱۰۴)

### ۱۲۔ بات بات پر قسمیں نہ کھاؤ

اور اللہ (کے نام) کو اس بات کا جیل نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے ٹک جاؤ....

(۲۲۴ : ۲)

### ۱۳۔ گمان تجسس اور غیبت سے پرہیز کرو

اے اہل ایمان! بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں۔ اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس کیا کرو۔ اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟...

(۱۲ : ۴۹)

#### 14. REMAIN WITH THE RIGHTEOUS

O ye who believe! Fear Allah and be with those who are true (in word and deed).

(IX : 119) Y

#### 15. DO NOT BE INQUISITIVE ABOUT EVERYTHING

O ye who believe! Ask not questions about things which, if made plain to you, may cause you trouble.----

(V : 101) Y

#### 16. BE STRAIGHT FORWARD IN SPEECH

O ye who believe! Guard your duty to Allah and speak words straight to the point;

(XXXIII : 70) P

#### 17. DO NOT WHISPER TO EACH OTHER EXCEPT FOR PIETY

O ye who believe! When ye conspire together, conspire not together for crime and wrong doing and disobedience towards the messenger, but conspire together for righteousness and piety :----

(LVIII : 9) P

#### 18. HOW TO RESPOND TO HARSH WORDS

Repel evil with that which is best :----

(XXIII : 96) Y

#### 19. DO NOT SAY WHAT YOU DO NOT PRACTISE

2. O ye who believe! Why say ye that which ye do not? 3. It is most hateful in the sight of Allah that ye say that which ye do not.

(LXI : 2-3) P

#### ۱۴- کونوا مع الصادقین

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا  
مَعَ الصَّادِقِينَ ○

(۱۱۹ : ۹)

#### ۱۵- لا تسألوا عما لا يهمكم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَن شَيْءٍ  
إِن يُبَدَّلَ كَمَ تَسْأَلُونَ ----

(۱۰۱ : ۵)

#### ۱۶- قولوا قولا سديدا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا ○

(۷۰ : ۳۳)

#### ۱۷- لا تتاجروا إلا بالبر والتقوى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا  
تَتَنَاجَوْا إِلَّا بِالْبِرِّ وَالْعَدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ  
الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى ط ----

(۹ : ۵۸)

#### ۱۸- كيف تعامل من أساء اليك

إِذْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ----

(۹۶ : ۲۳)

#### ۱۹- لا تقولوا ما لا تفعلون

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا  
تَفْعَلُونَ ۚ

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ

(۳۰ : ۶۱)

#### ۱۳- سچے لوگوں کا ساتھ دو

اسے اہل ایمان! اللہ سے ڈرتے رہو اور راستبازوں کے ساتھ رہو۔

(۹ : ۱۱۹)

#### ۱۵- کرید کرید کر تمام باتیں نہ پوچھو

مومنو! ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر (اصلی حقیقتیں) تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمیں بری لگیں۔۔۔

(۵ : ۱۰۱)

#### ۱۶- سیدھی بات کہا کرو

مومنو! اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو۔

(۳۳ : ۷۰)

#### ۱۷- نیکی کی باتوں کے سوا آپس میں سرگوشیاں نہ کرو

مومنو! جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے کو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکو کاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا۔۔۔

(۵۸ : ۹)

#### ۱۸- سخت کلامی کا جواب کیسے دو

اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو۔۔۔

(۲۳ : ۹۶)

#### ۱۹- ایسی بات نہ کہو جو خود کرتے نہیں

مومنو! تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے ۚ اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں ۚ

(۶۱ : ۳۰-۲)

20. WHILE PLANNING TO DO SOMETHING SAY "IF IT PLEASES ALLAH"

23. Nor say of anything, "I shall be sure to do so and so tomorrow" — 24. Without adding, "So please Allah"! And call thy Lord to mind when thou forgettest, and say, "I hope that my Lord will guide me ever closer (even) than this to the right road."

(XVIII : 23-24) Y

21. WHILE ENJOINING VIRTUE DO NOT FORGET YOURSELF

Do ye enjoin right conduct on the people, and forget (to practise it) yourselves, and yet ye study the Scripture? Will ye not understand?

(II : 44) Y

SOCIAL RELATIONS

1. ALLAH MADE NATIONS AND TRIBES SO THAT THEY MAY KNOW EACH OTHER

O mankind! Lo! We have created you male and female, and have made you nations and tribes that ye may know one another.....

(XLIX : 13) P

2. YOU WILL LOSE POWER IF YOU QUARREL WITH ONE ANOTHER

And obey Allah and His messenger, and dispute not one with another lest ye falter and your strength depart from you; but be steadfast!.....

(VIII : 46) P

۲۰۔ لا تقولوا الشيء انما نفعل ذلك غدا الا ان يشاء الله

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۗ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ۗ وَادْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ اَنْ يُّهْدِيَ لِيْ رَّبِّيْ اِلٰقَرَبٍ مِّنْ هٰذَا رَشْدًا ۝۳۱

(۲۴-۲۳: ۱۸)

۲۱۔ لا تنسوا انفسكم وانتم تأمرون بالمعروف

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝۴۴

(۴۴: ۲)

العلاقات الإجتماعية

۱۔ جعل الله الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْتِى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبٰىلٍ لِتَعَارَفُوْا ۗ

(۱۳: ۴۹)

۲۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم

وَاطِيعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ۗ وَلَا تَنٰزَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذٰهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ۗ

(۴۶: ۸)

۲۰۔ کسی کام کو کرنے کی نسبت میں انشاء اللہ کہو

اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کریں اسے کل کو روزگاہ مگر انشاء اللہ کہہ کر یعنی اگر اللہ چاہے تو (کو روزگاہ) اور جب اللہ کا نام لینا قبول جاوے تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ میرا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے ۝

(۲۴-۲۳: ۱۸)

۲۱۔ نیکی کی بات کہتے وقت اپنے تئیں فراموش نہ کرو

یہ کیا (عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کئے دیتے ہو مالا کرم کتاب اللہ) بھی پڑھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں؟

(۴۴: ۲)

سماجی تعلقات

۱۔ اللہ تعالیٰ نے قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکیں

لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو.....

(۱۳: ۴۹)

۲۔ آپس میں جھگڑنے سے تمہارا اقبال جاتا رہے گا

اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم چلو اور آپس میں جھگڑنا نہ کرنا کہ (ایسا نہ کرنا) تمہارا اقبال ہو گا اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور تمہارا کام ہو.....

(۴۶: ۸)



### 3. BELIEVERS SHOULD NOT MAKE UNBELIEVERS THEIR FRIENDS UNLESS SECURITY DEMANDS

Let not the believers take disbelievers for their friends in preference to believers. Whoso doth that hath no connection with Allah unless (it be) that ye but guard yourself against them, taking (as it were) security.....

(III : 28) P

### 4. IF BELIEVERS FALL OUT EFFECT RECONCILIATION BETWEEN THEM

9. If two parties among the Believers fall into a quarrel, make ye peace between them.....  
10. The Believers are but a single Brotherhood: so make peace and reconciliation between your two (contending) brothers; and fear Allah, that ye may receive Mercy.

(XLIX : 9-10) Y

### 5. DO NOT SPOIL RELATIONS WITH KITH AND KIN

..... Reverence Allah, through Whom ye demand your mutual (rights), and (reverence) the wombs (that bore you): for Allah ever watches over you

(IV : 1) Y

### 6. ARTICLES OF COMMON USE SHOULD NOT BE REFUSED TO THE NEEDY

6. Those who (want but) to be seen (of men). 7. But refuse (to supply) (even) neighbourly needs.

(CVII : 6-7) Y

۳۔ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ إِلَّا أَنْ يَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةً  
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ  
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ  
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ  
اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ  
تُقَاتَةً

(۲۸ : ۳)

۴۔ إِنْ أَقْتَلْتُمْ طَائِفَتًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
فَاصلحوا بينهما

وَأِنْ طَائِفَتٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
أَقْتَلَتْكُمْ فَاصلحوا بينهما

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  
فَاصلحوا بين  
أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

(۱۰-۹ : ۴۹)

۵۔ اتقوا الله في الأرحام

وَاتَّقُوا  
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
رَقِيبًا

(۱ : ۴)

۶۔ يجب أن لا يرفض ذوو الحاجة  
رغد هم

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ  
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

(۷-۶ : ۱۰۷)

۳۔ مؤمنوں کو کافروں کے دوستی نہیں کرنی چاہیے  
جب تک کہ یہ شر سے بچنے کیلئے ضروری نہ ہو  
مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں  
کو دوست نہ بنائیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس  
سے اللہ کا کچھ (عہد) نہیں۔ ہاں اگر اس طریق  
سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو  
(تو مصلحتاً نہیں).....

(۲۸ : ۳)

۴۔ اگر مومن بھائی آپس میں لڑ پڑیں تو  
ان میں صلح کرادو

اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں  
لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو.....  
مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو  
اپنے دو بھائیوں میں صلح کرادیا کرو اور  
اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی  
جہلے

(۱۰-۹ : ۴۹)

۵۔ رشتہ و قرابت کے تعلقات کو نہ بگاڑو

..... اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت بڑی  
کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو اور (قطع مودت) ارحام سے  
(بچو) کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

(۱ : ۴)

۶۔ برتنے کی چیزیں ضرورت مند کو دینے  
سے انکار نہیں کرنا چاہیے  
جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں ماریتا  
نہیں دیتے

(۷-۶ : ۱۰۷)

### 7. SALUTE THE INMATES AND ASK FOR PERMISSION BEFORE ENTERING OTHERS' HOUSES

27. O ye who believe! Enter not houses other than your own, without first announcing your presence and invoking peace upon the folk thereof. That is better for you, that ye may be heedful. 28. And if ye find no one therein, still enter not until permission hath been given. And if it be said unto you: Go away again, then go away.----- 29. (It is) no sin for you to enter uninhabited houses wherein is comfort for you.-----

(XXIV : 27-29) P

### 8. SALUTE INMATES WHILE ENTERING YOUR HOUSES

----- But if ye enter houses, salute each other—a greeting of blessing and purity as from Allah. Thus does Allah make clear the Signs to you: that ye may understand.

(XXIV : 61) Y

### 9. BE MORE COURTEOUS IN REPLY TO OTHERS' GREETING

When ye are greeted with a greeting, greet ye with better than it or return it. Lo! Allah taketh count of all things.

(IV : 86) P

### 10. HOW TO AVENGE IF YOU CANNOT FORGIVE

If you punish, let your punishment be proportionate to the wrong that has been done to you. But if you are patient, it is certainly best for the patient.

(XVI : 126) Z

### ۷۔ لا تدخلوا بيوت الآخرين حق

تسأذنوهم وتسلموا عليهم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا  
غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا  
عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا  
حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا  
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا  
غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ --- ﴿٢٩﴾

(۲۷-۲۹ : ۲۴)

### ۸۔ إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على

أهلكم

----- فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ  
أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ  
طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

(۶۱ : ۲۴)

### ۹۔ ردو السلام باحسن منه

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ  
مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ  
كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ○

(۸۶ : ۴)

### ۱۰۔ كيف تعاقبون إن أردتم إن تعاقبوا

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ  
بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ○

(۱۲۶ : ۱۶)

۷۔ دوسرے لوگوں کے گھروں میں اجازت لئے اور

سلام کئے بغیر نہیں داخل ہونا چاہیے

مومنو! اپنے گھروں سے دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لئے اور انکو سلام کئے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے (اور ہم یہ نصیحت اس لئے کرتے ہیں کہ شاید تم پر ایسا بکھڑا اثر نہ ہو جس کی کوسر جہز نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے تاہم یہ مت داخل ہوا اور اگر دیکھا جائے کہ اس وقت ہوا جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔۔۔۔۔) ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ رہتا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گنت ہ نہیں۔۔۔۔۔ ﴿۲۹﴾

(۲۷-۲۹ : ۲۴)

۸۔ اپنے گھروں میں داخل ہونے پر گھر

والوں کو سلام کرنا چاہیے

۔۔۔۔۔ اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے (گھر والوں) کو سلام کیا کرو (یہ) اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔  
(۶۱ : ۲۴)

۹۔ سلام کا جواب بہتر سلام سے دو

اور جب تم کو کوئی دعا دے تو (جواب میں) تم اس سے بہتر (کلمے) سے (اسے) دعا دو یا انہیں لفظوں سے دعا دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔

(۸۶ : ۴)

۱۰۔ اگر بدلہ ہی لینا ہو تو کیسے لینا چاہیے

اور اگر تم انکو تکلیف دینی پاؤ تو اتنی ہی (یعنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی) اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کیلئے بہت اچھا ہے۔

(۱۲۶ : ۱۶)

### 11. HE WHO FORGIVES SHALL BE REWARDED BY ALLAH

Let evil be rewarded with like evil. But he that forgives and seeks reconciliation shall be rewarded by Allah. He does not love the wrong-doers.

(XLII : 40) Z

### 12. THOSE WHO ARE WRONGED ARE PERMITTED TO AVENGE THEMSELVES

Those who avenge themselves when wronged incur no guilt.

(XLII : 41) Z

### 13. THOSE WHO OPPRESS FELLOWMEN WILL BE PUNISHED

But great is the guilt of those who oppress their fellowmen and conduct themselves with wickedness and injustice. These shall be sternly punished.

(XLII : 42) Z

### 14. TO SHOW PATIENCE AND TO FORGIVE ARE ACTS OF GREAT COURAGE

To endure with fortitude and to forgive is an act of great resolution.

(XLII : 43) Z

### 15. IT IS VERY CREDITABLE TO FORGIVE WHILE IN ANGER

Who avoid gross sins and indecencies and, when angered are willing to forgive;

(XLII : 37) Z

### ۱۱۔ من عفا فاجرہ علی اللہ

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ○

(۴۰ : ۴۱)

### ۱۲۔ من عاقب بعد ما ظلم فما

عليه من جناح

وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ○

(۴۱ : ۴۲)

### ۱۳۔ من يظلم الناس فلهم

عذاب اليم

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط ○ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

(۴۲ : ۴۳)

### ۱۴۔ من صبر وعفا فان ذلك من

عزم الأمور

وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ○

(۴۳ : ۴۴)

### ۱۵۔ من عفا إذا ما غضب فقد

فعل فعلا عظيما

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَسْمَاءِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ○

(۳۷ : ۴۲)

### ۱۱۔ معاف کر دینے والے کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ

اپنے ذمے لے لیتا ہے

اور برائی کا بدلہ تو اس کی برائی کے برابر کر دے اور (معاظی کو) درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

(۴۰ : ۴۱)

### ۱۲۔ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لینے کو جائز

قرار دیا گیا ہے

اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔

(۴۱ : ۴۲)

### ۱۳۔ لوگوں پر ظلم کرنے والوں کو

عذاب ملے گا

الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔

(۴۲ : ۴۳)

### ۱۴۔ صبر کرنا قصور معاف کر دینا تو

ہمت کے کام ہیں

اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہیں۔

(۴۳ : ۴۴)

### ۱۵۔ غصہ کی حالت میں دوسروں کے قصور

معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے

اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔

(۳۷ : ۴۲)

---- those who control their wrath and are forgiving towards mankind:-----

(III : 134) P

### 16. DO NOT SHOW FAVOUR WITH A VIEW TO SEEKING WORLDLY GAINS

Bestow no favours expecting gains.

(LXXIV : 6) Z

### 17. STAND BY THE TRUTHFUL AND THE RIGHTEOUS

O ye who believe! Be careful of your duty to Allah, and be with the truthful.

(IX : 119) P

### 18. RULES FOR EATING AND DEALINGS WITHIN THE FAMILY

It is no fault in the blind nor in one born lame, nor in one afflicted with illness, nor in yourself, that ye should eat in your own houses, or those of your fathers, or your mothers, or your brothers or your sisters, or your father's brothers, or your father's sisters, or your mother's brothers, or your mother's sisters, or in houses of which the keys are in your possession, or in the house of a sincere friend of yours: there is no blame on you, whether you eat in company or separately.-----

(XXIV : 61) Y

### SOCIAL EVILS

#### 1. ADULTERY IS A VERY SHAMEFUL ACT

Nor come nigh to adultery: for it is a shameful (deed) and an evil opening the road to other evils.

(XVII : 32) Y

.... وَالكَاطِمِينَ الْغَيْظَ  
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ؕ  
(۱۳۴: ۳)

### ۱۶۔ لَاتَسْتَوُوا تَسْتَكْتَرُوا

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْتَرُونَ

(۶۱: ۷۴)

### ۱۷۔ کونو مع الصادقین

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا

مَعَ الصَّادِقِينَ

(۱۱۹: ۹)

### ۱۸۔ آداب الأكل والمعاشرة

في الحياة العائلية

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ

حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى

أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

أَبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ

أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ

أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ

بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مِمَّا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ

صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ

تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ؕ

(۶۱: ۴۴)

### السيئات الإجتماعية

۱۔ ان الزنا فاحشة كبيرة

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً

وَسَاءَ سَبِيلًا

(۳۲: ۱۷)

.... اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور  
معاف کرتے ہیں.....

(۱۳۴: ۳)

۱۶۔ زیادہ بدل لینے کی غرض سے احسان نہیں کرنا چاہیے

اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طلب ہو۔

(۶۱: ۷۴)

۱۷۔ راستبازوں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے

اے اہل ایمان! اللہ سے ڈرتے رہو اور راستبازوں  
کے ساتھ رہو۔

(۱۱۹: ۹)

۱۸۔ گھر کی زندگی میں کھانا کھانے اور

میل جول کے آداب

نہ تو زندہ پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ

خود مرنے والے پر اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے گھروں سے یا

اپنی ماؤں کے گھروں سے یا باجیوں کے گھروں سے

یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے

گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا

اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے

یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے

دوستوں کے گھروں سے اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں

کے سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا.....

(۶۱: ۴۴)

### سماجی بُرائیاں

۱۔ زنا تو بہت ہی بُرا فعل ہے

اور زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور

بُری راہ ہے۔

(۳۲: ۱۷)

## 2. PUNISHMENTS FOR FORNICATION, WICKEDNESS AND SLANDER

The woman and the man guilty of adultery or fornication, flog each of them with a hundred stripes;----

(XXIV : 2) Y

4. And those who accuse honourable women but bring not four witnesses, scourge them (with) eighty stripes and never (afterwards) accept their testimony ---- 23. Lo! as for those who traduce virtuous, believing women (who are) careless, cursed are they in the world and the Hereafter. Theirs will be an awful doom.

(XXIV : 4, 23) P

---- and if when they are honourably married they commit lewdness they shall incur the half of the punishment (prescribed) for free women (in that case). This is for him among you who feareth to commit sin. But to have patience would be better for you. Allah is Forgiving, Merciful.

(IV : 25) P

If two men among you are guilty of lewdness, punish them both. If they repent and amend leave them alone; for Allah is Oft-Returning, Most Merciful.

(IV : 16) Y

## 3. DRINKING, GAMBLING, DRAWING LOTS AND DIVINING ARROWS ARE SATANIC DEEDS

90. Believers, wine and games of chance, idols and divin-

## ۲- عقوبات الزنا والفاحشة والقذف الباطل

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ  
مِّنْهُمَا بِمِائَةِ جَلْدَةٍ ----

(۲۱ : ۲۴)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ  
يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً  
أَبَدًا ----

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَفْلَاتِ  
الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

(۲۳ : ۴ : ۲۴)

---- فَإِذَا أَحْصِنَ  
فَإِنَّ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ  
مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ط  
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ط وَأَنْ  
تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

(۲۵ : ۴)

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادُّوْهُمَا فَإِنْ  
تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ط  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝

(۱۶ : ۴)

## ۳- إن الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ

## ۲- زنا بدکاری اور زنا کی جھوٹی تہمت کی سزائیں

بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے  
والا مرد (جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے  
تو) دونوں میں سے ہر ایک کو سوڑتے مارو....

(۲ : ۲۴)

اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا یہ  
رگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان  
کو اسی ڈر سے مارو اور کبھی ان کی شہادت  
قبول نہ کرو... جو لوگ پرہیزگار (اور) برے  
کاموں سے بے خبر (اور) ایماندار عورتوں پر بدکاری  
کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت (دونوں) میں  
لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا ۝

(۲۳ : ۴ : ۲۴)

.... پھر اگر نکاح میں آکر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں  
تو جو سزا آزاد عورتوں (یعنی بیبیوں) کے لئے ہے  
اس کی آدھی ان کو (دی جائے) یہ (لڑکی کے ساتھ نکاح  
کرنے کی) اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا ارشہ  
ہو۔ اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لئے بہت اچھا ہے اور  
اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(۲۵ : ۴)

اور جو دو دم تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا و محرومی  
کریں اور نیکو کار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔  
بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا (اور) مہربان ہے۔

(۱۶ : ۴)

## ۳- شراب، جوا، بت اور پانسے یہ سب کام اعمال شیطان ہیں

اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت

ing arrows, are abominations devised by the devil. Avoid them, so that you may prosper. 91. The devil seeks to stir up enmity and hatred among you by means of wine and gambling and to keep you from the remembrance of Allah and from your prayers. Will you not abstain from them?

(V : 90-91) Z

----- And (forbidden is it) that ye swear by the divining arrows. This is an abomination.-----

(V : 3) P

#### 4. INFANTICIDE AND HOMICIDE ARE FORBIDDEN

Say: Come, I will tell you what your Lord has made binding on you:----- That you shall not kill your children because you cannot support them; We provide for you and for them; that you shall not commit foul sins, whether openly or in secret; and that you should not kill—for that is forbidden by Allah—except for a just cause. Thus Allah exhorts you, that you may discern.

(VI: 152) Z

#### 5. WHOEVER KILLS A MUSLIM INTENTIONALLY WILL BURN IN HELL FOREVER

He that kills a believer by design shall burn in Hell forever. He shall incur the wrath of Allah, who will lay His course on him and prepare for him a woeful scourge.

(IV : 93) Z

وَالْأَنْصَابُ وَالْأَنْزِلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٠﴾

(۹۱-۹۰ : ۵)

وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَنْزِلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ

(۳ : ۵)

#### ۴- حرم اللہ قتل الأولاد والنفس الأخری

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي كُفْرًا عَلَيْكُمْ ----- وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

(۱۵۲ : ۶)

#### ۵- من قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها أبداً

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝

(۹۳ : ۴)

اور پانسے (یہ سب) ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں۔ سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤں ﴿۹۱﴾ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو تم کو (ان کاموں سے) باز رہنا چاہیے ﴿۹۰﴾

(۹۱-۹۰ : ۵)

... اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کر دینا سب گنہ کے کام ہیں....

(۳ : ۵)

#### ۴- اللہ تعالیٰ نے اولاد اور دوسرے کے قتل کو حرام قرار دیا ہے

کہو کہ (لوگو!) آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں.... اور ناداری (کے اندیشے) سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور (جو ہم ہی) زق دیتے ہیں۔ اور بے حیائی کے کام ظاہریوں یا پوشیدہ ان کے پاس چھلکانا۔ اور کسی جان (والے) کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا اگر جائز طور پر اپنی شلیت جس کا حکم دے ان باتوں کی وہ تمہیں ناکیر تاجے تاکہ تم سمجھو۔

(۱۵۲ : ۶)

#### ۵- مسلمان کو قصداً قتل کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں جلتا رہے گا

اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ (جلتا) رہے گا اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا اور ایسے شخص کے لئے اس نے بڑا سخت (مذاب تیار کر رکھا ہے)

(۹۳ : ۴)

## 6. RETRIBUTION FOR HOMICIDE AND OTHER CARDINAL CRIMES

Please refer to "Retribution for Homicide and Punishments for other Cardinal Crimes" Page 257

## 7. DO NOT GO NEAR LEWDNESS

Say: "Come, I will tell you what your Lord has made binding on you ---- that you shall not commit foul sins, whether openly or in secret ----

(VI 152) Z

## 8. BRIBERY IS FORBIDDEN

Please refer to "Economic Provisions" page 193

(II 188)(V 42)

## 9. ALLAH HAS FORBIDDEN INDECENCY AND WICKEDNESS

---- He forbids all shameful deeds, and injustice and rebellion: He instructs you, that you may receive admonition.

(XVI 90) Y

## 10. THOSE WHO SPREAD SLANDERS AMONG THE BELIEVERS WILL BE PUNISHED IN THE WORLD AND THE HEREAFTER

Those who delight in spreading slanders against the faithful shall be sternly punished in this life and the next. Allah knows but you do not.

(XXIV : 19) Z

## 11. DO NOT ENVY PEOPLE WHOM ALLAH HAS GIVEN OF HIS BOUNTY

Or do they envy mankind for what Allah hath given them of His bounty? ----

(IV : 54) Y

## ۶۔ عقوبۃ القتل والقصاص وغیرہما

لاحظ عنوان القصاص والحدود الشرعیۃ  
على الصفحة رقم ۲۵۷

## ۷۔ لا تقربوا الفواحش

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ كُفْرًا  
عَلَيْكُمْ... وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ  
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ----

(۱۵۲: ۶)

## ۸۔ الرشوة ممنوعة

لاحظ عنوان "المؤنة الاقتصادية"  
على الصفحة رقم ۱۹۳  
(۱۸۸: ۲) (۴۲: ۵)

## ۹۔ اللہ نے منہی عن الفحشاء والمنکر

..... وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○  
(۹۰: ۱۶)

## ۱۰۔ للذين يشيرون افعالهم بين المؤمنين

## عذاب في الدنيا والاخرة

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ  
فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ  
لَا تَعْلَمُونَ ○  
(۱۹: ۲۴)

## ۱۱۔ لا تحسدوا على من

فضل الله عليهم  
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ----  
(۵۴: ۴)

## ۶۔ چوری، فساد اور قتل کی سزائیں اور قصاص

ملاحظہ فرمائیں قصاص و حدود شرعیہ  
صفحہ ۲۵۷

۶۔ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ  
کہو کہ لوگو! آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے  
پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں... اور بے حیائی کے کام  
ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ چپکنا....

(۱۵۲: ۶)

## ۸۔ رشوت کی ممانعت کی گئی ہے

ملاحظہ فرمائیں "معاشیات"  
صفحہ ۱۹۳  
(۱۸۸: ۲) (۴۲: ۵)

## ۹۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی اور نامعقول کام کرنے سے منع فرمایا ہے

.... اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکش سے  
منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔  
(۹۰: ۱۶)

## ۱۰۔ مومنوں میں بے حیائی پھیلائیوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ملے گا

جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں  
بے حیائی (یعنی تہمت بدکاری کی خبر) پھیلے ان کو  
دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور  
اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

(۱۹: ۲۴)

## ۱۱۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے

دے رکھا ہے ان سے حسد نہیں کرنا چاہیے  
یا جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے  
اُس کا حسد کرتے ہیں.....  
(۵۴: ۴)

### 12. INTENTIONAL OATHS WILL HAVE TO BE ACCOUNTED FOR

Allah will not take you to task for that which is unintentional in your oaths. But He will take you to task for that which your hearts have garnered. Allah is Forgiving, Clement.

(II : 225) P

### 13. THOSE WHO MALIGN THE BELIEVERS WILL BEAR THE GUILT OF SIN

And those who malign believing men and believing women undeservedly, they bear the guilt.

(XXXIII : 58) P

### 14. BUYERS OF MAGIC AND MAGICIANS WILL NOT HAVE ANY SHARE IN THE HERE-AFTER

..... buyers of (magic) would have no share in the happiness of the Hereafter. And vile was the price of which they did sell their souls, if they but knew!

(II : 102) Y

Moses said: Speak ye (so) of the Truth when it hath come unto you? Is this magic? Now magicians thrive not.

(X : 77) P

### 15. EVEN THOUGH IT IS A FACT, UNLESS ALLAH WILLS, THE EVIL EYE CAN DO NO HARM

And he said: O my sons! Go not in by one gate; go in by different gates. I can naught avail you as against Allah. Lo!

۱۲- سیواخذ الانسان بما كسب قلبه من الايمان

لَا يُؤْخَذُ كُمْ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ كُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

(۲۲۵: ۲)

۱۳- من يرم مؤمنا يحمل اثمًا

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ○

(۵۸: ۳۳)

۱۴- لاخلاق في الآخرة لمن عمل سحرا أو أمر به

..... وَلَقَدْ عَلِمُوا الْمِنَ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ تُدْ وَلِبَيْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○

(۱۰۲: ۲)

قَالَ مُوسَى اتَّقُوا لَوْنِ الْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ وَأَسْحَرُوا هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ○

(۷۷: ۱۰)

۱۵- لا تضر العين السيئة بدون اذن الله رغم كونها أمرا واقعا

وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا غَنَى

۱۲- سچے دل سے کھائی ہوئی قسموں کا حساب دینا ہوگا

اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کریگا لیکن جو قسمیں تم قصداً سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(۲۲۵: ۲)

۱۳- بہتان باندھنے والوں کے سرواں پر گناہ کا بوجھ ہوگا

جو لوگ مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا سوائے انہوں نے تو انہوں نے بہتان اور مصدق گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔

(۵۸: ۳۳)

۱۴- جادو کرنے اور کروانے والوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں

..... کہ جس شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کاش وہ (اس بات کو) جانتے۔

(۱۰۲: ۲)

موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پائیں گے۔

(۷۷: ۱۰)

۱۵- نذر بدایک امر واقعہ ہونے کے باوجود اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں دے سکتی

اور ہر بات کی کہ بٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے نہیں



the decision rests with Allah only. In Him do I put my trust, and in Him let all the trusting put their trust.

(XII : 67) P

And lo! those who disbelieve would fain disconcert thee with their eyes when they hear the Reminder, and they say: Lo! he is indeed mad;

(LXVIII : 51) P

## DEALINGS WITH THE NON-MUSLIMS

### 1. WHO ARE THE UNBELIEVERS

150. Lo! those who disbelieve in Allah and His messengers, and seek to make distinction between Allah and His messengers, and say: We believe in some and disbelieve in others, and seek to choose a way in between. 151. Such are disbelievers in truth; and for disbelievers We prepare a shameful doom.

(IV : 150-151) P

### 2. WHO ARE THE HYPOCRITES

Be they men or women, the hypocrites are all alike. They enjoin what is evil, forbid what is just, and tighten their purse strings. They forsook Allah, so Allah forsook them. Surely the hypocrites are evil doers.

(IX : 67) Z

عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ نَفْسِي وَإِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

(۶۷:۱۲)

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

(۵۱:۶۸)

روک سکتا (دشک) حکم اسی کا ہے میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

(۶۷: ۱۲)

اور کافر جب (یہ نصیحت کی کتاب) سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔

(۵۱: ۶۸)

## العلاقات بغیر المسلمین

## غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات

### ۱- من هو الکافر

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

(۱۵۰: ۴)

### ۱- کافر کون ہیں

جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں ۱۵۰ وہ بلا اشتباہ کافر ہیں اور کافروں کے لئے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے ۱۵۰

(۱۵۰: ۴)

### ۲- من هو المنافق

الْمُنٰفِقُونَ وَالْمُنٰفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يٰۤاٰمُرُوْنَ بِالْمُنٰكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُونَ

(۶۷: ۹)

### ۲- منافق کون ہیں

منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس (یعنی ایک ہی طرح کے) ہیں کڑے کلام کرنا کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور (خوش کرنے سے) ہاتھ بندھے رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انکو بھلا دیا۔ بے شک منافق نافرمان ہیں

(۶۷: ۹)

### 3. NON-MUSLIMS WHO ARE MOST INIMICAL OR FRIENDLY TO MUSLIMS

Strongest among men in enmity to the Believers wilt thou find the Jews and Pagans; and nearest among them in love to the Believers wilt thou find who say: "We are Christians": because amongst these are men devoted to learning and men who have renounced the world, and they are not arrogant.

(V : 82) Y

### 4. HOW SHOULD A MUSLIM TALK TO THE OPPONENTS OF ISLAM

Tell My servants to be courteous in their speech. The devil will sow discord among them; he is the sworn enemy of man.

(XVII : 53) Z

### 5. HOW TO REACT TO MIS-BEHAVIOUR BY NON-MUSLIMS WHILE PROSELYTIZING

If you punish, let your punishment be proportionate to the wrong that has been done to you. But if you are patient, it is certainly best for the patient.

(XVI : 126) Z

### 6. TOLERANCE TOWARDS NON-MUSLIMS IN AL-ISLAM

Say: 'We believe in Allah and what is revealed to us; in that which was revealed to Abraham and Ismail, to Isa and Yaqub and the tribes; and in

### ۳- من یعادى اویصادق المؤمنین من غیر المسلمین

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ مِنْهُمْ قَتِيلِينَ وَرَهْبَانًا أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

(۸۲: ۵)

### ۴- كيف تكون طريقة التحدث مع مخالفى الإسلام

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

(۵۳: ۱۷)

### ۵- كيفية الإلتقام من غير المسلمین على ایذاءهم المسلمین اثنا التبلیغ

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

(۱۲۶: ۱۶)

### ۶- تسامع الإسلام مع غير المسلمین

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَ

### ۳- مومنوں کے ساتھ دشمنی یا دوستی کرنے والے غیر مسلم کون کون سے ہیں

اسے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پانگے جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ یہ اس لئے کہ ان میں مادہ بھی ہیں اور مشائخ بھی اور وہ تکبر نہیں کرتے۔

(۸۲: ۵)

### ۴- مخالفین اسلام سے گفتگو کیسے کرنی چاہیے

اور میرے بندوں کو کہہ دو کہ (لوگوں سے) ایسی باتیں نہ کہیں جو بہت پسندیدہ ہوں۔ کیونکہ شیطان (بڑی باتوں سے) ان میں فساد ڈال دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

(۵۳: ۱۷)

### ۵- تبلیغ کے دوران پہنچی ہوئی تکلیف کا بدلہ غیر مسلم سے کیسے لینا چاہیے

اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دینی تکلیف تم کو ان سے پہنچی۔ اور اگر صبر کرو تو وہ مبرک نیا لوں کیلئے بہت اچھا ہے۔

(۱۲۶: ۱۶)

### ۶- غیر مسلموں کے بارے میں اسلام کی رسوائی

کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پڑھنے کی طرف سے ملیں سب پر ایمان

that which their Lord gave Musa and Isa and the prophets. We discriminate against none of them — To Him we have surrendered ourselves'

(III: 84) Z

### 7. NO COMPULSION OVER NON-MUSLIMS IN RELIGIOUS MATTERS

There is no compulsion in religion — The right direction is henceforth distinct from error —

(II: 256) P

We well know what they say — You (O Muhammad) shall not use force with them. Admonish with this Quran whoever fears My warning.

(I: 45) Z

--- But if any turns away, We have not sent thee to watch over their (evil deeds).

(IV: 80) Y

### 8. FOLLOWING THE DISBELIEVERS AND THE HYPOCRITES

O Prophet! Keep thy duty to Allah and obey not the disbelievers and the hypocrites. Lo! Allah is Knower, Wise.

(XXXIII: 1) P

### 9. A MUSLIM'S BEHAVIOUR IN THE FACE OF OPPRESSION BY NON-MUSLIMS

127. Be patient (then); and your patience is (possible) only by Allah's (help). Do not grieve for the unbelievers, nor distress yourself at their intrigues. 128. Allah is with those who keep (away) from evil and do good (to others).

(XVI: 127-128) Z

عِيسَىٰ وَالنَّبِيِّونَ مِنْ رَبِّهِمْ  
لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ  
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

(۸۴: ۳)

۷. لا يجوز اكرهه غير المسلمين  
في الامور الدينية

لَا اِكْرَاهًا فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ  
الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ---

(۲۵۶: ۲)

نَحْنُ نَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا اَنْتَ  
عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ  
مَنْ يَخَافُ وَعَيْدِ ○

(۴۵: ۵۰)

وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ○

(۸۰: ۴)

۸. هل يطاع الكفار والمنافقون

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ  
وَالْمُنَافِقِينَ — إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا ○

(۱: ۳۳)

۹. ماذا يجب ان يفعل المسلم عند  
ايداء غير المسلم

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ  
عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۱۲۷﴾  
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ  
هُمُّهُمْ حَسَنُونَ ﴿۱۲۸﴾

(۱۲۸-۱۲۷: ۱۶)

لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں  
کرتے اور ہم اسی (خدا کے واحد) کے  
فرمانبردار ہیں۔

(۸۴: ۳)

۷۔ دینی معاملات میں غیر مسلم کے ساتھ زبردستی  
کرنے کی اجازت نہیں ہے

دین (اسلام) میں زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت (صاف)  
طور پر ظاہر اور، اگر ابھی سے الگ ہو چکی ہے.....

(۲۵۶: ۲)

یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے اور تم  
ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو پس جو ہمارے (عذاب کی)  
وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔

(۴۵: ۵۰)

اور جو نافرمانی کرے تو اسے پیغمبر نہیں ہونے ازاں کھبان بنا کر نہیں بھیجا۔

(۸۰: ۴)

۸۔ کیا کافروں اور منافقوں کا کہا ماننا چاہیے

اپنے پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور  
منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ بے شک اللہ جانتے والا  
(اور) حکمت والا ہے۔

(۱: ۳۳)

۹۔ غیر مسلم ایدادیں تو مسلمان کو  
کیا کرنا چاہیے

اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے اور انکی  
بارے میں غم نہ کرو اور جو یہ بداندیشی کرتے ہیں اس سے تشدد نہ  
ہو ﴿۱۲۷﴾ کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکو کار  
ہیں اللہ ان کا مددگار ہے ﴿۱۲۸﴾

(۱۲۸-۱۲۷: ۱۶)

Bear patiently with what they say and leave their company with dignity.

(LXXIII : 10) Z

### 10. SHOULD MUSLIMS REVILE THE IDOLS OF NON-MUSLIMS

Do not revile (the idols) which they invoke besides Allah, lest in their ignorance they should spitefully revile Allah. Thus We have made the actions of all men seem pleasing ----

(VI : 109) Z

### 11. SHOULD TREATIES WITH IDOLATORS BE HONOURED

3 ---- Proclaim a woeful punishment to the unbelievers. 4. Except those idolators who have fully honoured their treaties with you and aided none against you. With these keep faith, until their treaties have run their term. Allah loves the righteous.

(IX : 3-4) Z

### 12. WHEN UNBELIEVERS REQUEST PEACE, SHOULD PEACE BE MADE WITH THEM

61. If they incline to peace, make peace with them, and put your trust in Allah. Surely He is the Hearing, the Knowing. 62. Should they seek to deceive you, Allah is all-sufficient for you. He has made you strong with His help and rallied the faithful round you.

(VIII : 61-62) Z

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا  
جَمِيلًا ۝

(۱۰ : ۷۳)

۱۰۔ اہل یحوز سب معبودی غیر المسلمین

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ  
كَذَلِكَ زَيَّتْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ

(۱۰۹ : ۶)

۱۱۔ اہل یحوز الایفاء بالعقود مع

غیر المسلمین

وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَدَابٍ أَلِيمٍ  
إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  
ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُواكُمْ شَيْئًا وَ لَمْ يُظَاهِرُوا  
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتُوا إِلَيْكُمْ عَهْدَهُمْ  
إِلَىٰ مَدَنِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَّقِينَ ۝

(۹ : ۳-۴)

۱۲۔ اہل یحوز التصالح مع غیر المسلمین  
عند جنحهم للسلم

وَأَنْ جَاءُوا السَّلَامَ فَاجْنِبْ لَهُمْ وَتَوَكَّلْ  
عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝  
وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ  
اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ نَصْرَهُ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۝

(۸ : ۶۱-۶۲)

اور جو جو (دوسرا) بتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو کہتے رہو  
اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو۔

(۱۰ : ۷۳)

۱۰۔ کیا غیر مسلم کے معبود کو برا کہنا چاہیے

اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا  
کہنا نہ چاہیے کیسے اللہ کو بے ادبی سے لے کھجے برا نہ کہ نہیں۔  
اسلام ہونے پر ایک نئے کے اعمال (انہی نعروں میں) اچھے کر دئے ہیں

(۱۰۹ : ۶)

۱۱۔ کیا غیر مسلموں کے ساتھ عہد و پیمانہ

وفا کرنا چاہیے

... اور اسے پیمانہ کا فوٹو کو دکھ دینے والے مذاہب کی خبر  
سنادوں سے ابتر ہونے سے بچنے کے ساتھ عہد کیا جا اور انہوں  
نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے  
میں کسی کی مدد کی ہو تو جس مدت تک ان کے ساتھ  
عہد کیا ہو اسے پورا کرو (کہ) اللہ پر مہیزگاروں کو  
دوست رکھتا ہے ۝

(۹ : ۳-۴)

۱۲۔ جب غیر مسلم صلح کی طرف مائل ہوں

تو کیا ان سے صلح کر لینا چاہیے

اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اسی طرف مائل ہونا  
اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کچھ شک نہیں کہ وہ سب کو سننا (اور) جانتا ہے ۝  
اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا وہ ہی ہے  
جس نے تم کو اپنی مدد اور مسلمانوں (کی جمعیت سے) تقویت بخشی ۝

(۸ : ۶۱-۶۲)

### 13. SHOULD A POLYTHEIST BE GIVEN ASYLUM

If an idolator seeks asylum with you, give him protection so that he may hear the Word of Allah, and then convey him to safety. For they are ignorant men.

(IX : 6) Z

### 14. SHOULD ONE DISPUTE WITH THE PEOPLE OF THE BOOK

And dispute ye not with the People of the Book, except with means better (than mere disputation), unless it be with those of them who inflict wrong (and injury). -----

(XXIX : 46) Y

### 15. HOW TO REACT WHEN PEOPLE OF THE BOOK COMMIT EXCESS

--- Unless it be with those of them who inflict wrong (and injury): but say, "We believe in the Revelation which has come down to us and in that which came down to you; our Allah and your Allah is One, and it is to Him we bow (in Islam)."

(XXIX : 46) Y

### 16. PEOPLE WHOSE FRIENDSHIP ALLAH HAS FORBIDDEN

O ye who believe! Choose not disbelievers for (your) friends in place of believers. Would ye give Allah a clear warrant against you?

(IV : 144) P

۱۳۔ هل يجوز ايواء المشرك  
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ  
فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ  
ثُمَّ ابْلُغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ○

(۶:۹)

۱۴۔ هل تجوز مجادلة أهل الكتاب

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ  
أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ----

(۲۹: ۴۶)

۱۵۔ ماذا يجب فعله عند اعتداء  
أهل الكتاب

---- إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَتَوَلَّوْا  
أَمْثَلًا الَّذِي أَنْزَلَ الْبَيِّنَاتِ وَالْيَقِينَ  
وَالْهُنَاءِ وَالْهَكْمِ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ  
مُسْلِمُونَ ○

(۲۹: ۴۶)

۱۶۔ من هم الذين نهى الله  
عن توليهم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ  
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلْيَدُنَّ  
أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُبِينًا ○

(۴: ۱۴۴)

۱۳۔ کیا مشرک کو پناہ دینی چاہیے

اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو  
اُس کو پناہ دو۔ یہاں تک کلام اللہ سننے لگے پھر  
اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو۔ اس لئے کہ  
یہ بے خبر لوگ ہیں۔

(۶:۹)

۱۴۔ کیا اہل کتاب سے جھگڑا کرنا چاہیے

اور اہل کتاب سے جھگڑانا کرو۔ مگر ایسے طریق سے  
کہ نہایت اچھا ہو۔ ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں  
(ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو)۔ ----

(۲۹: ۴۶)

۱۵۔ اہل کتاب زیادتی کریں تو  
کیا کرنا چاہیے

--- ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں (ان کے ساتھ اسی طرح  
مجادلہ کرو) اور کہہ دو کہ جو کتاب (ہم پر آئی اور جو کتابیں)  
تم پر آئیں ہم سب پر ایمان لکھتے ہیں۔ اور تمہارا اور تمہارا  
ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔

(۲۹: ۴۶)

۱۶۔ اللہ نے کن لوگوں کو دوست بنانے  
سے منع فرمایا ہے

اے اہل ایمان! مومنوں کے سوا کافروں  
کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر  
اللہ کا صریح الزام لو۔

(۴: ۱۴۴)

O ye who believe! Take not the Jews and Christians for friends. They are friends one to another. He among you who taketh them for friends is (one) of them. Lo! Allah guideth not wrong doing folk.

(V : 51) P

57. O ye who believe! Take not for friends and protectors those who take your religion for a mockery or sport, — whether among those who received the Scripture before you, or among those who reject faith; but fear ye Allah, if you have faith (indeed). 58. When ye proclaim your call to prayer, they take it (but) as mockery and sport; that is because they are a people without understanding.

(V : 57-58) Y

### 17. DO NOT REPOSE CONFIDENCE IN NON-BELIEVERS

Believers, do not make friends with any men other than their own people. They will spare no pains to corrupt you. They desire nothing but your ruin. Their hatred is clear from what they say, but more violent is the hatred which their breasts conceal. We have made plain to you our revelations, if you only understand.

(III : 118) Z

### 18. OBEYING GREATER PART OF MANKIND WOULD LEAD YOU ASTRAY

If thou obeyedst most of those on earth they would mislead thee far from Allah's way. They follow naught but an opinion, and they do not but guess.

(VI : 117) P

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ  
وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ  
بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ  
مِنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝  
(۵۱:۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ  
اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَعِلْبًا مِّنَ  
الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ  
أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُفْرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝  
وَإِذَا نَدَيْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوًا  
وَعِلْبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۝

(۵۸ - ۵۷:۵)

### ۱۷- لاتمخذوا بطانہ من دون المؤمنین

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا  
بِطَانَةَ مَنْ دُونِكُمْ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ  
خَبَآئِلٌ وَدُوآءٌ مَّا عَنِتُّمْ قَدْ  
بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ  
وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ  
قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْقِلُونَ ۝  
(۱۱۸: ۳)

### ۱۸- استضلون باتباع أكثرية العالم

#### البشري

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَر مِّن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا  
الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝  
(۱۱۷: ۶)

(۱۱۷: ۶)

اے ایمان والو! یہود اور نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہیں میں سے ہوگا۔ بیشک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

(۵۱ : ۵)

اے ایمان والو! جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھس بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ اور مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے ہو ۝ اور جب تم لوگ نماز کیلئے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھس بناتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ سمجھ نہیں رکھتے ۝

(۵۸ - ۵۷: ۵)

### ۱۷- غیر مذہب کے آدمی کو اپنا راز دار نہ بناؤ

مومنو! کسی غیر (مذہب کے آدمی) کو اپنا راز دار نہ بنانا یہ لوگ تمہاری خرابی (اور فتنہ انگیزی کرنے) میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کتے اور چاہتے ہیں کہ (جس طرح ہو) تمہیں تکلیف پہنچے۔ انکی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو رہی چکی ہے۔ اور جو (کہنے) ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنادی ہیں۔

(۱۱۸: ۳)

### ۱۸- دنیا کی اکثریت کا کہا مان لینے سے

#### گمراہ ہو جاؤ گے

اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں (گمراہ ہیں) اگر تم ان کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں اللہ کا رستہ بھلا دیں گے۔ یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اکل کے تیر چلتے ہیں۔

(۱۱۷: ۶)

19. IDOLATORS SHALL NOT BE PERMITTED TO GO NEAR THE SACRED MOSQUE

O ye who believe! The idolators only are unclean. So let them not come near the Inviolable Place of Worship (Sacred Mosque) after this their year ----

(IX : 28) P

20. UNBELIEVERS AND HYPOCRITES SHOULD NOT BE OBEYED

Do not obey the unbelievers and the hypocrites: disregard their insolence. Put your trust in Allah; Allah is your All-sufficient Guardian.

(XXXIII : 48) Z

21. BELIEVERS SHOULD NOT MAKE UNBELIEVERS THEIR FRIENDS UNLESS SECURITY DEMANDS

Let not the believers take disbelievers for their friends to preference to believers. Whoso doth that hath no connection with Allah unless (it be) that ye but guard yourself against them, taking (as it were) security ----

(III : 28) P

۱۹۔ منع المشركين من مقاربة البيت المحرام

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ----

(۲۸ : ۹)

۲۰۔ لا يجوز اتباع الكفار والمنافقين

وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِينَ وَالْمُنٰفِقِينَ وَدَعُوا ذٰلِكُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۝

(۴۸ : ۳۳)

۲۱۔ لا يجوز تولي المؤمنين للكفار مادام ذلك غير ضروري لمجانبة شرهم

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً ----

(۲۸ : ۳)

۱۹۔ مشرکوں کا خانہ کعبہ کے پاس جانا ممنوع قرار دیا گیا ہے

مومنو! مشرک تو پلید ہیں۔ تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں.....

(۲۸ : ۹)

۲۰۔ کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانا چاہیے

اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانا اور نہ انکے تکلیف دینے پر نظر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔

(۴۸ : ۳۳)

۲۱۔ مومنوں کو کافروں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ یہ شریعت سے بچنے کیلئے ضروری نہ ہو مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں۔ ہاں اگر اس طریق سے تم ان (کے شر) سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو (تو مضائقہ نہیں).....

(۲۸ : ۳)





what is forbidden to you except under compulsion of necessity? ----

(VI: 120) Y

### 5. MOST OF FOURFOOTED GRAZING TYPE ANIMALS HAVE BEEN MADE LAWFUL

O ye who believe! Fulfil (all) obligations. Lawful unto you (for food) are all four-footed animals, with the exceptionals named. ----

(V: 1) Y

### 6. MENTION ALLAH'S NAME WHILE RELEASING HOUNDS OR AN ARROW ETC FOR HUNTING

They ask thee (O Muhammad) what is made lawful for them. Say (all) good things are made lawful for you. And those beasts and birds of prey which ye have trained as hounds are trained, you teach them that which Allah taught you, so eat of that which they catch for you and mention Allah's name upon it, and observe your duty to Allah. Lo! Allah is swift to take account.

(V: 4) P

### 7. MEAT THAT IS PARTLY EATEN BY WILD ANIMAL IS LAWFUL PROVIDED THE VICTIM IS SLAUGHTERED BEFORE DEATH

Forbidden to you (for food) are: ---- that which hath been (partly) eaten by a wild animal; unless ye are able to slaughter it (in due form); that which is sacrificed on stone (altars); ----

(V: 3) Y

الَا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ ----

(۱۲۰ : ۶)

۵. أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةِ الْأَنْعَامِ  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ فُؤَادًا الْعُقُودِ  
أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا  
مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ----

(۱ : ۵)

۶. يجب أن يذكر اسم الله على ما أمسكته  
الجوارح وما أصابه السهم

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ  
أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمُ  
مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ  
مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا  
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا  
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

(۴ : ۵)

۷. اللحم الذي أكله السبع حلال  
بشرط أن تمت تزكيتة

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ----  
وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا  
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ  
----

(۳ : ۵)

نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لئے ناچار ہو جاؤ۔۔۔

(۱۲۰ : ۶)

۵. مویشی قسم کے زیادہ تر چرنے والے چوپائے  
تم پر حلال قرار دیئے گئے ہیں  
اسے ایمان والوں اپنے اقداروں کو پورا کرو۔ تمہارے لئے  
چارپائے جانور (جو چرنے والے ہیں) حلال کر دیئے گئے ہیں بخیر ان  
کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔۔۔۔۔

(۱ : ۵)

۶۔ سدھائے ہوئے جانوروں (اور تیر وغیرہ کو) شکار  
پر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لینا چاہیے

تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کونسی چیزیں ان کی حلال ہیں ان سے  
کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تمکو حلال ہیں اور وہ (شکار بھی حلال ہے  
جو تمہارے لئے ان شکاری جانوروں نے پکڑا جو جن کو تم نے سدھا  
رکھا ہو اور جس (طریق سے) اللہ نے تمہیں (شکار کرنا) سکھایا ہے  
(اس طریق سے) تم نے انکو سکھایا ہو تو جو شکار وہ تمہارے لئے پکڑ لیں  
اسکو کھا لیں اور (شکاری) جانوروں کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو  
اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

(۴ : ۵)

۷۔ درندے کا پھاڑا ہوا گوشت حلال ہے  
بشرطیکہ مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے

۔۔۔ یہ سب حرام ہیں۔۔۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے  
پھاڑ لکھائیں۔ مگر جس کو تم (مرنے سے پہلے) ذبح کر لو  
اور وہ جانور بھی جو تمہان پر ذبح کیا جائے۔۔۔۔

(۳ : ۵)

### 8. WORLDLY ADORNMENT AND CLEAN AND PURE FOOD IS FOR THE BELIEVERS

Say: Who hath forbidden the beautiful (gifts) of Allah, which He hath produced for His servants, and the things, clean and pure, (which He hath provided) for sustenance? Say: They are, in the life of this world, for those who believe, (and) purely for them on the Day of Judgement, ----

(VII : 32) Y

### 9. ALLAH HAS MADE LAWFUL MALE AND FEMALE CAMELS AND CATTLE AND THEIR UNBORN CALVES

(Take) eight (head of cattle) in (four) pairs: of sheep a pair, and of goats a pair, say, hath He forbidden the two males or the two females; or (the young) which the wombs of the two females enclose? — Tell me with knowledge if ye are truthful:

(VI : 144) Y

Of camels a pair, and of oxen a pair; Say, hath He forbidden the two males or the two females, or (the young) which the wombs of the two females enclose? .....

(VI : 145) Y

### 10. FORBIDDEN MEAT

Forbidden to you (for food) are: dead meat, blood, the flesh of swine, and that on which hath been invoked the name of other than Allah, that which hath been killed by

### ۸۔ الزینة والطیبة من الرزق فی العالم للمؤمنین

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ----

(۳۲ : ۷)

### ۹۔ أحل الله الانعام والابل زكورا وإناثا وما في بطون الاناث منهما

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلَّذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الرِّثْيَيْنِ أَمْ أَلْأُنثَيْنِ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ أَلْأُنثَيْنِ نَبُؤُنِي بِهِمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

(۱۴۴ : ۶)

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلَّذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الرِّثْيَيْنِ أَمْ أَلْأُنثَيْنِ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ أَلْأُنثَيْنِ ----

(۱۴۵ : ۶)

### ۱۰۔ اللحم المحرم

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ

### ۸۔ دنیا میں زینت اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں ایمان والوں کے لئے ہیں

پڑھو تو کہ جو زینت اور کھانے (پینے) کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں ان کو تم کو کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لئے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوگی....

(۳۲ : ۷)

### ۹۔ اللہ تعالیٰ نے چار پایوں اور اونٹوں کے زراور مادہ اور اٹکے پیٹوں میں بچوں کو بھی حلال قرار دیا،

ایسے چھوٹے چھوٹے کھنڈے ہیں، دو دو، بیٹوں میں اور دو دو بکریوں میں سے یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ کے پیڑے ان سے (پچھو کہ اللہ نے) دونوں کے نر کو حرام کیا، یہ دونوں ذکی، مادینوں کو یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں پٹ رہا ہو اسے اگر چہ ہو تو مجھے سند سے بتاؤ۔

(۱۴۴ : ۶)

اودو دو (اونٹوں میں سے اور دو دو) کایوں میں ان کے بارے میں بھی ان سے پچھو کہ اللہ نے، دونوں کے نر کو حرام کیا، یہ دونوں ذکی، مادینوں کو یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں پٹ رہا ہو سکتا

(۱۴۵ : ۶)

### ۱۰۔ حرام گوشت

تم پر ابراہیم جانور اور (بہتا) ہوا اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور کلامونٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گرم جائے اور جو سنگ

strangling, or by a violent blow, or by a head-long fall, or by being gored to death: that which hath been (partly) eaten by a wild animal; unless ye are able to slaughter it (in due form), that which is sacrificed on stone (altars); (forbidden) also is the division (of Meat) by raffling with arrows: that is impiety ----

(V : 3) Y

### 11. THE CIRCUMSTANCES UNDER WHICH FORBIDDEN MEAT CAN BE CONSUMED

He has only forbidden you dead meat, and blood, and the flesh of swine, and any (food) over which, the name of other than Allah has been invoked. But if one is forced by necessity without wilful disobedience, nor transgressing due limits, – then Allah is oft-Forgiving, Most Merciful.

(XVI : 115) Y

### 12. HUNTING WHILE IN THE STATE OF *EHRAM*

Please refer to 'Major and Minor Pilgrimage' page 116  
(V : 1, 94-96)

### 13 MEAT ON WHICH ALLAH'S NAME HAS NOT BEEN PRONOUNCED WHILE SLAUGHTERING IS UNLAWFUL

Eat not of (meats) on which Allah's name has not been pronounced: that would be impiety ----

(VI : 122) Y

وَالنَّطِيعَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَنْزِلِ لَكُمْ فِسْقٌ ----

(۳ : ۵)

### ۱۱- شروط جواز اكل اللحم المحرم

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمِنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(۱۱۵ : ۱۶)

### ۱۲- الإصطیاد فی حالة الاحرام

لاحظ عنوان الحج والعمرة المصفاة ۱۱۶

(۹۶-۹۴۰ : ۵)

### ۱۳- لا یحیل اكل ما لم یذکر اسم الله علیه

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ----

(۱۲۲ : ۶)

لگ کر جانے یہ سب حرام ہیں۔ او وہ جانور بھی جسکو ذبح سے پہلے کھائیں مگر جسکو تم (مرنے سے پہلے) ذبح کر لو اور وہ جانور بھی جو حقان پر ذبح کیا جائے اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو۔ یہ سب گناہ (کے کام) ہیں.....

(۳ : ۵)

### ۱۱- احرام گوشت کو کون جانتوں میں کھایا جاسکتا ہے

اُس نے تم پر طرار اور لہو اور سوزر کا گوشت حرام کر دیا ہے اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اسکو بھی) ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطیکہ گناہ کرنیوالا نہ ہو اور نہ صد سے نکلنے والا تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(۱۱۵ : ۱۶)

### ۱۲- احرام کی حالت میں شکار

لاحظہ فرمائیں حج و عمرہ صفحہ ۱۱۶

(۹۶-۹۴۰ : ۵)

### ۱۳- جس جانور کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے کھانا حرام ہے

اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اُس کا کھانا گناہ ہے.....

(۱۲۲ : ۶)

14. DO NOT DECIDE ABOUT  
LEGALITY OF EATABLES  
ARBITRARILY

But say not – for any false thing that your tongues may put forth, – “This is lawful, and this is forbidden”, so as to ascribe false things to Allah. For those who ascribe false things to Allah, will never prosper.

(XVI : 116) Y

۱۴۔ لا تقولوا هذا حلال وهذا حلال  
من تلقاء أنفسكم

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ  
الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ  
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ  
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ○

(۱۱۶:۱۶)

۱۴۔ حرام اور حلال کے خود مختار  
نہ بنو

اور یہ نہیں جھوٹ جو تمہاری زبان پر آجائے مت  
کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ کہ  
اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ جو لوگ اللہ پر  
جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔

(۱۱۶ : ۱۶)

## PERSONAL BEHAVIOUR

### GOOD BEHAVIOUR

#### 1. YOU SHOULD FULFIL YOUR PROMISES

---- And keep your promise.  
Surely it will be inquired into.  
(XVII : 34) Z

#### 2. GUARD YOUR PLEDGES

(Successful also are those)  
who are true to their trusts and  
pledges.  
(XXIII : 8) Z

#### 3. IF YOU ARE RIGHTLY GUIDED, NO ONE CAN HARM YOU

O ye who believe! Ye  
have charge of your own souls.  
He who erreth cannot injure you  
if you are rightly guided ----  
(V : 105) P

#### 4. ALLAH'S SERVANTS WALK HUMBL Y AND SALUTE THE IGNORANT AVOIDING ANY ARGU- MENTS

The true servants of the  
Merciful are those who walk  
humbly on the earth, and when  
the ignorant address them they  
say: 'Peace!'.  
(XXV : 63) Z

## المعاشرة

### حسن الخلق

۱- اوفوا بالعہد اذاعاہدتم  
اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ  
مَسْئُولًا ۝ (۲۴۱:۱۷)

۲- اوفوا بالوعد

وَالَّذِينَ هُمْ لِآمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝  
(۸۱: ۲۳)

۳- اذا كنتم على هداية  
فلن يضركم احد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا  
يُضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۝  
(۱۰۵: ۵)

۴- عباد اللہ یشون علی الارض ہونا  
ویسرون بالجہلاد مرورا لکرام

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى  
الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ  
قَالُوا سَلَامًا ۝

(۶۳: ۲۵)

## معاشرت

### حُسنِ اخلاق

۱- عہد کرو تو اس کو پورا کرو  
... اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور  
پرسش ہوگی۔  
(۲۴۱: ۱۷)

۲- اپنے اقرار کو پورا کرو

اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔  
(۸۱: ۲۳)

۳- اگر تم ہدایت پر ہو تو کوئی تمہیں  
نقصان نہیں دے سکتا

اے ایمان والو! اپنی جانوں کی حفاظت کرو جب تم  
ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا...  
(۱۰۵: ۵)

۴- اللہ کے بندے تو زمین پر آہستہ چلتے اور جاہلوں کو  
دبخت میں پڑے بغیر سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں

اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے  
چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے (جاہلانہ گفتگو  
کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔  
(۶۳: ۲۵)

### 5. BLESSED ARE THOSE WHO ANSWER HARSH WORDS WITH GENTLENESS

34. Good and evil deeds are not alike. Requite evil with good, and he, between whom and you is enmity, will become your dearest friend. 35. But none will attain this save those who endure with fortitude and are truly fortunate.

(XLI : 34-35) Z

### 6. THINK WELL INSTEAD OF ATTRIBUTING EVIL MOTIVES TO BELIEVERS

Why did not Believers — men and women — when ye heard of the affair, — put the best construction on it in their own minds and say: "This (charge) is an obvious lie"?

(XXIV : 12) Y

### 7. PUT YOUR TRUST IN ALLAH FOR WHATEVER YOU DO

----- Then, when thou hast taken a decision, put thy trust in Allah. For Allah loves those who put their trust (in Him).

(III : 159) Y

### 8. ALLAH WILL REWARD THOSE WHO SPEAK THE TRUTH

That Allah may reward the true men for their truth, and punish the hypocrites if He will, or relent toward them (if He will) -----

(XXXIII : 24) P

۵۔ رد و اعلیٰ السیئۃ بالحسنۃ وذلک  
عمل ذی حظ عظیم

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ  
بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِی بَیْنَكَ  
وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَتْ وَاِلٰی سَمِیْمٍ ﴿۳۴﴾  
وَمَا یَلْقٰهُا اِلَّا الَّذِیْنَ صَبَرُوْا وَاَوْمًا  
یَلْقٰهُا اِلَّا ذُوْ حَظٍ عَظِیْمٍ ﴿۳۵﴾

(۴۱ : ۲۴-۳۵)

۶۔ ظنوا بالمومنین خیرا

لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ لَظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ  
الْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوْا هٰذَا  
اِفْكٌ مُّبِیْنٌ ﴿۱۲﴾

(۱۲ : ۲۴)

۷۔ توكلوا على الله في اموركم

----- فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلٰی  
اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِیْنَ ﴿۳﴾

(۱۵۹ : ۳)

۸۔ ان الله سيجزي الصادقين

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِیْنَ بِصِدْقِهِمْ  
وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِیْنَ اِنْ شَاءَ اَوْ  
يَتُوبَ عَلَيْهِمْ -----

(۲۴ : ۲۴)

۵۔ سخت کلامی کا جواب اچھے طریقہ سے دینا  
بڑے نصیب کی بات ہے

اور بعد ازیں اور برائی بڑھ نہیں سکتی۔ تو سخت کلامی کا  
ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو (ایسا کرنے سے  
ترک دیکھو گے) کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا رنجوش  
دوست ہے ﴿۳۴﴾ اور یہ بات ان ہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برائی  
کرتے ہیں۔ اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں ﴿۳۵﴾

(۴۱ : ۲۴-۳۵)

۶۔ مومنوں کے متعلق بدگمانی کی بجائے حسن ظن

سے کام لینا چاہیے

جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور  
عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا۔ اور  
کیوں نہ کہا کہ یہ صریح طوفان ہے۔

(۱۲ : ۲۴)

۷۔ اللہ ہی کے بھروسہ پر کام کرنا چاہیے

..... اور جب کسی کام کا عزم مصمم کرو تو اللہ پر بھروسہ  
رکھو بیشک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

(۱۵۹ : ۳)

۸۔ اللہ سچ بولنے والوں کو بدلہ دے گا

تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے۔ اور  
منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا (چاہے)  
تو ان پر مہربانی کرے.....

(۲۴ : ۲۴)



### 3. SODOMY IS TO EXCEED ALL LIMITS

You bust after men instead of women. Truly, you are a degenerate people.

(VII : 81) Z

### 4. ALLAH KNOWS THE TREACHERY AND WHAT IS IN THE HEARTS

(Allah) knows of (the tricks) that deceive with the eyes, and all that hearts (of men) conceal.

(XL : 19) Y

### 5. DEVILS DESCEND ON EVERY LYING SINNER

221. Shall I inform you, (O People!), on whom it is that the evil ones descend? 222. They descend on every lying, wicked person, 223. (Into whose ears) they pour hearsay vanities, and most of them are liars.

(XXVI : 221-223) Y

### 6. THOSE WHO SHOW OFF THEIR PIETY AND UNDESERVED DEEDS WILL BE PUNISHED

Think not that those who exult in what they have brought about, and love to be praised for what they have not done, — think not that they can escape the Penalty. For them is a Penalty grievous indeed.

(III : 188) Y

5. Woe to those who pray but are unmindful of their prayer; 6. who make a show (of piety) 7. and give no alms to the destitute

(CVII : 5-7) Z

### ۳۔ اللواط عدوان علی اللہ

انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون

(۸۱ : ۷)

### ۴۔ يعلم اللہ خانہ الاعین وما فی الصدور

یعلم خانہ الاعین وما تخفی الصدور

(۱۹ : ۴۰)

### ۵۔ یتنزل الشیطان علی کل افاک اثیم

هل انبتکم علی من تنزل الشیطان تنزل علی کل افاک اثیم یتلقون السمع واکثرهم کذوبون

(۲۶ : ۲۲۱-۲۲۳)

### ۶۔ یعذب اللہ الذین یراؤون الناس فی اعمالهم

لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب الیم

(۱۸۸ : ۳)

الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یرآون ویمنعون الماعون

(۷-۵ : ۱۰۷)

### ۳۔ لواطت تو حدت نکل جانا ہے

یعنی خرابی نفسی پورا کرنے کے لئے عورتوں کو چھو کر لوٹوس پڑتے ہو حقیقت یہ ہے کہ لوگ حد سے نکل جانے والے ہو

(۸۱ : ۷)

### ۴۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور سینوں

کی باتوں کو بھی جانتا ہے

وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جڑ باتیں سینوں میں پوشیدہ رکھیں

(۱۹ : ۴۰)

### ۵۔ شیطان ہر جمل ساز بدکار پر اترتے ہیں

۱۔ ہر جمل ساز بدکار پر شیطان کس پر اترتے ہیں ۲۔ ہر جمل ساز بدکار پر اترتے ہیں ۳۔ جو سنی ہر بات اس کے کان میں لا دلاتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں

(۲۶ : ۲۲۱-۲۲۳)

### ۶۔ ریا کاری اور دکھاوے کی نیکیاں کرنے والوں کو عذاب ملے گا

جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لئے چاہتے ہیں کہ انکی تعریف کی جائے ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا۔

(۱۸۸ : ۳)

جو نذوق طاف سے نافل رہتے ہیں ۵۔ جو ریا کاری کرتے ہیں ۶۔ اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے ۷۔

(۷-۵ : ۱۰۷)



### 7. DO NOT BREAK CONFIRMED OATHS

Fulfil the Covenant of Allah when ye have entered into it, and break not your oaths after ye have confirmed them; indeed ye have made Allah your surety: for Allah knoweth all that ye do.

(XVI: 91) Y

### 8. MAN'S SELF OFTEN LURES HIM TO EVIL

"Nor do I absolve my own-self (of blame): the (human soul) is certainly prone to evil, unless my Lord do bestow His Mercy but surely My Lord is Oft-Forgiving, Most Merciful."

(XII: 53) Y

### 9. THOSE WHO RESTRAIN SELF FROM LUST WILL BE LODGED IN THE PARADISE

40. But as for him who feared to stand before his Lord and restrained his soul from lust,  
41. Lo! the Garden will be his home.

(LXXIX: 40-41) P

### 10. TO ESCAPE THE DEVIL'S LURE SEEK REFUGE IN ALLAH

And if a whisper from the devil reach thee (O Muhammad) then seek refuge in Allah. Lo! He is the Hearer, the Knower.

(XLI: 36) P

۷۔ لاتنقضوا ما كسبت قلوبكم  
من الايمان

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ  
وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا  
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ○  
(۹۱: ۱۶)

۸۔ إن النفس لأماراة بالسوء

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ  
لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي  
إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ○  
(۵۳: ۱۲)

۹۔ يدخل الجنة الذين لا  
يتبعون الهوى

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى  
النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ  
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ○  
(۷۹: ۴۰-۴۱)

۱۰۔ عليك ان تعوذوا بالله من  
الشیطن الرجيم

وَلَمَّا بَلَغْنَاكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعٌ  
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○  
(۴۱: ۳۶)

۷۔ پختہ اور جان بوجھ رکھائی ہوئی قسموں  
کو مت توڑو

اوجب اللہ سے عہد ادا کرنا (کرو تو اس کو پورا کرو اور  
جب کئی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو  
اپنا سنا من مقرر کر چکے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ  
اس کو جانتا ہے۔  
(۹۱: ۱۶)

۸۔ نفس تو انسان کو بُرائی کی طرف ہی راغب کرتی ہے

اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس (امارہ)  
انسان کو بُرائی ہی سکھاتا رہتا ہے۔ مگر یہ کہ میرا پروردگار  
رحم کرے۔ بیشک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔  
(۵۳: ۱۲)

۹۔ نفس کو بُری خواہشات سے باز رکھنے  
والے جنت میں ہوں گے

اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے  
ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا ○  
اس کا ٹھکانہ بہشت ہے ○  
(۷۹: ۴۰-۴۱)

۱۰۔ شیطان کے فریب سے بچنے کے لئے

اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لینا چاہیے  
اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی دوسرا پناہ  
تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ بیشک وہ سنا جانتا ہے۔  
(۴۱: ۳۶)

## PUBLIC OBLIGATIONS

## حقوق العباد

## حقوق العباد

### RESPONSIBILITY OF THE HEAD OF FAMILY

### مسئولیت رب الأسرة

### خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری

1. HEAD OF THE FAMILY  
SHOULD GUARD HIS FAMI-  
LY ALSO AGAINST THE FIRE  
OF HELL

۱۔ علی رب الأسرة ان یقی اہله  
نار جہنم

۱۔ خاندان کے سربراہ کو اپنے اہل و عیال  
کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے

O ye who believe! Save  
yourselves and your families  
from a Fire whose fuel is Men  
and stones, ----

(LXVI : 6) Y

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ  
نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ----

(۶۱ : ۶۶)

مومنو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش (جہنم)  
سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ....

(۶۱ : ۶۶)

### TREATMENT OF OFFSPRING

### التعامل مع الأولاد

### اولاد کے ساتھ سلوک

2. THE RIGHTEOUS PRAY  
FOR VIRTUOUS PROGENY

۲۔ دُعَا الْاَبُوِيْنَ الصَّالِحِيْنَ لِلاَوْلَادِ  
الصَّالِحِيْنَ

۲۔ نیک والدین کی نیک اولاد  
کے لئے دُعا

--- And that I may do right  
acceptable unto Thee. And be  
gracious unto me in the matter  
of my seed. Lo! I have turned  
unto Thee repentant, and Lo! I  
am of those who surrender unto  
Thee.

(XLVI : 15) P

O my Lord! Make me one  
who establishes regular Prayer,  
and also (raise such) among  
my offspring, O our Lord!  
And accept Thou my Prayer.

(XIV : 40) Y

وَأَنْ  
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي  
ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ  
الْمُسْلِمِينَ

(۱۵۱ : ۴۶)

... اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے۔ اور میرے  
لئے میری اولاد میں اصلاح (و تقویٰ) دے۔ میں تیری طرف  
رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں ہوں۔

(۱۵۱ : ۴۶)

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ  
ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝

(۴۰ : ۱۴)

لئے پُروردگار مجھ کو (ایسی توفیق عنایت) کہ نماز پڑھتا رہوں اور  
میری اولاد کو بھی (توفیق بخش) لے پُروردگار میری دعا قبول فرما

(۴۰ : ۱۴)

### 3. SUCKLING PERIOD FOR INFANTS

... In pain did his mother bear him, and in pain did she give him birth. The carrying of the (child) to his weaning is (a period of) thirty months ----

(XLVI : 15) Y

### 4. NEITHER WEALTH NOR CHILDREN SHOULD CAUSE ANY DISTRACTION FROM ALLAH

O ye who believe! Let not your wealth nor your children distract you from remembrance of Allah. Those who do so, they are the losers.

(LXIII : 9) P

Your wealth and your children are only a temptation, whereas, Allah! with Him is an immense reward.

(LXIV : 15) P

Wealth and children are an ornament of life of the world. But the good deeds which endure are better in thy Lord's sight for reward, and better in respect of hope.

(XVIII : 46) P

### 5. SOME WIVES AND CHILDREN CAN BE ENEMIES

O ye who believe! Lo! among your wives and your children there are enemies for you, therefore beware of them. And if ye efface and overlook and forgive, then lo! Allah is Forgiving, Merciful.

(LXIV : 14) P

### ۲- مدۃ الرضاعة

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  
وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

(۱۵ : ۴۶)

۴- لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم  
عن ذكر الله

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ  
وَأَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ  
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

(۹ : ۶۲)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ  
عِنْدَكَ أَجْرٌ عَظِيمٌ

(۱۵ : ۶۴)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمَلًا

(۱۸ : ۴۶)

۵- إن من ازوجكم واولادكم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ  
وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَحِيمٌ

(۱۴ : ۶۴)

### ۳- بچے کو دودھ پلانے کی میعاد

... اسکی ماں نے اسکو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی جنا۔  
اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا دعائی برس میں ہوتا ہے۔۔۔

(۱۵ : ۴۶)

۳- مال اور اولاد کی وجہ سے غافل  
نہیں ہونا چاہیے

مومنو! تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے  
غافل نہ کر دے اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ  
خسارہ میں اٹھانے والے ہیں۔

(۹ : ۶۲)

تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے۔ اور  
اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔

(۱۵ : ۶۴)

مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی (درونی) مزینت ہیں۔  
اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے  
پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔

(۱۸ : ۴۶)

۵- بعض عورتیں اور اولاد دشمن بھی ہوتے ہیں

مومنو! تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے  
دشمن (بھی) ہیں سو ان سے بچتے رہو اور اگر معاف  
کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے  
والا مہربان ہے۔

(۱۴ : ۶۴)

## 6. RIGHTEOUS WIVES AND CHILDREN WILL JOIN THE RIGHTEOUS IN PARADISE

69. (Being) those who have believed in Our Signs and bowed (their wills to Ours) in Islam. 70. Enter ye the Gardens, ye and your wives, in (beauty and) rejoicing.

(XLIII : 69-70) Y

And those who believe and whose families follow them in Faith—to them shall We join in their families: nor shall We deprive them (of the fruit) of aught of their works: (yet) is each individual in pledge for his deeds.

(LII : 21) Y

## DEALINGS WITH THE PARENTS

### 7. PARENTS' SHARE IN CHILDREN'S WEALTH

It is prescribed for you, when one of you approaches death, if he leave wealth, that he bequeath unto parents and near relatives in kindness -----

(II : 180) P

They ask thee, (O Muhammad), what they shall spend. Say: That which ye spend for good (must go) to parents and near kindred and orphans and the needy and the wayfarer ----

(II : 215) P

### 8. TREATMENT OF PARENTS: BE GOOD, KIND AND CONSIDERATE TO THEM

----- Worship none save Allah (only) and be good to parents

## ۶۔ یلحق الازواج والاولاد الصالحة الصالحین

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾  
أَدْخُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَزَوَّاجُكُمْ  
تُحَبَّرُونَ ﴿٧٠﴾

(۷۰ - ۶۹ : ۴۳)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ  
بِإِيمَانٍ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا  
أَلْتَهُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ  
أَمْرٍ عِيٍّ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٥٢﴾

(۲۱ : ۵۲)

## التعامل مع الأبوين

### ۷۔ حق الابوين في مال الاولاد

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ  
الْمَوْتُ أَنْ تَرَكْتُمْ خَيْرَ مَا الْوَصِيَّةُ  
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ  
-----

(۱۸۰ : ۲)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ  
مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ  
فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ ۗ -----

(۲۱۵ : ۲)

### ۸۔ عاملوا الأبوين باحسان

----- لا

تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تَقْوَىٰ وَالْوَالِدَيْنِ

## ۶۔ صالح بیویاں اور اولاد جنت میں نیکیوں کے ساتھ مل جائیں گی

جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمانبردار ہو گئے (۱۹)  
(ان سے کہا جائے گا) کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت  
(وا احترام) کے ساتھ بیٹھتے ہیں داخل ہو جاؤ (۲۰)

(۷۰ - ۶۹ : ۴۳)

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کے ساتھ  
دیا ایمان کی اولاد کو بھی (درجہ میں) ان کے ساتھ شامل کر دیئے اور  
ان کے مل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال  
(کفریہ میں مجبوس) فی النار رہے گا۔ (۲ - ۱ - ۲)

(۲۱ : ۵۲)

## والدین کے ساتھ سلوک

### ۷۔ اولاد کے مال میں والدین کا حق

تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت  
کا وقت آجائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جائے والا  
ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لئے دستوں  
کے مطابق وصیت کر جائے.....

(۱۸۰ : ۲)

(لے محمدؐ) لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ (اللہ کی راہ میں) کس  
طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ (جو چاہو خرچ کرو لیکن)  
جو مال خرچ کرنا چاہو وہ (درجہ بدرجہ الی استحقاق یعنی)  
ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو  
اور محتاجوں کو اور مسافروں کو (سب کو دو).....

(۲۱۵ : ۲)

### ۸۔ والدین کے ساتھ نیکی، احسان اور

بھلائی کا سلوک کرو

... کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ

and to kindred and to orphans and the needy, and speak kindly to mankind, ----

(II : 83) P

And serve Allah: and ascribe nothing as partner unto Him. (Show) kindness unto parents, and unto near kindred, ----

(IV : 36) P

Say: "Come, I will rehearse what Allah hath (really) prohibited you from": join not anything as equal with Him; be good to your parents: ----

(VI : 152) Y

And we have commanded unto man kindness towards parents. ----

(XLVI : 15) P

Thy Lord hath decreed, that you worship none save Him, and (that ye show) kindness to parents. ----

(XVII : 23) P

And We have enjoined upon man concerning his parents His mother beareth him in weakness upon weakness and his weaning in two years - Give thanks unto Me and unto thy parents. Unto Me is the journeying.

(XXXI : 14) P

### 9. SHOW SPECIAL REGARD IN THEIR OLD AGE TO PARENTS

23. ---- Whether one or both of them attain old age in thy life, say not to them a word of contempt, nor repel them, but address them in terms of honour. 24. And, out of kindness, lower to them the wing of humility, ----

(XVII : 23-24) Y

إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ---

(۸۳: ۲)

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ ---

(۳۶: ۴)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ---

(۱۵۲: ۶)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ---

(۱۵: ۴۶)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا رِيبًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ---

(۲۳: ۱۷)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ○

(۱۴۱: ۳۱)

وَاحْتَرَمُوا الْآبُورِينَ عِنْدَ الْكِبَرِ ---

عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ③

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ --- ③

(۲۴-۲۳: ۱۷)

اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا.....

(۸۳: ۲)

اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور... سب کے ساتھ احسان کرو... (۳۶: ۴)

کہو (لوگو! آؤ میں تمہیں چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں) انہی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ نہ کرنا بھلائی کرنا ہے (۱۵۲: ۶)

اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا... (۱۵: ۴۶)

اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو... (۲۳: ۱۷)

اور ہم نے انسان کو جسے اسکی ماں تکلیف پر تکلیف سہہ کر بیٹھ میں اٹھائے رکھتی ہے پھر اسکو دودھ پلاتی ہے اور (آخر کار) دو برس میں اسکو دودھ چھڑانا ہوتا ہے اپنے نیز اسکی ماں باپ کے لئے یہی تاکید کی ہے میرا بھی شکر گزارہ اولاد اپنے ماں باپ کو میری ہی طرف ٹوٹ کر آتا ہے (۱۴۱: ۳۱)

۹- والدین کا بڑھاپے میں خاص ادب کرو

... اور اگر ان میں ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو آفت تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان کے ساتھ بات ادب کے ساتھ کرنا ③ اور عجز و نیاساز سے ان کے آگے جھکے رہو... ③

(۲۴-۲۳: ۱۷)

### 10. WHEN TO DISOBEY THE PARENTS

“But if they strive to make thee join in worship with Me, things of which thou hast no knowledge, obey them not; yet bear them company in this life with justice (and consideration), and follow the way of those who turn to Me (in love): in the End the return of you all is to me. ----

(XXXI : 15) Y

### 11. ALLAH FORGIVES CHILDREN'S INADVERTENT MISTAKES

Your Lord knoweth best what is in your hearts: if ye do deeds of righteousness, verily He is Most Forgiving to those who turn to Him again and again (in true penitence).

(XVII : 25) Y

### 12. PRAY FOR YOUR PARENTS

And, out of kindness lower to them the wing of humility, and say: “My Lord! bestow on them thy Mercy even as they cherished me in childhood”

(XVII : 24) Y

### DEALINGS WITH THE WIFE

### 13. BE PATIENT AND TOLERANT

---- On the contrary live with them on a footing of kindness and equity. If ye take a dislike to them, it may be that

### ۱۰۔ مالا یجوز اتباع الأبوين فیہ

وَأِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمْ فِي الدُّنْيَا مُعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنْابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُهُمْ

(۱۵ : ۳۱)

### ۱۱۔ ان الله يعفو عن الأولاد إن اخطأوا نسياناً في حق الوالدين

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا

(۱۷ : ۲۵)

### ۱۲۔ علی الأولاد بالدعاء للوالدين

وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

(۱۷ : ۲۴)

### التعامل مع الزوجة

### ۱۳۔ عاشر الزوجة بالمعروف

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى

### ۱۰۔ والدین کا کس حالت میں کہنا نہ مانو

اور اگر وہ تم سے کہیں کہ تم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک کر کے پوجو گے تو انہیں توڑ کا کہا نہ مانو ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا بھی طعن ساتھ دینا اور جو شخص میری طرف سے آئے اس کے لئے پرچہ پرچہ تم کو میری طرف لوٹ کر آتا ہے۔۔۔

(۱۵ : ۳۱)

### ۱۱۔ اولاد سے بچوں کو کون فریادداشت ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے

تمہارا رب تمہارے مانی انصاف کو خوب جانتا ہے اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کی غلطی معاف کر دیتا ہے۔۔۔ (۱۷ : ۲۵)

(۱۷ : ۲۵)

### ۱۲۔ اولاد کو ماں باپ کیلئے دعا کرنی چاہیے

اور بچہ دنیا سے آئے آگے بچھے ہو اور ان کے حق میں مارو کہ اے پروردگار بیباکوں نے مجھے بچپن میں (شفقت سے) پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما

(۱۷ : ۲۴)

### بیوی کے ساتھ سلوک

### ۱۳۔ بیوی کے ساتھ تعلقات میں صبر و تحمل سے کام لو

۔۔۔ اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو۔ اور تم

ye dislike a thing, and Allah brings about through it a great deal of good.

(IV : 19) Y

## DEALINGS WITH RELATIVES

### 14. TREATMENT WITH RELATIVES

And render to the kindred their due rights, as (also) to those in want, and to the wayfarer: but squander not (your wealth) in the manner of a spendthrift.

(XVII : 26) Y

Lo! Allah enjoineeth justice and kindness, and giving to kinsfolk, ----

(XVI : 90) P

Let not those among you who are endued with grace and amplitude of means resolve by oath against helping their kinsmen, those in want, and those who have left their homes in Allah's cause: let them forgive and overlook: ----

(XXIV : 22) Y

8. But if at the time of division other relatives, or orphans, or poor, are present, feed them out of the (property), and speak to them words of kindness and justice. 9. Let those (disposing of an estate) have the same fear in their minds, as they would have for their own if they had left a helpless family behind: ----

(IV : 8-9) Y

أَنْ تَكْرَهُهُوَ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا ۝  
(۱۹ : ۴)

## التعامل مع الأقارب

### ۱۴- التعامل مع الأقارب

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ  
وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝

(۲۶ : ۱۷)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ  
وَلِأَيَّتَىٰ ذِي الْقُرْبَىٰ ----  
(۹۰ : ۱۶)

وَلَا يَأْتِلْ أَوْلِيَا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَتَسَعَدِ  
أَنْ يُؤْتُوا أَوْلِيَا الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَ  
الْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا  
وَلْيَصْفَحُوا ----

(۲۴ : ۲۴)

وَلِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَنْزِلُوا مِنْهُمْ  
مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا  
مَعْرُوفًا ۝  
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ  
خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ ---- ۝  
(۹-۸ : ۴)

کو ناپسند ہوں تو مجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور  
اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔  
(۱۹ : ۴)

## رشتہ داروں کے ساتھ سلوک

### ۱۴- رشتہ داروں کے ساتھ سلوک

اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق  
ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔

(۲۶ : ۱۷)

اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں  
کو (خرج سے مدد) دینے کا حکم دیتا ہے.....  
(۹۰ : ۱۶)

اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب مسرت ہیں وہ  
اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں  
اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے  
ان کو چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں....

(۲۴ : ۲۴)

اور جب میراث کی تقسیم کے وقت (غیر وارث) رشتہ دار  
اور یتیم اور محتاج آجائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ  
دے یا کرو اور یتیموں کو بھی سے پیش آیا کرو ۝ اور ایسے  
لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد  
نئے نئے پتے چھوڑ جائیں اور ان کو انہی نسبت خوف ہو  
کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا ۝

(۹-۸ : ۴)

### 15. BLOOD RELATIONS HAVE A PRIORITY OVER OTHERS

---- But kindred by blood have prior rights against each other in the Book of Allah. Verily Allah is well acquainted with all things.

(VIII : 75) Y

### DEALINGS WITH ORPHANS

#### 16. CARE OF ORPHANS' PROPERTY

Give unto orphans their wealth. Exchange not the good for the bad (in your management thereof) nor absorb their wealth into your own wealth. Lo! that would be a great sin.

(IV : 2) P

--- And they question thee concerning orphans. Say: To improve their lot is best. And if ye mingle your affairs with theirs, then (they are) your brothers. ----

(II : 220) P

5. Give not unto the foolish (what is in) your (keeping of their) wealth, which Allah hath given you to maintain; but feed and clothe them from it and speak kindly unto them. 6. Prove orphans till they reach the marriageable age; then, if you find them of sound judgement, deliver over unto them their fortune; and devour it not by squandering and in haste lest they should grow up. Whoso (of the guardians) is rich,

### ۱۵۔ ولدوی الارحام حق بعضهم على بعض

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ  
فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

(۷۵: ۸)

### التعامل مع الیتامی

#### ۱۶۔ صیانة مال الیتامی

وَأُولُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا  
الْخَبِيثَاتِ بِالطَّيِّبَاتِ وَلَا تَأْكُلُوا  
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ  
كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝

(۴: ۲)

وَسَيَسْأَلُونَكَ  
عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ  
خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ  
فَأَخْوَانِكُمْ ۖ

(۲۲۰: ۲)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي  
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَأَنْزَلُكُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ  
قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝  
وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا  
النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا  
فَازْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا  
تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ

۱۵۔ خون کے رشتہ داروں کا ایک دوسرے  
پر زیادہ حق ہے

... و رشتہ دارانہ کے مکرکے رو سے ایک دوسرے کے زیادہ  
حق دار ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔  
(۷۵: ۸)

### یتیموں کے ساتھ سلوک

#### ۱۶۔ یتیموں کے مال کی حفاظت

اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے  
کردو اور ان کے پاکیزہ (اور عمدہ) مال کو اپنے ناقص  
اور برے مال سے نہ بدلو۔ اور نہ ان کا مال اپنے مال  
میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔

(۲: ۲)

... اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں کہ ان  
کی (حالت کی) اصلاح بہت اچھا کام ہے اور اگر تم ان سے مل کر  
رہنا یعنی فرح کھنا کھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں.....

(۲۲۰: ۲)

اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں  
کے لئے سبب معیشت بنایا ہے مت دو (ہاں، اس میں  
سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو۔ اور ان سے معقول باتیں  
کہتے رہو) اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف  
رکھو پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی کچھ بھرتی ہو تو ان کا مال  
ان کے حوالے کردو۔ اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہونے لگیں  
یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے) اس کو  
فصل خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ مال



let him abstain generously (from taking of the property of orphans); and whoso is poor let him take thereof in reason (for his guardianship). And when ye deliver up their fortune unto orphans, have (the transaction) witnessed in their presence. Allah sufficeth as a Reckoner.

(IV : 5-6) P

Those who unjustly eat up the property of orphans, eat up a fire into their own bodies: they will soon be enduring a blazing Fire!

(IV : 10) Y

#### 17. DEALINGS WITH WOMEN AND CHILDREN WITHOUT PARENTS

They consult thee concerning women. Say: Allah giveth you decree concerning them, --- and (concerning) the weak among children, and that ye should deal justly with orphans.

(IV : 127) P

#### 18. TREATMENT OF ORPHANS

Therefore, treat not the orphans with harshness.

(XCIII : 9) Y

---- And do good to parents, kinstolk, orphans, those in need, neighbours who are near, neighbours who are strangers, the Companion by your side, the way-farer (ye meet), and what your right hands possess: ----

(IV : 36) Y

يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا  
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا  
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ  
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهَا  
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

(۶-۵: ۴)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى  
ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ  
نَارًا ۖ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ۝

(۱۰: ۴)

#### ۱۷- التعامل مع یتامی النساء والصفار

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ  
يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۚ ---  
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ  
وَأَنَّ تَقْوَمُوا بِالْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ ---

(۱۲۷: ۴)

#### ۱۸- التعامل مع الیتامی

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ  
(۹: ۹۳)

---- بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَبِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ ۖ وَ  
الْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ  
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ

(۳۶: ۴)

ہو اس کو ایسے مل سے قلمی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے۔  
اور جو بے عتدور ہو وہ مناسب طور پر (یعنی  
بقدر خدمت) کچھ لے لے۔ اور جب ان کا مال  
ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو۔ اور حقیقت  
میں تو اللہ ہی (گواہ اور) حساب لینے والا کافی ہے ①

(۶-۵: ۴)

جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے  
ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور  
دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔

(۱۰: ۴)

#### ۱۷- یتیم عورتوں اور بچوں کے ساتھ سلوک

(اسے پیغمبر، لوگ تم سے (یتیم) عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے  
ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے (ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں  
اجازت دیتا ہے۔۔ اور (بیزین) بچوں کے بارے میں اور  
یہ (بھی حکم دیتا ہے) کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو۔۔۔

(۱۲۷: ۴)

#### ۱۸- یتیموں کے ساتھ برتاؤ

تو تم بھی یتیم پرستم نہ کرنا  
(۹: ۹۳)

..... ماں باپ اور قرابت والوں اور  
یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں  
اور اجنبی ہمسایوں اور رفقاء پہلو (یعنی  
پاس بیٹھنے والوں) اور مسافروں اور جو لوگ  
تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو۔۔۔

(۳۶: ۴)

## DEALINGS WITH OTHER CATEGORIES OF PEOPLE

### 19. DEALINGS WITH RELATIVES, FAR AND NEAR NEIGHBOURS AND COMPANIONS ETC

---- (Show) kindness unto  
---- the neighbours who is of kin (unto you) and the neighbour who is not of kin, and the fellow traveller and the wayfarer ----

(IV : 36) P

But refuse (to supply) (even) neighbourly needs.

(CVII : 7) Y

### 20. DEALINGS WITH THE POOR, THE INDIGENT AND THE NEEDY

---- But it is righteousness -- to believe in Allah and the Last Day, and the Angels and the Book and the Messengers; to spend of your substance, out of love for Him for your kin, for orphans, for the needy, for the wayfarer, for those who ask, ----

(II : 177) Y

But if at the time of division other relatives, or orphans, or poor, are present, feed them out of the (property), and speak to them words of kindness and justice.

(IV : 8) Y

The Alms are only for the poor and the needy, and those who collect them, ----

(IX : 60) P

Nor repulse the petitioner (unheard);

(XCIII : 10) Y

## التعامل مع الآخرين

### ۱۹۔ التعامل مع الاقارب المجيران والجيران ذوی الجنب والاصدقاء

.... وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَ

الْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ ----

(۳۶: ۴)

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ○

(۷: ۱۰۷)

### ۲۰۔ التعامل مع المساكين

والفقراء

.... وَلَكِنَّ

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى

الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَ

الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ

السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ ----

(۱۷۷: ۲)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ

مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا ○ (۸: ۴)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَ

الْعَمَلِينَ عَلَيْهَا ----

(۹۰: ۱۹)

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُوهُ

(۱۰: ۹۳)

## دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک

### ۱۹۔ رشتہ دار ہمسائے اجنبی ہمسائے اور رفقائے پہلو کے ساتھ سلوک

.... اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پس بیٹھنے والوں، .... سب کے ساتھ احسان کرو۔۔۔۔

(۳۶: ۴)

اور برتنے کی چیزیں ماریتا نہیں دیتے۔

(۷: ۱۰۷)

### ۲۰۔ مساکین، فقرا اور محتاجوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے

.... بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں اور مال، وجود، بزرگھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں۔۔۔۔

(۱۷۷: ۲)

اور جب میراث کی تقسیم کے وقت (فیوارث) رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آجائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو۔ اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔

(۸: ۴)

صدقات (یعنی زکوٰۃ وغیرات) تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے۔۔۔۔

(۹۰: ۱۹)

اور مانگنے والے کو بھڑکی نہ دینا۔

(۱۰: ۹۳)

But if thou turn away from them seeking mercy from thy Lord, for which thou hopest, then speak unto them a reasonable word.

(XVII : 28) P

### 21. DEALINGS WITH PRISONERS

And feed with food the needy wretch, the orphan and the prisoners, for love of Him.

(LXXVI : 8) P

### 22. DEALINGS WITH WAY-FARERS

They ask thee (O Muhammad), what they shall spend say: That which ye spend for good (must go) to ---- the wayfarer. And whatsoever good you do, lo! Allah is Aware of it.

(II : 215) P

Alms are for the poor and the needy, ---- in the Cause of Allah, and for the wayfarer: (Thus is it) ordained by Allah, and Allah is Full of Knowledge and Wisdom.

(IX : 60) Y

Give to the near of kin their due, and also to the destitute and to the wayfarers. Do not squander (your substance) wastefully.

(XVII : 26) Z

### 23. DEALINGS WITH MALE AND FEMALE SLAVES

And serve Allah: and ascribe nothing as partner unto Him. (Show) kindness unto parents, ---- and (the slaves) whom your right hands possess. ----

(IV : 36) P

وَإِمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ فَخَرِّصِي لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۝  
(۲۸: ۱۷)

### ۲۱- التعامل مع الأسير

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝  
(۸: ۷۶)

### ۲۲- التعامل مع المسافر

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ ----  
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝  
(۲۱۵: ۲)

(۲۱۵: ۲)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ----

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝  
(۶۰: ۹)

(۶۰: ۹)

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبْذِرْ رِبًّا تَبَذَّرَ ۝  
(۲۶: ۱۷)

(۲۶: ۱۷)

### ۲۳- التعامل مع الأمة والعبد

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ----  
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ----  
(۳۶: ۴)

(۳۶: ۴)

اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت دینی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف تو تجرہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو۔

(۲۸: ۱۷)

### ۲۱- قیدی کے ساتھ سلوک

اور باوجودیکہ ان کو خود طعام کی خواہش (اور حاجت) ہے۔ فیتروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔

(۸: ۷۶)

### ۲۲- مسافر کے ساتھ سلوک

(اے محمدؐ) لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ (اللہ کی راہ میں) کس طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ (جو چاہو خرچ کرو لیکن) بڑا خرچ کرنا چاہو وہ .... اور مسافروں کو (سب کو دو) اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔

(۲۱۵: ۲)

صدقات (یعنی زکوٰۃ وغیرت) تو مفلسوں... اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں (کی مدد) میں (بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے یہ حقوق) اللہ کی طرف سے مقرر کردئے گئے ہیں اور اللہ جانتے والا (اور) حکمت والا۔

(۶۰: ۹)

اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔

(۲۶: ۱۷)

### ۲۳- لونڈی اور غلام کے ساتھ سلوک

اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ .... اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو۔

(۳۶: ۴)

----- And if any of your slaves ask for a deed in writing (to enable them to earn their freedom for a certain sum), give them such a deed if ye know any good in them; yea, give them something yourselves out of the means which Allah has given to you. But force not your mind to prostitution when they desire chastity, in order that ye may make a gain in the goods of this life. But if anyone compels them, yet after such compulsion, is Allah Oft For-giving, Most Merciful (to them).

(XXIV : 33) Y

#### 24. DEALINGS WITH THE NEEDY

But if thou turn away from them, seeking mercy from thy Lord, for which thou hopest, then speak unto them a reasonable word.

(XVII : 28) P

----- (Show) kindness unto parents, and unto near kindred, and orphans, and the needy, -----

(IV : 36) P

#### 25. DEALINGS WITH DEBTORS

If the debtor is in a difficulty, grant him time till it is easy for him to repay. But if ye remit it, by way of charity, that is best for you, if you only knew.

(II : 280) Y

#### 26. FEEDING THE POOR

8. And they feed, for the love of Allah, the indigent, the orphan, and the captive, 9. (Saying): "We feed you for the

..... وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُواهُمْ  
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا  
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ  
اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ  
وَلَا تُكْرَهُوا وَفَاتَيْتُمْ  
عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ  
تَحْصِنَ الْبَتَّغُوا عَرْضَ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ  
يُكْرِهْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ  
مِنْ بَعْدِ الْكُرْهِمْ غَفُورٌ  
رَحِيمٌ ○

(۲۴:۳۳)

#### ۲۴۔ التعامل مع المحتاجين

وَأَمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ  
بِتَغَاءِ رَحْمَةٍ  
مَنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا  
فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا  
مَيِّسُورًا ○

(۲۸:۱۷)

..... وَالْأُولَادِ الَّذِينَ  
إِحْسَانًا وَالْيَتَامَى  
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى  
-----

(۳۶:۴)

#### ۲۵۔ التعامل مع المديون

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ  
فَنظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ  
وَإِنْ أَنْ تَصَدَّقُوا  
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ○

(۲۸۰:۲)

۲۶۔ اطعام الفقراء  
والمساكين  
وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ  
عَلَى حُبِّهِمْ  
مُسْكِينًا وَيَتِيمًا  
وَأَسِيرًا ○  
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ  
لِوَجْهِ اللَّهِ  
لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ

..... اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں سے کسی کو  
اور کسی پاؤ تو ان سے مکاتبت کرو اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا  
جس میں سے ان کو بھی دو اور اپنی نوذریوں کو اگر وہ پاک بن  
رہنا چاہیں تو اپنے شرمی سے، دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل  
کرنے کے لئے بدکاری پر مجبور نہ کرنا۔ اور جو ان کو مجبور کرے گا  
تو ان اسپیریوں کے مجبور کئے جانے کے بعد اللہ  
بخشنے والا مہربان ہے۔

(۳۳:۲۴)

#### ۲۴۔ ضرورت مندوں کے ساتھ سلوک

اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت (یعنی ذرا دسی) کے  
انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ  
نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو۔

(۲۸:۱۷)

..... اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں  
اور محتاجوں... سب کے ساتھ احسان کرو...  
(۳۶:۴)

#### ۲۵۔ مقروض کے ساتھ سلوک

اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے (کشائش) کے  
حاصل ہونے تک ہمت دو اور اگر ذرا قرض بخش دو  
تو وہ تمہارے لئے زیادہ اچھا ہے بشرطیکہ سمجھو۔

(۲۸۰:۲)

#### ۲۶۔ غزبا کو کھانا کھلانا

اور جو بزرگ یا نوجوان خود طعام کی خواہش (اور حاجت) ہے فقروں اور یتیموں  
اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں ○ (اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خاص اللہ کیلئے کھلاتے

sake of Allah alone: no reward do we desire from you, nor thanks."

(LXXVI: 8-9) Y

17. Nay, but you (for your part) honour not the orphan.  
18. And urge not on the feeding of the poor.

(LXXXIX: 17-18) P

12. And what will explain to thee the path that is steep?  
13. (It is:) freeing the bondman. 14. Or the giving of food in a day of privation. 15. To the orphan with claims of relationship. 16. Or to the indigent (down) in the dust.

(XC: 12-16) Y

1. Hast thou observed him who belieeth religion? 2. That is he who repelleth the orphan? 3. And urgeth not the feeding of the needy.

(CVII: 1-3) P

جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ①

(۹-۸: ۷۶)

كَلَّا بَلْ لَا تَشْكُرُونَ ①  
وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ②

(۱۸-۱۷: ۸۹)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ ③

فَلْيُرَقِّبَةَ ④

أَوْ اطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ⑤

يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ⑥

أَوْ مَسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ⑦

(۱۶-۱۲: ۹۰)

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالْدِّينِ ①

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيْمَ ②

وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ③

(۳-۱: ۱۰۷)

میں یتیم سے عوفی کے خواستگار ہیں رشکرگزار کی طلبگار ①

(۹-۸: ۷۶)

نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے ② اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو ③

(۱۸-۱۶: ۸۹)

اور تم کیسا سمجھے کہ گھائی کیا ہے؟ ④ کسی کی گردن کا پھسٹانا ⑤ یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ⑥ یتیم رشتہ دار کو ⑦ یا فقیر خاکسار کو ⑧

(۱۶-۱۲: ۹۰)

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو (روز) جزا کو بھلاتا ہے؟ یہ وہی (برکت) ہے جو یتیم کو دیکھ دیتا ہے ① اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لئے (لوگوں) کو ترغیب نہیں دیتا ②

(۳-۱: ۱۰۷)

## LAW AND JUSTICE

### EVIDENCE AND EQUITY

#### 1. ALLAH COMMANDS JUSTICE AND EQUITY

Say: "My Lord hath commanded justice; -----

(VII : 29) Y

----- judge between them with equity. Lo! Allah loves the equitable.

(V : 42) P

#### 2. GIVE TRUE EVIDENCE AND REMAIN FIRM FOR JUSTICE

O ye who believe! Stand out firmly for justice, as witnesses to Allah, even as against yourselves, or your parents, or your kin, and whether it be (against) rich or poor: for Allah can best protect both. Follow not the lusts (of your hearts), lest ye swerve, and if ye distort (justice) or decline to do justice, verily Allah is well-acquainted with all that ye do.

(IV : 135) Y

#### 3. BE JUST EVEN TO ENEMIES

O ye who believe! Be steadfast witnesses for Allah in equity, and let not hatred of any people seduce you that ye deal not justly. Deal justly,

## القانون والعدالة

### الشهادة والعدل

۱- ان اللہ یا امر بالعدل والقسط

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ----

(۲۹: ۷)

---- فَأَحْكُمُ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ○

(۴۲: ۵)

۲- کونوا قوامین بالقسط وأتوا

شهادة حقة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ

بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ

أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ

بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ

تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تَعْرِضُوا

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○

(۱۳۵: ۴)

۳- کونوا قوامین بالقسط عند

شأن قوم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ

لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدُوا

## قانون و عدالت

### شہادت و عدل

۱- اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے

کہہ دو کہ میں نے پروردگار سے کہا ہے کہ انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔

(۲۹: ۷)

... تو انصاف کا فیصلہ کرنا کہ اللہ انصاف کرنے

والوں کو دوست رکھتا ہے۔

(۴۲: ۵)

۲- سچی گواہی دو اور انصاف پر قائم رہو

اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لئے سچی

گواہی دو خواہ (اس میں) تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور

رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو اگر کوئی ایسا ہے یا فقیر تو اللہ

ان کا خیر خواہ ہے۔ تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ

چھوڑ دینا۔ اگر تم پیچھا رہنا شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا

چاہو گے تو (جان رکھو) اللہ تمہارے سب کاموں

سے واقف ہے۔

(۱۳۵: ۴)

۳- لوگوں کی دشمنی میں بھی انصاف پر قائم رہو

اے ایمان والو! اللہ کے لئے انصاف کی گواہی دینے

کے لئے کھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات

پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی

that is nearer to your duty. Observe your duty to Allah. Lo! Allah is informed of what you do.

(V : 8) P

#### 4. DO NOT GIVE FALSE EVIDENCE AND STAND FIRM ON YOUR EVIDENCE

Those who witness no falsehood, and, if they pass by futility, they pass by it with honourable (avoidance);

(XXV : 72) Y

And those who stand firm in their testimonies,

(LXX : 33) Y

#### 5. DO NOT HIDE TESTIMONY

----- Hide not testimony. He who hideth it, verily his heart is sinful. Allah is Aware of what ye do.

(II : 283) P

#### 6. IN BUSINESS MATTERS CALL TWO MEN OR ONE MAN AND TWO WOMEN AS WITNESSES

----- And call to witness, from among your men, two witnesses. And if two men be not (at hand) then a man and two women, of such as ye approve as witnesses, so that if the one erreth (through forgetfulness) the other will remember

(II : 282) P

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

(۸:۵)

۴۔ اجتنابوا شہادۃ الزور واستقیموا علی شہادتکم

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ○

(۷۲:۲۵)

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ○

(۳۳:۷۰)

۵۔ لاتکتموا الشہادۃ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ○

(۲۸۳:۲)

۶۔ استشهدوا رجلین أو رجلا و امرأتین فی العمارات التجاریۃ

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاتِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ○

(۲۸۲:۲)

پرہیزگاری کی بات ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

(۸:۵)

۴۔ جھوٹی گواہی مت دو اور شہادت پر قائم رہو

اور وہ جو بھول کر ہی نہیں دیتے اور جب ان کو سہو چہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگوارانہ انداز سے گزرتے ہیں۔

(۷۲:۲۵)

اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔

(۳۳:۷۰)

۵۔ شہادت کو چھپانا نہیں چاہیے

..... اور (دیکھنا) شہادت کو مت چھپانا جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہو گا۔ اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے

(۲۸۳:۲)

۶۔ کاروباری معاملات میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی لے لو

..... اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو رکافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی

(۲۸۲:۲)

7. FOUR WITNESSES ARE  
REQUIRED IF HONOURABLE  
WOMEN ARE ACCUSED

Please refer to "Punish-  
ments for Fornication, Adultery  
and Slander" page 255

(XXIV : 4)

8. WHAT SHOULD BE DONE  
IF FOUR WITNESSES CAN-  
NOT BE PRODUCED

Please refer to "Punish-  
ments for Fornication, Adultery  
and Slander" page 256

(XXIV : 6-9)

9. WITNESSES NECESSARY  
FOR MAKING A WILL

Please refer to "Bequest and  
Inheritance" page 202

(V : 106-108; II : 182)

10. WITNESSES ARE RE-  
QUIRED IF WIFE IS RETAIN-  
ED BEFORE FINAL DIVORCE

Please refer to "Divorce"  
page 175

(LXV : 2)

11. ALLAH SENDS THE  
WRONG DOERS ASTRAY

----- He leaves the wrong-  
doers in error - Allah accomp-  
lishes what He pleases.

(XIV : 27) Z

۷۔ من الضروري احضار اربعة شهود  
لتبرير قذف النساء الطيبات

لاحظ عنوان الزنا والقذف على الصفحة رقم ۲۵۵

(۴ : ۲۴)

۸۔ ماذا يجب فعله عند عدم  
احضار الشهود الأربعة

لاحظ عنوان الزنا والقذف على الصفحة رقم ۲۵۶

(۹-۶ : ۲۴)

۹۔ الشهادة فرض عند الوصية

لاحظ عنوان احكام الوصية والوراثة الصفحة رقم ۲۰۲

(۱۸۲ : ۱۰۸-۱۰۶ : ۵)

۱۰۔ الشهادة فرض عند رجعة الزوجة  
بعد مرتين من الطلاق

لاحظ عنوان الطلاق على الصفحة رقم ۱۷۵

(۲ : ۶۵)

۱۱۔ ان الله يضل الظالمين

----- وَيُضِلُّ

اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝

(۲۷ : ۱۴)

۷۔ اگر پاکیزہ عورتوں کو بدکاری کا عیب لگانا  
ہو تو چار گواہ پیش کرنا لازم ہے

ملاحظہ فرمائیں "زنا اور قذف" صفحہ ۲۵۵

(۴ : ۲۴)

۸۔ اگر چار گواہ نہ لائے جاسکیں تو  
کیا کرنا چاہیے

ملاحظہ فرمائیں "زنا اور قذف" صفحہ ۲۵۶

(۹-۶ : ۲۴)

۹۔ وصیت کے لئے گواہی لازم ہے

ملاحظہ فرمائیں "وصیت اور وراثت" صفحہ ۲۰۲

(۱۸۲ : ۱۰۸-۱۰۶ : ۵)

۱۰۔ دو دفعہ طلاق دینے کے بعد زوجیت میں  
لینے کے لئے گواہی لازم ہے

ملاحظہ فرمائیں "طلاق" صفحہ ۱۷۵

(۲ : ۶۵)

۱۱۔ اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے

..... اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ

جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

(۲۷ : ۱۴)



### 12. NEVER ACCEPT EVIDENCE OF MEN WHO FAIL TO PROVE ALLEGATIONS AGAINST HONOURABLE WOMEN

And those who accuse honourable women but bring not four witnesses, scourge them (with) eighty stripes and never (afterward) accept their testimony. They indeed are evil doers.

(XXIV : 4) P

### 13. HOLY PROPHET GIVEN OPTION IN SETTLING DISPUTES OF PEOPLE OF THE BOOK

Listeners for the sake of falsehood 'Greedy for illicit gain' If then they have recourse unto thee (Muhammad) judge between them or disclaim jurisdiction. If thou disclaimest jurisdiction, then they cannot harm thee at all. But if thou judgest, judge between them with equity. Lo! Allah loveth the equitable.

(V : 42) P

### 14. DO NOT BE A PLEADER FOR THE PERFIDIOUS AND THE SINFUL

We have sent down to thee the Book in truth, that thou mightest judge between men, as guided by Allah: so be not (used) as an advocate by those who betray their trust;

(IV : 105) Y

And plead not on behalf of (people) who deceive themselves. Lo! Allah loveth not one who is treacherous and sinful.

(IV : 107) P

### ۱۲- من یرم بریة فلا تقبلوا له شهادة

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○

(۴: ۲۴)

### ۱۳- لقد خیر الرسول فی الحكم فیما اختلف فیہ من اهل الکتاب

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلسُّحْتِ ۖ فَإِنْ جَاءَكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِرْضٌ غَشِيَةٌ وَإِنْ أُعْرِضَ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصِرُوا بِكَ عُيُودًا وَمَا هُمْ بِبَيْنِهِمْ بِالسُّبْحِ ۗ وَإِنْ أُضْرِبَ لَكَ مِنْهُمْ عِرْضٌ غَشِيَةٌ وَإِنْ أُعْرِضَ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصِرُوا بِكَ عُيُودًا وَمَا هُمْ بِبَيْنِهِمْ بِالسُّبْحِ ۗ وَإِنْ أُضْرِبَ لَكَ مِنْهُمْ عِرْضٌ غَشِيَةٌ وَإِنْ أُعْرِضَ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصِرُوا بِكَ عُيُودًا وَمَا هُمْ بِبَيْنِهِمْ بِالسُّبْحِ ۗ ○

(۴: ۵)

### ۱۴- لا تكونوا للجرمین الدجالین خصیما

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَافِيْنَ خَصِيْمًا ○

(۱۰۵: ۴)

وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا ○

(۱۰۷: ۴)

### ۱۲- جو پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگائیں ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو

اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا یہب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اتنی دقتیں مارو۔ اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو۔ اور یہی بدکردار ہیں۔

(۴: ۲۴)

### ۱۳- اہل کتاب کے تنازعات میں رسول کو فیصلہ یا عدم فیصلہ کا اختیار دیا گیا

یہ، جھوٹی باتیں بنانے کے لئے جاسوسی کرنے والے اور درشتوں کا، حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس دکوئی مقدمہ فیصلہ کرنے کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کرو یا ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو ان کا فیصلہ کرنا کہ اللہ انہیں کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

(۴: ۵)

### ۱۴- دغا بازوں اور مرتکب جرائم کی وکالت نہیں کرنی چاہیے

(لئے پیغمبر) ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصلہ کرو اور دیکھو) دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا۔

(۱۰۵: ۴)

اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں انکی طرف بحث نہ کرنا کیونکہ اللہ غاٹن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا

(۱۰۷: ۴)

Ah! these are the sort of men on whose behalf ye may contend in this world; but who will contend with Allah on their behalf on the Day of Judgement, or who will carry their affairs through?

(IV : 109) Y

### 15. JUDGE WITH JUSTICE

----- and if ye judge between mankind, that ye judge Justly. Lo! comely is this which Allah admonisheth you. Lo! Allah is ever Hearer, Seer.

(IV : 58) P

### 16. REWARD OF GOOD AND BAD RECOMMENDATIONS

Whoever recommends and helps a good cause becomes a partner therein: and whoever recommends and helps an evil cause, shares in its burden: -----

(IV : 85) Y

### PUNISHMENTS FOR FORNICATION, ADULTERY AND SLANDER

#### 1. COMMANDMENTS IN SURAH 'AL-NOOR' (Serial No: XXIV) MADE OBLIGATORY

A Surah which we have sent down, and which we have ordained: in it have We sent down clear Signs, in order that ye may receive admonition.

(XXIV : 1) Y

هَٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝

(۱۰۹ : ۴)

### ۱۵۔ احکمو بالقسط

----- وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

(۵۸ : ۴)

### ۱۶۔ ثواب الشفاعة الحسنة والسيدة

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِمَّا جَاءَ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِمَّا جَاءَ -----

(۸۵ : ۴)

### الزنا والقذف

۱۔ فرضیت الأحكام الواردة في سورة النور (رقم ۲۴)

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

(۱ : ۲۴)

بمسلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں قرآن کی طرف سے بحث کر لیتے ہو قیامت کو انکی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا

(۱۰۹ : ۴)

۱۵۔ فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے

..... اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے۔ بیشک اللہ سنتا (اور) دیکھتا ہے۔

(۵۸ : ۴)

۱۶۔ اچھی اور بُری سفارش کا اجر

جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا اور جو بُری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا.....

(۸۵ : ۴)

### زنا اور قذف

۱۔ سورہ نور (شمارہ ۲۴) کے احکام کو فرض قرار دیا گیا ہے

یہ ایک سورت ہے جسکو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں واضح مطالب آتین نازل کیں تاکہ تم یاد رکھو۔

(۱ : ۲۴)

## 2. ADULTERY AND FORNICATION PROHIBITED

Nor come nigh to adultery: For it is a shameful (deed) and an evil, opening the road (to other evils).

(XVII : 32) Y

68. ----- nor commit fornication; and any that does this (not only) meets punishment, 69. (But) the Penalty on the Day of Judgement will be doubled to him, and he will dwell therein in ignominy.

(XXV : 68-69) Y

## 3. ADULTERERS ARE TRANSGRESSORS

5 And who guard their modesty, 6. Save from their wives or the (slaves) that their right hand possess, for then they are not blame-worthy, 7. But whoso craveth beyond that, such are transgressors

(XXIII : 5-7) P

## 4. PUNISHMENT FOR ADULTERY AND FORNICATION

The woman and the man guilty of adultery or fornication; flog each of them with a hundred stripes: let not compassion move you in their case, in a matter prescribed by Allah, if ye believe in Allah and the Last Day: And let a party of the Believers witness their punishment.

(XXIV : 2) Y

## ۲- الزہی عن الزنا والفحشاء

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً  
وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

(۳۲ : ۱۷)

---- وَلَا يَزْنُونَ ۖ وَمَنْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ  
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ  
يَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۖ

(۶۹ : ۲۵ - ۶۹)

## ۳- الزنا فاحشة

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ حِفْظُونَ ۖ  
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۖ  
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْعَادُونَ ۖ

(۷ : ۲۳ - ۷)

## ۴- عقوبة الزانی والزانیة

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ  
مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ  
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ  
عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

(۲۴ : ۲)

## ۲- زنا و بدکاری کی ممانعت

اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور  
برائی راہ ہے۔

(۳۲ : ۱۷)

اور (۶۹) بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کریگا سخت گناہیں  
بتلا ہوگا ۖ قیامت کے دن اسکو دونا عذاب ہوگا اور  
ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا ۖ

(۶۹ - ۶۸ : ۲۵)

## ۳- زنا کاری تو حد سے گزر جانا ہے

اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ۖ گراہنی  
بیویوں سے (یا کیزوں سے) جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ  
(ان سے مباشرت کرنے سے) انہیں طاعت نہیں ۖ اور  
جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ (اللہ کی مقرر کی  
ہوئی) حد سے نکل جانے والے ہیں ۖ

(۷ : ۲۳ - ۷)

## ۴- زنا اور بدکاری کرنیوالے مرد و عورت کی سزا

بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد (جب انکی  
بدکاری ثابت ہو جائے تو) دونوں میں سے ہر ایک کو سو قڑتے مارو  
اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع اللہ کے  
حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے اور چاہیے کہ  
ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔

(۲۴ : ۲)

### 5. PUNISHMENT FOR ACCUSING HONOURABLE WOMEN

And those who accuse honourable women but bring not four witnesses, scourge them (with) eighty stripes and never (afterward) accept their testimony – They indeed are evildoers –

(XXIV : 4) P

Those who slander chaste women indiscreet but believing, are cursed in this life and in the Hereafter: for them is a grievous penalty. –

(XXIV : 23) Y

### 6. ACCEPT EVIDENCE OF SUCH PERSONS ONLY AFTER THEY REPENT AND REFORM

Unless they repent thereafter and mend (their conduct): for Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

(XXIV : 5) Y

### 7. MARRIAGE OF VILE MEN AND WOMEN

Please refer to "Marriage" page 169

(XXIV : 26, 3)

### 8. PUNISHMENT FOR MARRIED SLAVE GIRLS IS HALF THAT OF FREE WOMEN

----- And if when they are honourably married they commit lewdness, they shall incur the half of the punishment (prescribed) for free women (in that case). This is for him among you who fears to commit sin. -----

(IV : 25) P

### ۵۔ عقوبۃ القذف بالزنا

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○

(۴۱: ۴۱)

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعْنَةُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

(۲۳: ۲۴)

### ۶۔ یسکن قبول شہادۃ القاذبین بالزور بعد التوبۃ والاصلاح

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

(۵: ۲۴)

### ۷۔ نکاح الخبیثین والخبیثات

لاحظ عنوان النکاح علی الصفحہ رقم ۱۶۹

(۳۰: ۲۶، ۲۷)

### ۸۔ عذاب الاماء المحصنات الزانیات نصف ما علی الحررات من العذاب

فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ط ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ط

(۲۵: ۴)

### ۵۔ زنا کی مجھوٹی تہمت لگانے پر سزا

اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی ڈر سے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بدکار ہیں۔

(۴۱: ۲۳)

جو لوگ پرہیزگار اور بے کاموں سے بے خبر اور گمراہ عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کی سخت عذاب ہوگا۔

(۲۳: ۲۳)

### ۶۔ زنا کی تہمت لگانے والوں کی گواہی توبہ اور اصلاح کے بعد ممکن ہے

ہاں جو اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی حالت سنو لیں تو اللہ (جسے) بخشنے والا مہربان ہے۔

(۵: ۲۴)

### ۷۔ ناماپاک اور بدکار مرد اور عورتوں کا نکاح

ملاحظہ فرمائیں "نکاح" صفحہ ۱۶۹

(۳۰: ۲۶، ۲۷)

### ۸۔ منکوحہ لونڈیوں کے زنا کی سزا آزاد عورتوں سے نصف ہے

... پھر اگر نکاح میں آکر بدکاری کا ارتکاب کریں تو جو سزا آزاد عورتوں (یعنی بیبیوں) کیلئے ہے اسکی آدھی (نکودینا) یہ (لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی) اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو.....

(۲۵: ۴)

### 9. EVIDENCE NEEDED TO PROVE WIFE'S ADULTERY

6. And for those who launch a charge against their spouses, and have (in support) no evidence but their own, their solitary evidence (can be received) if they bear witness four times (with an oath) by Allah that they are solemnly telling the truth. 7. And the fifth (oath) (should be) that they solemnly invoke the curse of Allah on themselves if they tell a lie.

(XXIV : 6-7) Y

### 10. HOW AN ACCUSED WIFE CAN BE ACQUITTED

8. But it would avert the punishment from the wife, if she bears witness four times (with an oath) by Allah, that her husband is telling a lie; 9. And the fifth (oath) should be that she solemnly invokes the wrath of Allah on herself if her accuser is telling the truth.

(XXIV : 8-9) Y

### 11. SODOMY IS PROHIBITED

165. What! Of all creatures do ye come unto the males, 166. And leave the wives your Lord created for you? Nay, but ye are toward folk!

(XXVI : 165-166) P

### 12. PUNISH MEN GUILTY OF LEWDNESS

If two men among you are guilty of lewdness, punish them both. If they repent and amend, leave them alone; for Allah is Oft-Returning, Most Merciful.

(IV : 16) Y

### ۹۔ اذ اذنف الزوج زوجته بالزنا فماذا يجب من الاثبات

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ⑥

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ⑦

(۷-۶: ۲۴)

### ۱۰۔ كيف يسكن براءة المرأة

وَيَذَرُوهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ⑧  
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑨

(۹-۸: ۲۴)

### ۱۱۔ النهي عن اللواط

أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ⑩  
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ⑪

(۱۶۶-۱۶۵: ۲۶)

### ۱۲۔ آذوا مرتکبی اللواط

وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ⑫  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ⑬

(۱۶: ۴)

### ۹۔ خاوند بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو کیا ثبوت ہونا چاہیے

اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے ⑥ اور پانچویں (بار) یہ (کہے) کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ⑦

(۲۴: ۶-۷)

### ۱۰۔ عورت کی برأت کیسے ہو سکتی ہے

اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے چار بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے ⑧ اور پانچویں (دفعہ) یوں (کہے) کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب (نازل ہو) ⑨

(۲۴: ۸-۹)

### ۱۱۔ لواطت کی ممانعت

کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر پائل ہوتے ہو ⑩ اور تمہارا پروردگار نے جو تمہارے لئے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو ⑪

(۲۶: ۱۶۵-۱۶۶)

### ۱۲۔ دو مرد بے حیائی کریں تو سزا دو

اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکو کار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا (اور) مہربان ہے۔

(۴: ۱۶)

## RETRIBUTION FOR HOMICIDE AND PUNISH- MENTS FOR OTHER CARDINAL CRIMES

### 1. GUARD YOURSELF AGA- INST TUMULT AND DISCORD

And fear tumult or oppres-  
sion, which affecteth not in  
particular (only) those of you  
who do wrong and know that  
Allah is strict in punishment.

(VIII : 25) Y

Say to my servants that  
they should (only) say those  
things that are best: for Satan  
doth sow dissensions among  
them: for Satan is to man an  
avowed enemy

(XVII : 53) Y

### 2. CREATING MISCHIEF IS FORBIDDEN

And those who break the  
covenant of Allah after ratifying  
it, and sever that which Allah  
hath commanded should be  
joined, and make mischief in the  
earth: theirs is the curse and  
theirs the ill abode.

(XIII : 25) P

### 3. PUNISHMENT FOR THEFT

38. As for the thief, both  
male and female, cut off their  
hands. It is the reward of their  
own deeds, an exemplary pun-  
ishment from Allah. Allah is  
Mighty, Wise. 39. But whoso  
repenteth after his wrong doing  
and amendeth, Lo ! Allah will  
relent toward him. Lo ! Allah  
is Forgiving, Merciful.

(V : 38-39) P

## القصاص والحُدُود الشرعية

### ۱۔ اتقوا الفتنة والفساد

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا  
مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ۝

(۲۵ : ۸)

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ  
أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ  
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا  
مُبِينًا ۝

(۱۷ : ۵۳)

### ۲۔ النهي عن الإفساد في الارض

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ  
مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ  
أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ  
أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝

(۱۳ : ۲۵)

### ۳۔ عذاب السارق

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا  
أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝  
فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ  
فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(۵ : ۳۸-۳۹)

## قصاص وحُدُود شرعية

### ۱۔ اپنے آپ کو فتنہ اور فساد سے بچاؤ

اور اس فتنہ سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں  
پر واقع نہ ہو گا جو تم میں گنہگار ہیں اور جان رکھو کہ  
اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

(۲۵ : ۸)

اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ (لوگوں سے) ایسی  
باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں۔ کیونکہ شیطان  
(بڑی باتوں سے) ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک  
نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

(۱۷ : ۵۳)

### ۲۔ فساد برپا کرنے کی ممانعت ہے

اور جو لوگ اللہ سے عہد شکن کر کے اُس کو توڑ دیتے اور  
جن (رشتہ داروں) کے قبائلی کے جوڑے کھنکھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے انکو  
قطع کر دیتے اور رُک میں فساد کرتے ہیں ایسوں پر لعنت ہے  
اور ان کے لئے گھر بھی بُرا ہے

(۱۳ : ۲۵)

### ۳۔ چور کو کیا سزا ملنی چاہیے

اور جو چوری کرے مرد یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ  
ڈالو۔ یہ ان کے فعلوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے  
عبرت ہے۔ اور اللہ زبردست (اور) صاحب حکمت  
ہے ۳۸ اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کرے اور نیکو کار  
ہو جائے تو اللہ اُس کو معاف کر دے گا۔ کچھ شک  
نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے ۳۹

(۳۸-۳۹ : ۵)

#### 4. HOMICIDE FORBIDDEN THE MURDERER WILL GO TO HELL

..... if anyone slew a person unless it be for murder or for spreading mischief in the land it would be as if he slew the whole people: and if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of the whole people. ....

(V : 32) Y

If a man kills a Believer intentionally, his recompence is Hell, to abide therein (for-ever): and the wrath and the curse of Allah are upon him, and a dreadful penalty is prepared for him.

(IV : 93) Y

#### 5. HEIRS OF MURDERED PERSON CAN SEEK RETRI- BUTION ('QISAS')

Nor take life which Allah has made sacred except for just cause. And if anyone is slain wrongfully, We have given his heir authority (to demand Qisas or to forgive): but let him not exceed bounds in the matter of taking life; for he is helped (by the Law).

(XVII : 33) Y

#### 6. PUNISHMENT AND COM- PENSATION FOR HOMICIDE

178. O ye who believe ! The law of equality is prescribed to you in cases of murder: the free for the free, the slave for the slave, the woman for the woman. But if any remission is made by the brother of the slain, then grant any reasonable demand, and compensate him with handsome gratitude:

#### ۴۔ النہی عن القتل۔ القاتل فی جہنم

..... مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ  
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا  
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا  
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.....

(۳۲: ۵)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ  
جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا  
عَظِيمًا ○

(۹۳: ۴)

#### ۵۔ للولی سلطان فی اجراء حد القصاص علی القاتل

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا  
بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ  
جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ  
فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ○

(۱۷: ۳۳)

#### ۶۔ احکام القصاص والدية فی جریمۃ القتل

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمْ  
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى  
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ  
فَاَتْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَاةٌ اِلَيْهِ  
بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ

#### ۴۔ قتل کی ممانعت۔ قاتل تو جہنمی ہوگا

... جو شخص کسی کو (ناحق) قتل کریگا (یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا۔ اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا....

(۳۲: ۵)

اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ (جلتا) رہے گا۔ اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گی اور ایسے شخص کے لئے اس نے بڑا سخت (مذاب تیار کر رکھا ہے۔

(۹۳: ۴)

#### ۵۔ وارث کو قاتل سے قصاص لینے کا اختیار ہے

اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا اگر جائز ہو (یعنی بغیر کسی شریعت) اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے رہنے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے (کہ ظالم قاتل سے بدلے) تو اسکو چاہیے کہ قتل (کے قصاص) میں زیادتی نہ کرے کہ وہ مفسور و نجیاب ہے۔

(۱۷: ۳۳)

#### ۶۔ قتل کے لئے سزا (قصاص) اور خون بہا

مومنو! تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص (یعنی خون کے بدلے خون) کا حکم دیا جاتا ہے۔ (اس طرح پرکہ) آزاد کے بدلے آزاد (مارا جائے) اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اور اگر قاتل کو اس کے (مقتول) بھائی (کے قصاص میں) سے کچھ معاف کر دیا جائے تو (وارث مقتول کو)

this is a concession and a mercy from your Lord. After this whoever exceeds the limits shall be in grave penalty. 179. In the Law of Equality there is (saving of) Life to you, O ye men of understanding! That ye may restrain yourselves.

(II : 178-179) Y

### 7. RETRIBUTION ALLOWED IN CASE OF INJURY ALSO

We ordained therein for them. "Life for life, eye for eye, nose for nose, ear for ear, tooth for tooth and wounds equal for equal". But if anyone remits the retaliation by way of charity, it is an act of atonement for himself. And if any fail to judge by (the light of) what Allah has revealed, they are (no better than) wrong-doers.

(V : 45) Y

### 8. PENALTY FOR KILLING A BELIEVER BY MISTAKE

Never should a Believer kill a Believer; but (if it so happens) by mistake, (compensation is due): if one (so) kills a Believer, it is ordained that he should free a believing slave, and pay compensation to the deceased's family, unless they remit it freely. If the deceased belonged to a people at war with you and he was a Believer, the freeing of a believing slave (is enough). If he belonged to a people with whom you have a treaty of mutual alliance, compensation should be paid to his family, and a believing slave be freed. For those who find this beyond their means, (is prescribed) a fast for two months running: by way of repentance to Allah: For Allah has all knowledge and all wisdom.

(IV : 92) Y

رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً مِّن  
اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ  
يٰۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

(۱۷۹ - ۱۷۸: ۲)

۷- وجوب القصاص في حالة  
الإصابة بالجرح

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اَنْ النَّفْسُ  
بِالنَّفْسِ ۗ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفُ  
بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنُ بِالْاُذُنِ وَالسِّنُّ  
بِالسِّنِّ وَاَجْرُ وِرْقِصَاصٍ فَمَنْ  
تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفٰرَةٌ لَّهٗ وَمَنْ لَّمْ  
يَجِدْ بِمَآ اَنْزَلْنَا لَكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۝

(۴۵: ۵)

۸- دية قتل المؤمن خطأ  
وكفارته

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا  
اِلَّا خَطَاً ۗ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ  
اِلَىٰ اٰهْلِهٖ اِلَّا اَنْ يَّصَدَّقُوْا ۗ فَاِنْ  
كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَاِنْ كَانَ  
مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ  
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَىٰ اٰهْلِهٖ وَتَحْرِيرُ  
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فِصْيَامًا  
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ  
وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

(۹۲: ۴)

پسندیدہ طریق سے (قرار دلو کی) پیروی (یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشخبری کے ساتھ اکرنا چاہیے۔ یہ پروکارگی طاقت تمہارے لئے آسانی اور مہربانی ہے جو اس کے بعد یادتی کئے گئے ہیں) کیلئے دکھ کا عذاب ہے ۝ اولیٰ اب قتل وکلمہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے کہ تم (قتل و خونریزی سے) بچو ۝

(۱۷۹ - ۱۷۸: ۲)

۷- زخم رسانی کی صورت میں بھی  
قصاص ہے

اور ہم نے ان لوگوں کیلئے توہرات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنسو کے بدلے آنسو اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے لیکن جو شخص بدلہ معاف کرے وہ اس کیلئے کفارہ ہوگا اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔

(۴۵: ۵)

۸- مؤمن کے خطأ قتل ہو جانے پر  
خون بہا اور کفارہ

اور کسی مؤمن کو شہید نہیں کر سکتے کہ مؤمن کو مار ڈالے مگر مجھول کر۔ اور جو مجھول کر بھی مؤمن کو مار ڈالے تو (ایک) ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا کر دے۔ ہاں اگر وہ معاف کر دیں (تو ان کو اختیار ہے) اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مؤمن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کر دینا چاہیے اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو دو متواتر دو مہینے کے روزے رکھے۔ یہ (کفارہ) اللہ کی طرف (قبول) توبہ کیلئے ہے اور اللہ سب کو جانتا (اور) بڑی حکمت والا ہے۔

(۹۲: ۴)



### 9. LIMITS OF AVENGING EXCESSES

The forbidden month for the forbidden month, and forbidden things in retaliation. And one who attacketh you, attack him in like manner as he attacked you. Observe your duty to Allah, and know that Allah is with those who ward off (evil).

(II : 194) P

### 10. INFANTICIDE FORBIDDEN

Slay not your children, fearing a fall to poverty. We shall provide for them and for you. Lo! the slaying of them is a great sin.

(XVII : 31) P

### 11. ALLAH HAS ORDAINED HUMILIATION AND SEVERE PUNISHMENTS FOR CREATORS OF LAWLESSNESS IN THE LAND

The only reward of those who make war upon Allah and His messenger and strive after corruption in the land will be that they will be killed or crucified, or have their hands and feet on alternate sides cut off, or will be expelled out of the land. Such will be their degradation in the world, and in the Hereafter theirs will be an awful doom;

(V : 33) P

### ۹۔ حدّ عقوبۃ الاعتداء،

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ  
وَ الْحُرْمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اَعْتَدَى  
عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ  
مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ  
وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ○

(۱۹۴ : ۲)

### ۱۰۔ النهی عن قتل الاولاد

وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ  
نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاَيَّاكُمْ اِنْ قَتَلْتُمْ  
كَانَ خِطَاً كَبِيْرًا ○

(۳۱ : ۱۷)

### ۱۱۔ قدر الله للذين يسعون فسادا في الارض خزيا وعذابا

اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللَّهَ وَ  
رَسُوْلَهُ وَيَسْعُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا  
اَنْ يُقْتَلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ  
وَ اَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا  
مِنْ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا  
وَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

(۳۳ : ۵)

### ۹۔ دست درازی کا بدلہ لینے کی حد

ادب کا ہیضہ ادب کے جینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان بکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔

(۱۹۴ : ۲)

### ۱۰۔ اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت

اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا (کیونکہ) ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔

(۳۱ : ۱۷)

### ۱۱۔ اللہ تعالیٰ نے ملک میں بد امنی پھیلانے والوں کے لئے رسوائی اور عذاب مقرر فرمایا

جو لوگ اللہ اور اسکے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں انہی ہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں انکی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بڑا (بھاری) عذاب (تیار) ہے۔

(۳۳ : ۵)

## AMENDS AND RECOMPENSE

## الديات والكفارات

## ديات وكفارات

### 1. PENALTY FOR BREAKING AN OATH

Allah will not take you to account for that which is vain in your oaths. But He will take you to task for the oaths which you solemnly swear. The penalty for a broken oath is the feeding of ten needy men with such food as you normally offer to your own people; or the clothing of ten needy men; or the freeing of one slave. He that cannot afford any of those must fast three days. In this way you shall expiate your broken oaths. Therefore be true to that which you have sworn. -----

(V : 89) Z

### 2. PENALTY WHEN WIFE IS CALLED MOTHER

Please refer to "Dissensions between Husband and Wife" page 171

(LVIII : 2-4)

### 3. PENALTY FOR HUNTING EXCEPT FISHING WHILE IN THE STATE OF *EHRAM*

Please refer to "Pilgrimage" page. 116

(V : 95)

### 4. DEFERMENT OF FAST AND ITS AMENDS

Please refer to "Fasting" page. 111

(II : 185)

### ۱- كفارة اليمين المنعقد

لَا يُوْأخِذُكُمْ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ اَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ اَهْلِيكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَاَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ -----

(۸۹:۵)

### ۲- كفارة الظهار

لاحظ عنوان الاختلاف بين الزوجين على الصفحة رقم ۱۷۱

(۴-۲۱۵۸)

### ۳- كفارة الصيد في حالة الاحرام

لاحظ عنوان الحج والعمرة على الصفحة رقم ۱۱۶

(۹۵:۵)

### ۴- قضاء الصوم وكفارته

لاحظ عنوان الصوم على الصفحة رقم ۱۱۱

(۱۸۵:۲)

### ۱- قابل مواخذہ قسم کا کفارہ

اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا لیکن نچت قسموں پر (جن کے خلاف کر دگے) مواخذہ کرے گا تو اس کا کفارہ دس محتاجوں کو اوسط طبقے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ تین روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ دو اور تمکو پہلے کہ اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔

(۸۹:۵)

### ۲- اپنی بیوی کو ماں کہہ دینے کی صورت میں کفارہ

لاحظ فرمائیں "میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی" صفحہ ۱۷۱

(۴-۲:۵۸)

### ۳- احرام کی حالت میں شکار کر لینے کا کفارہ

لاحظ فرمائیں "حج و عمرہ" صفحہ ۱۱۶

(۹۵:۵)

### ۴- روزے کی قضا اور کفارہ

لاحظ فرمائیں "روزہ" صفحہ ۱۱۱

(۱۸۵:۲)

## DEFENCE

### HOLY WAR (JEHAD) AND MIGRATION

#### 1. ALLAH BESTOWS HIGHER RANK ON THOSE WHO FIGHT FOR HIM WITH WEALTH AND LIVES

95. Those of the believers who sit still, other than those who have a (disabling) hurt, are not on an equality with those who strive in the way of Allah with their wealth and lives. Allah hath conferred on those who strive with their wealth and lives a rank above the sedentary. Unto each Allah has promised good, but He hath bestowed on those who strive a great reward above the sedentary; 96. Degrees of rank from Him, and Forgiveness and mercy. Allah is ever Forgiving, Merciful.

(IV: 95-96) P

#### 2. JEHAD IS OBLIGATORY FOR BELIEVERS

Fighting is obligatory for you, much as you dislike it. But you may hate a thing although it is good for you and love a thing although it is bad for you. Allah knows, but you do not.

(II: 216) Z

## الدفاع

### الجهاد والهجرة

۱۔ ان اللہ فضل المجاہدین  
بأموالهم وأنفسهم  
لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
غَيْرِ أُولِي الضَّرَبِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ  
وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً  
وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ  
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝  
دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۖ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

(۹۶: ۹۵: ۹۶)

#### ۲۔ لقد فرض الجهاد

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ  
كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا  
شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ  
أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ  
لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ  
لَا تَعْلَمُونَ ۝

(۲: ۲۱۶)

## دفاع

### جهاد و ہجرت

۱۔ اللہ تعالیٰ نے جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو فضیلت بخشی ہے جو مسلمان (گھروں میں) بیٹھ رہتے (اور لڑنے سے جی پڑتے) ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ اور جہاد کی راہ میں اپنے مال و جان لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے۔ اور اگر نیک و مدد سب سے ہے لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے ۝ (یعنی اللہ کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں۔ اور اللہ بڑا بخشنے والا (اور) مہربان ہے ۝

(۹۶: ۹۵: ۹۶)

#### ۲۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض قرار دیا،

(مسلمانوں) تم پر (اللہ کے راستے میں) لڑنا فرض کر دیا گیا ہے وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو۔ اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لئے مفید ہو اور (ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

(۲: ۲۱۶)

Prophet, make war on the unbelievers and the hypocrites and deal sternly with them -----

(LXVI : 9) Z

Fight for the cause of Allah with the devotion due to Him ---

(XXII : 78) Z

### 3. JEHAD IS NECESSARY TO DEFEND THE OPPRESSED

And why should ye not fight in the cause of Allah and of those who, being weak, are ill-treated (and oppressed)? - Men, women, and children whose cry is : "Our Land! Rescue us from this town, whose people are oppressors; and raise for us from Thee one who will protect; And raise for us from Thee one who will help!"

(IV : 75)

### 4. LIFE, WEALTH AND FAMILY SHOULD NOT STAND IN THE WAY OF JEHAD

10. O believers! Shall I point out to you a bargain that will save you from a woeful scourge?. 11. Have faith in Allah and His Apostle and fight for His cause with your wealth and your persons. That would be best for you, if you but knew it.

(LXI : 10-11) Z

Say: If your fathers, and your sons, and your brethren, and your wives, and your tribe, and the wealth ye have acquired, and merchandise which ye fear that there will be no sale and dwellings ye desire are dearer to you than Allah and His messenger and striving in His

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ  
وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ -----

(۹۶ : ۹)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ -----

(۲۲ : ۷۸)

۳۔ الجهاد فی سبیل اللہ ولحمایة  
المظلومین واجب

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ  
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا  
أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ  
أَهْلُهَا ۗ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا  
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

(۷۵ : ۴)

۴۔ العقبة فی طریق المجاہدین  
المال والنفس والأسرة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى  
تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ  
ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

(۹۱ : ۱۰-۱۱)

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ  
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ  
اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا  
وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ

اسے پیغمبر کافروں اور منافقوں سے لڑو اور  
ان پر سختی کرو.....

(۹۶ : ۹)

اور اللہ (کی راہ) میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنا حق ہے....

(۷۸ : ۲۲)

۳۔ اللہ کی راہ میں مظلوموں کی حمایت  
میں جہاد کرنا چاہیے

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس  
مردوں و عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے  
جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اسے پروردگار ہم کو اس  
شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور  
لے جاؤ اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی  
ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما

(۴ : ۷۵)

۳۔ جان و مال اور خاندان کے افراد کو جہاد  
کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دو

مومنو! میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں  
عذاب الیم سے مخلصی دے ۝ (وہ یہ کہ) اللہ پر اور اس  
کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے  
مال و جان سے جہاد کرو۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے  
حق میں بہتر ہے ۝

(۹۱ : ۱۰-۱۱)

کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں  
اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کھاتے ہو اور تجارت  
جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے  
ہو اور اسکے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں

way. then wait till Allah bringeth His command to pass. Allah guideth not wrongdoing folk.

(IX : 24) P

The true believers are those who have faith in Allah and His Apostle and never doubt, and who fight for His cause with their wealth and persons. Such are the truthful ones.

(XLIX : 15) Z

#### 5. THOSE WHO MIGRATE AND FIGHT FOR THE CAUSE OF ALLAH WILL BE GREATLY EXALTED

Those that have embraced the faith and migrated from their homes and fought for Allah's cause with their wealth and their persons are held in higher regard by Allah. It is they who shall triumph.

(IX : 20) Z

#### 6. YOU SHOULD MIGRATE IF IT BECOMES IMPOSSIBLE TO PRACTISE AL-ISLAM

When angels take the souls of those who die in sin against their souls, they say: "In what (plight) were ye"? They reply: "Weak and oppressed were we in the earth". They say: "Was not the earth of Allah spacious enough for you to move yourselves away (from evil)"? Such men will find their abode in Hell. What an evil refuge!

(IV : 97) Y

فِي سَبِيلِهِ فَمَن تَبَوَّأَتْهُ يَأْتِي اللَّهَ بِأَمْرٍ  
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

(۲۴:۱۹)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ  
رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ  
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ  
الصَّادِقُونَ ○

(۱۵: ۴۹)

#### ۵- ارتفاع درجات المجاہدین بعد الهجرة

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ  
دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ○

(۲۰: ۹)

#### ۶- وجوب الهجرة في حالة تعذر العمل بالاسلام

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي  
الْأَنْفُسِ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا  
مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ  
تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَهَاجَرُوا  
فِيهَا قَالُوا لَيْكَ مَا وَهَمُّكُمْ هَلْ مَسَّكُمْ  
مَصِيرًا ○

(۹۷: ۴)

زیادہ عزیز ہوں تو پھر سے ہر یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم (یعنی  
عذاب) بھیجے۔ اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا

(۲۴: ۱۹)

مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان  
لائے پھر خشک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں  
جان و مال سے لڑے۔ یہی لوگ (ایمان کے)  
سچے ہیں

(۱۵ : ۴۹)

#### ۵- ہجرت کر کے جہاد کرنے والوں کے درجات بہت بلند ہوں گے

جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی  
راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے اللہ کے ہاں  
انکی وجہ بہت بڑے ہیں۔ اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں

(۲۰: ۹)

#### ۶- اسلام پر عمل کرنا ناممکن ہو تو ہجرت کر جانا چاہیے

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان  
قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس  
مال میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتوان  
تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ  
تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانا دوزخ  
ہے اور وہ بری جگہ ہے

(۹۷: ۴)

### 7. DIFFERENCE BETWEEN JEHAD BEFORE AND AFTER VICTORY

----- Those who spent and fought before the victory are not upon a level (with the rest of you). Such are greater in rank than those who spent and fought afterwards. Unto each hath Allah promised good. And Allah is informed of what you do.

(LVII : 10) P

### 8. END OF REJECTORS OF JEHAD

81. ---- Say to them: 'More fierce is the heat of Hell-fire!' Would that they understood! 82. They shall laugh but little and shed many tears. Thus shall they be rewarded for their misdeeds. 84. You shall not pray for any of their dead, nor shall you attend their burial. For they denied Allah and His Apostle and remained sinners to the last.

(IX : 81, 82, & 84) Z

### 9. PEOPLE FOR WHOM JEHAD IS NOT OBLIGATORY

91. It shall be no offence for the disabled, the sick, and those lacking the means to spend, to stay behind, if they are true to Allah and His Apostle. The righteous shall not be blamed: Allah is Forgiving, Merciful. 92. Nor shall those (be blamed) who, when they came to you demanding conveyances (to the battle-front) and you said: 'I can find none to carry you', went away in tears grieving that they could not find the means to spend. 93. But the blame is to be laid on those that seek exemption although they are men of wealth. -----

(IX : 91-93) Z

### ۷- الفرق بین الجهادین قبل الفتح و بعدہ

----- لَا يَسْتَوِي  
مَنْ مِّنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ  
۱۳۴ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كُنْتُمْ  
مَنْ بَعَدُ وَقَاتَلْتُم مَّ كُنْتُمْ أَكْثَرًا  
۱۳۵ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

(۱۰ : ۵۷)

### ۸- عاقبہ منکرِ الجہاد

----- قُلْ نَارُ  
جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝۱  
فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ۝۲  
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝۳  
وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّا تَأْتِي  
وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ۝۴

(۸۴ : ۱۹-۲۱)

### ۹- علی من لم یکتب القتال

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى  
وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ  
حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ۝۱  
وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَلَّوْا لِحُرْمَتِهِمْ  
قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ  
تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ  
حِزْنًا أَذْأَلَّ يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ۝۲  
إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ  
وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۝۳

(۹۳ : ۹۱-۹۳)

### ۷- فتح سے پہلے اور بعد میں جہاد کرنے میں کیا فرق ہے

جس شخص نے فتح سے پہلے جہاد کیا اور لڑائی کی وہ اور جس نے یہ جہاد کیے وہ برابر نہیں لڑنا اور جان لوگت میں برسرِ سنہ زون بعد میں جہاد میں اور لڑنا، جہاد تھا یہ اور نہ ہے ثواب نیک کا یہ تو کیا ہے اور جو کس مرتب ہو گا ان کے ثواب

(۱۰ : ۵۷)

### ۸- جہاد سے انکار کرنے والوں کا کیا حشر ہوگا

..... اس سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ سے کہیں زیادہ گرم ہے کاش یہ اس بات کو سمجھتے ۱) یہ دنیا میں تھوڑا سا سانس لینا اور آخرت میں انکو ان ظالم کے لئے جو کرتے ہیں یہ بہت سارا ناپ ہوگا ۲) اور بے پیغمبر انیس کوئی جانے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر (جا کر) کھڑے ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور وہ بھی تو نافرمان

(۸۴ : ۱۹)

(۸۴ : ۱۹-۲۱)

### ۹- کن لوگوں کے لئے جہاد فرض نہیں ہے

نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں (کہ شہ یک جہلو ہوں یعنی جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ) ہوں نیکو کاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ۱) اور نہ ان (بے سر و سامان) لوگوں پر (الزام) ہے کہ تمہارے پاس لے کر انکو سواری دو اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کرو تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ۲) الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور (پھر) تم سے اجازت طلب کرتے ہیں -----

(۹۳ : ۹۱-۹۳)

(۹۳ : ۹۱-۹۳)

No blame is there on the blind, nor is there blame on the lame, nor on one ill (if he joins not the war) but he that obeys Allah and His Apostle, (Allah) will admit him to Gardens beneath which rivers flow; and he who turns back, (Allah) will punish him with a grievous penalty.

(XIV: 17) Y

10 ALLAH WILL ADMIT THOSE TO PARADISE WHO MIGRATE AND BECOME MARTYRS IN JIHAD

..... So those who fled and were driven forth from their homes and suffered damage for My cause, and fought and were slain, verily I shall remit their evil deeds from them and verily I shall bring them into Gardens underneath which rivers flow. A reward from Allah. And with Allah is the fairest of rewards.

(III: 195) P

11 IT IS BEST TO DIE OR BE SLAIN IN ALLAH'S WAY

..... And what though ye be slain in Allah's way or die therein? Surely pardon from Allah and mercy are better than all that they amass. 158. What though ye be slain or die, when unto Allah you are gathered?

(III: 157-158) P

12 THOSE WHO ARE SLAIN IN THE WAY OF ALLAH ARE NOT DEAD BUT ALIVE

..... And call not those who are slain in the way of Allah "dead". Nay, they are living, only you see them as dead.

(III: 16) P

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ○

(17: 48)

۱۰۔ سیدخل اللہ الشهداء فی القتال بعد الهجرة جنات الفردوس فالذین هاجروا وأخروا من ديارهم وأودوا فی سبیلنا وقتلوا وقتلوا الأکفرون عنهم سیئاتهم ولأد خلنهم جنت تجری من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عندة حسن الثواب ○

(195: 3)

۱۱۔ القتل والاستشهاد فی سبیل اللہ خیر من کل شیء

وَلِیْن قُتِلْتُمْ فِی سَبِیْلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لِمَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُونَ ○

○ اللَّهُ تَحْشُرُونَ ○

(157: 3)

۱۲۔ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتاً بل هم أحياء

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیْلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَکِن لَّا تَشْعُرُونَ ○

(16: 1)

زندہ ہے پرگناہ ہے (کہ سفر جنگ سے پہلے ہوئے) اور نہ لڑنے پرگناہ ہے اور نہ بیمار پرگناہ ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور جو لوگ گردانی کرے گا اسے نئے دکھ کی سزا دے گا

(17: 48)

۱۰۔ اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے جہاد میں شہید ہونے والوں کو بہشتوں میں داخل کریگا

..... تو جو لوگ میرے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکلے گئے اور سٹے گئے اور لڑے اور قتل کئے گئے ہیں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا۔ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ (یہ) اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے

(195: 3)

۱۱۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جانا یا شہید ہو جانا سب سے بہتر ہے

اور اگر تم اللہ کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے ○ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ اللہ کے حضور میں فرور کئے گئے جاؤ گے ○

(157: 3)

۱۲۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں اور مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے

(16: 1)

### 13. THE MARTYRS ARE NOT DEAD RATHER THEY ARE GETTING SUSTENANCE FROM ALLAH

169. Think not of those, who are slain in the way of Allah, as dead. Nay, they are living. With their Lord they have provision: 170. Jubilant (are they) because of that which Allah hath bestowed upon them of His bounty, rejoicing for the sake of those who have not joined them but are left behind: that there shall no fear come upon them neither shall they grieve. 171. They rejoice because of favour from Allah and kindness, and that Allah wasteth not the wage of the believers.

(III : 169-171) P

### 14. ALLAH WILL GIVE GREAT REWARDS TO THOSE WHO ARE EITHER SLAIN OR VICTORIOUS IN JEHAD

Let those fight in the way of Allah who sell the life of this world for the other. Whoso fighteth in the way of Allah, be he slain or be he victorious, on him We shall bestow a vast reward.

(IV : 74) P

### 15. ALLAH SEALS THE HEARTS OF THOSE WHO PREFER TO STAY AT HOME WITH WOMEN DURING JEHAD

The ground (of complaint) is against such as claim exemption while they are rich. They prefer to stay with the (women) who remain behind: Allah hath sealed their hearts; so they know not (what they miss).

(IX : 93) Y

### ۱۳۔ الشہداء لیسوا امواتا بل هم احياء

عند ربهم يرزقون

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾  
فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يُسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

(۱۶۹-۱۷۱)

### ۱۴۔ سيشب اللہ الشہيد او الغالب

في الجهاد ثوابا عظيما

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

(۷۴: ۴)

### ۱۵۔ يطبع الله على قلوب المتخلفين

القاعدین مع النساء فی البیوت

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

(۹۳: ۹)

### ۱۳۔ شہید مکے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ان کو تو رزق مل رہا ہے

جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مہ سے ہوئے نہ سمجھنا وہ مرے ہوئے نہیں ہیں) بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے ﴿۱۶۹﴾ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور (شہید ہو کر) ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے ﴿۱۷۰﴾ اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہوتے ہیں اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ﴿۱۷۱﴾

(۱۶۹: ۱۷۱)

### ۱۴۔ اللہ تعالیٰ جہاد میں شہید ہو جانے یا غلبہ پانے والے دونوں ہی کو بڑا ثواب دے گا

تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو جہاد میں جگ کریں اور جو شخص اللہ کی راہ میں جگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم معافیاً اس کو بڑا ثواب دیں گے

(۷۴: ۴)

### ۱۵۔ جہاد میں خانہ نشین عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے

اذا تم توان لوگوں پر بتے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں (یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو بیٹھے رہ باقی میں گھروں میں بیٹھ رہیں۔ اللہ نے انکے دلوں پر مہر کر دی ہے پس وہ سمجھتے ہی نہیں

(۹۳: ۹)



## DEFENCE

## الدفاع

## دفاع

## 1. FOUR SACRED MONTHS IN A YEAR

To! the number of months with Allah is twelve months by Allah's ordinance in the day that He created the heavens and the earth. Four\* of them are sacred, that is right religion. So wrong not yourselves in them.

(IX: 36) P

O ye who believe! Violate not the sanctity of the symbols of Allah nor of the Sacred Month.

(X: 2) Y

The forbidden month for the forbidden month and forbidden things in retaliation. And one who attacketh you, attack him in like manner as he attacked you.

(II: 194) P

## 2. INJUNCTIONS REGARDING DEFENCE PREPARATIONS

Against them make ready your strength to the utmost of your power, including steeds of war, to strike terror into (the hearts of) the enemies, of Allah and your enemies, and others besides, whom ye may not know, but whom Allah doth know.

(VIII: 60) Y

\*Dhu' Qadah, Muharram and Rajab.

Dhu' Hijah.

## ۱- حرمة اربعہ اشہر فی سنہ

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

(۳۶: ۹)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ

(۲: ۵)

الشُّهُرُ الْحَرَامُ بِالشُّهُرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ

(۱۹۴: ۲)

## ۲- احکام التجهيزات والاعدادات

## الدفاعية

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

(۶۰: ۸)

\* ذوالقعدة، ذوالحجة، محرم ورجب

## ۱- سال کے چار مہینوں کی حرمت (نہی)

اللہ کے نزدیک سب مہینے گنتی میں (بارہ ہیں یعنی اس وز سے کہنے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا کتاب اللہ میں (برس کے بارہ مہینے لکھے گئے ہیں) ان میں سے چار مہینے اہم ہیں یہ ہیں (کا، حید، رستہ) ان مہینوں میں (قتال ناحق سے) اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔۔۔۔

(۳۶: ۹)

وموا: اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا اور نادب کے مہینے کی۔۔۔۔

(۲: ۵)

ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو۔۔۔۔

(۱۹۴: ۲)

## ۲ دفاعی تیاریوں کے متعلق احکام

اور جہاں تک ہو سکے (مخبر کی جمعیت کے) نوٹس اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے (مقابلہ کے) لئے مستعد ہو کر اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر حکم تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے سب سے بیٹھی رہے گی۔۔۔۔

(۶۰: ۸)

\* ذی قعدہ - ذی الحجہ - محرم اور رجب

### 3. BE LIKE A SOLID STRUCTURE WHILE FIGHTING IN ALLAH'S WAY

O ye who believe! Endure, outdo all others in endurance, be ready, and observe your duty to Allah, in order that ye may succeed

(III: 200) P

Lo! Allah loveth those who battle for His cause in ranks, as if they were a solid structure.

(LXI: 4) P

### 4. WAR OF AGGRESSION IS DISALLOWED IN ISLAM

Fight in the way of Allah against those who fight against you, but begin not hostilities. Lo! Allah loveth not aggressors.

(II: 190) P

### 5. DISPUTES AMONGST YOU WILL CREATE WEAKNESS AND COWARDICE

And obey Allah and His messenger and dispute not one with another lest ye falter and your strength depart from you.

(VIII: 46) P

### 6. TAKE UP ARMS IF WAR IS THRUST ON YOU

Permission (to take up arms) is hereby given to those who are attacked, because they have been wronged. Allah has power to grant them victory.

(XXII: 39) P

۳۔ کونوا بنیاناً مرصوصاً حين القتال  
فی سبیل اللہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا  
وَاصْبِرُوا وَارْبُطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○  
(۲۰۰: ۳)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي  
سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بِنَانٌ مُّصَوَّرٌ ○  
(۶۱: ۴)

۴۔ الحرب الاعتدالية ممنوعة في الإسلام  
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ  
يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ○  
(۱۹۰: ۲)

۵۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم  
وَاصْبِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا  
فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ○  
(۴۶: ۸)

۶۔ قاتلوا ان اكرهتم على القتال  
أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا  
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَكَادِرٌ ○

۳۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے وقت سیرہ پائی  
ہوئی دیواریں بن جاؤ

سے بل بیان کنڈرک مقابلیں ثابت نہ ہو  
ورستہ تمامت رھو اور امور چوں پر، بشہ  
وراستہ سے ڈرو تا رہا او ماسل کرو

ہوئی نہ کی راہ میں ایسا اور پر پر سے نماز لڑتے  
ہیں سرور سے سیرہ پائی ہوئی دیواریں اور شہ مجاہد کا تین  
(۲۰۰: ۳)

۴۔ اسلام میں جارحانہ جنگ ممنوع ہے  
اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ نہ لڑو  
اور نہ ہی ان کے ساتھ لڑو اور نہ ہی ان کے ساتھ  
مبارزت نہیں کرو

۵۔ آپس میں جھگڑنے سے کمزوری اور بزدلی  
پیدا ہوگی  
اور نہ ہی آپس میں جھگڑنا اور نہ ہی آپس میں  
جھگڑنا اور نہ ہی آپس میں جھگڑنا اور نہ ہی  
آپس میں جھگڑنا اور نہ ہی آپس میں جھگڑنا اور نہ ہی  
(۴۶: ۸)

۶۔ اگر تم پر ناانصافی ہو جائے تو تم بھی لڑو  
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اجازت دی ہے کہ وہ لڑیں  
کیونکہ ان کو سزا دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ  
ان کو مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے

### 7. FIGHT FOR HELPLESS OLD MEN, WOMEN AND CHILDREN

How should ye not fight for the cause of Allah and of the feeble among men and of the women and the children who are crying. Our Lord! Bring us forth from out this town of which the people are oppressors! Oh, give us from Thy presence some protecting friend! Oh, give us from Thy presence some defender!

(IV: 75) P

### 8. FULFIL YOUR TREATIES EVEN WITH IDOLATORS

Excepting those of the idolators with whom ye (Muslims) have a treaty, and who have since abated nothing of your right nor have supported anyone against you. (As for these), fulfil their treaty to them till their term. Lo! Allah loveth those who keep their duty (unto Him)

(IX: 4) P

### 9. HOW TO DEAL WITH PEOPLE WHO REPEATEDLY BREAK PEACE TREATIES

56 Those of them with whom thou madest a treaty; and then at every opportunity they break their treaty, and they keep not duty (to Allah). 57 If thou comest on them in the war, deal with them so as to strike fear in those who are behind them, that haply they may remember.

(VIII: 56-57) P

۷- قاتلو اعدا الظلم علی المستضعفین  
من الرجال و النساء و الولدان

وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ  
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا  
أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ  
أَهْلُهَا ۗ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا  
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

(۴: ۷۵)

۸- اوفوا بالعاهدات مع المشركين

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  
ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُواكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُبَاهِرُوا  
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتُوا إِلَيْكُمْ عَهْدَهُمْ  
إِلَىٰ مَدَنِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَّقِينَ ۝

(۹: ۴)

۹- التعامل مع من ينقض العاهدات  
والعقود كرهة بعد مرة

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ  
فِي كُلِّ مَرَّةٍ ۗ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝  
فَمَا تَتَّقُهُمْ فِي الْحَرْبِ نَشَرْدِيهِمْ مَنْ  
خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝

(۸: ۵۶-۵۷)

۷- بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں پر  
ظلم کے خلاف لڑائی کرو

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اسے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا۔ اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا۔ اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما

(۴: ۷۵)

۸- مشرکوں کے بھی ساتھ کئے ہوئے عہد کو وفا کرو

المشترکین مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو۔ (کہ اللہ پر ہیزگاروں کو دوست رکھتا ہو

(۹: ۴)

۹- صلح کا کیا ہوا عہد بار بار توڑنے والوں  
سے کیسا سلوک کرو

جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ بار بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے ۵۶ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر جاگ جائیں عجب نہیں کہ ان کو (اس سے) عبرت ہو ۵۷

(۸: ۵۶-۵۷)

**10 YOU MAY THROW BACK TREATY IF YOU FEAR TREACHERY FROM THE OTHER PARTY**

If you fear treachery from any of your allies, you may throw back to them (their treaty) fairly. Allah does not love the treacherous.

(VIII: 58) Z

**11. MARCH IN DETACHMENTS OR IN ONE BODY FOR BATTLE**

O believers, be ever on your guard. March in detachments or in one body.

(IV: 71) Z

**12. VICTORY OVER UNBELIEVERS DEPENDS ON STRENGTH OF FAITH**

Now hath Allah lightened your burden, for He knoweth that there is weakness in you. So if there be of you a steadfast hundred, they shall overcome two hundred, and if there be of you a thousand (steadfast), they shall overcome two thousands by permission of Allah. Allah is with the steadfast.

(VIII: 66) P

**13. INFORMATION BROUGHT BY AN EVIL-DOER MUST BE VERIFIED**

Believers, if an evil-doer brings you a piece of news, inquire first into its truth, lest you should wrong others unwittingly and repent of what you have done.

(XLIX: 6) Z

۱۰۔ اَمَا تَخَافُنَ مِنْ قَوْمِ خِيَانَةٍ فَاُنْبِذْ  
الِيَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ

وَاَمَا تَخَافُنَ مِنْ قَوْمِ خِيَانَةٍ فَاُنْبِذْ  
الِيَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُخَافِينَ

(۵۸: ۵)

۱۱۔ انْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوَّانْفِرُوا جَمِيعًا لِلْقِتَالِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخْذُوا حِذْرَكُمْ  
فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوَّانْفِرُوا جَمِيعًا ○

(۷۱: ۴)

۱۲۔ تتوقف الغلبة على الكفار على  
كمية القوة الايمانية

إِنِّي خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ  
ضَعْفًا فَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ قَائِمَةٌ صَابِرَةٌ  
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ  
أَفٌّ يَغْلِبُوا أَلْفِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ  
مَعَ الصَّابِرِينَ ○

(۶۶: ۸)

۱۳۔ اِذَا جَاءَكَ مَقْرُوفٌ مِنْ بَنِي قَبِيلٍ

يَأْتِيهِمُ الْبُخْرِيُّ أَوْ الْمَوَالِيُّ أَوْ الْمَوَالِيُّ  
فَصَبِّحُوا بِخَبَرِ الْغَدَاةِ وَاصْبِرُوا لَهَا  
فَصَبِّحُوا عَلَى مَا قَعَبْتُمْ نَبَأَ الَّذِينَ

(۴۹: ۶)

۱۰۔ دوسری قوموں سے کئے ہوئے عہد میں خیانت  
کا خوف ہو تو ہمہ کو اپنی طرف پھینک دو

اور اگر کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان  
ہمہ کو اپنی طرف پھینک دو اور برابر کا  
عہد اور کچھ شک نہیں کہ اللہ دنیا بازوں کو دوست نہیں رکھتا  
(۵۸: ۵)

۱۱۔ لڑائی کے لئے ٹولیوں میں یا اکٹھے ہو کر  
بڑھا کرو

مومنو (جہاد کے لئے) ہتھیار لے یا روپیہ یا تو جہاد مت  
جوڑ کر لڑو۔ سب اکٹھے کوچ کیا کرو  
(۷۱: ۴)

۱۲۔ کافروں پر غالب آنے کا انحصار ایمان کی  
قوت مقدار پر ہے

اب اللہ نے تم پر تھوڑا بوجھ کا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ (ابھی)  
تم میں کسی قدر کمزوری ہے۔ پس اگر تم میں ایک سو  
ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب ہو گے  
اور اگر ایک ہزار ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو  
ایک لاکھ پر غالب ہو گے۔ اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے  
(۶۶: ۸)

۱۳۔ ہر کردار کی لائی ہوئی خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے

مومنو! اگر کوئی بے خبری تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے  
تو خوب تحقیق کر لیا کرو اور مبادا کہ کسی قوم کو نہ دانی سے  
انگھان پھینچو۔ پھر اگر کوئی اپنے لئے پرنا دم ہونا چاہے

(۴۹: ۶)

#### 14 THE BELIEVERS' FAITH AND MORALE INCREASES IN DIRECT PROPORTION TO THE ENEMY'S STRENGTH

When the believers saw the Confederate forces, they said: "This is what Allah and His Apostle had promised us, and Allah and His Apostle told us what was true." And it only added to their faith and their zeal in obedience -----

(XXXIII: 22) Y

#### 15 INTIMIDATE DISBELIEVERS BY FIGHTING THE NEARBY ENEMIES

O ye who believe! Fight those of the disbelievers who are near to you, and let them find harshness in you, and know that Allah is with those who keep the duty (unto Him).

(IX: 123) P

#### 16 HOW TO FIGHT UNBELIEVERS AND TO TREAT PRISONERS OF WAR

Therefore, when you meet the unbelievers (in the battle-field) strike off their heads and, when you have killed many of them, and (your captives) multiply, then grant them their freedom or take ransom from them, until war shall lay down its burdens. Thus (shall you do) Had Allah willed, He could Himself have punished them, but He has ordained it thus that He might test you, the one by the other. As for those who are slain in the cause of Allah, He will not render their works vain.

(XLVIII: 16) Z

۱۴۔ یزداد المؤمنون ایمانا و ہمتا  
عندما واجهتهم العدو والقوی

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْآخِرَابَ قَالُوا  
هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا  
وَتَسْلِيمًا ○

(۲۲: ۲۳)

۱۵۔ ارهبوا الكفار المجاورين عن  
طريق القتال

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ  
مِنَ الْكُفَّارِ وَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ○

(۹: ۱۲۳)

۱۶۔ كيفية قتال الكفار و معاملة  
الاسرى

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ  
حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَانَ  
فَمَا مِمَّا بَعْدُ وَإِن مَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ  
الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَوَيْشَاءُ اللَّهُ  
لَإِن تَصَّرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ  
بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ○

(۴۸: ۱۶)

۱۴۔ مومنوں کی قوت ایمان میں طاقتور دشمن کو دیکھ کر  
اضافہ اور حوصلے بلند ہو جاتے ہیں

اور جب مومنوں نے (کافروں کے) لشکر کو دیکھا تو  
کہنے لگے یہ وہ ہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے  
ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ  
کہا تھا اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہوئی

(۲۲: ۲۳)

۱۵۔ نزدیک کے کافروں پر اپنی سختی کا خوف  
بذریعہ جنگ قائم رکھو

اے اہل ایمان! اپنے نزدیک کے (دشمنوں والے)  
کافروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی (یعنی سختی و قوت)  
جنگ معلوم کریں اور جان لکھو کہ اللہ پر میزگاروں کے ساتھ ہے

(۹: ۱۲۳)

۱۶۔ کافروں سے جنگ کیسے کی جائے اور  
قیدیوں سے کیسا سلوک ہونا چاہیے

جب تم کافروں سے بہر مجاہد تو انہی گردنیں اڑا دو۔ یہاں تک کہ جب انہو  
خوب قتل کر چکو تو (جو زندہ بچے جائیں ان کی مضمحل سے قید کر لو پھر  
اس کے بعد یا تو اسان ہلکے چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر یہاں تک  
کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار (باتو سے) کھدے۔ یہ حکم یاد رکھو  
اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا لیکن اسے چاہا کہ تم باہر  
آزمائش ایک اکو دوسرے سے (لڑو کر) کھنے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں  
مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا

(۴۸: ۱۶)

17. ALSO PRAY TO ALLAH FOR ENDURANCE AND SUCCESS IN BATTLE

And when they went into the field against Goliath and his host they said: Our Lord! Bestow on us endurance, make our foothold sure, and give us help against the disbelieving folk.

(II: 250) P

18. REMAIN STEADFAST IN BATTLE

And verily We shall try you till We know those of you who strive hard (for the cause of Allah) and the steadfast, and till We test your record.

(XLVII: 31) P

----- and steadfast in trial and adversity and in times of war. Such are the true believers: such are the God-fearing.

(II: 177) Z

19. TO ACHIEVE VICTORY REMEMBER ALLAH MUCH, REMAIN FIRM AND BE PATIENT

45. O ye who believe! When ye meet a force, be firm, and call Allah in remembrance much (and often): that ye may prosper: 46 ----- and be patient and persevering: for Allah is with those who patiently persevere:

(VIII: 45-46) Y

20. ALLAH LOVES THOSE WHO DO NOT LOSE HEART OR GIVE IN BUT REMAIN FIRM AND STEADFAST

----- But they never lost heart if they met with disaster

۱۷۔ ادعوا للصبور والفتح في القتال

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا آفِرِّغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

(۲۵۰: ۲)

۱۸۔ اصبروا في القتال

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ ۝

(۳۱: ۴۷)  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

(۱۱۱: ۴)

۱۹۔ اذكروا الله ذكرا كثيرا لوصول الفتح والنصر في القتال واصبروا كي تتقوا الوهن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِلْتُمْ فَاثْبُتُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝  
وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

(۴۶-۴۵: ۸)

۲۰۔ ان الله يحب الصابرين الذين ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا لما اصابهم

فَمَا وَهَنُوا لِمَا

۱۷۔ لڑائی میں صبر اور فتح کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگو

اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں آئے تو اللہ سے دعا کی کہ پروردگار ہم پر صبر کے ہونے کو ملے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھو اور کافر لشکر کے خلاف فتح عطا فرمادے۔

(۲۵۰: ۲)

۱۸۔ جنگ میں ثابت قدم رہو

اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں انکو معلوم کریں۔ اور تمہارے اعمال کا جانچ لیں

(۳۱: ۴۷)

وہ سختی و تکلیف میں اور مصائب و آفات کے وقت ثابت قدم رہیں یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں

(۱۱۱: ۴)

۱۹۔ جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبر سے کام لو تاکہ گھبراہٹ سے بچے رہو

مؤمنو! جب اللہ کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ اللہ تمہارا مددگار ہو۔ اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔

(۴۶-۴۵: ۸)

۲۰۔ اللہ تعالیٰ ہمت نہ ہارنے، بزدلی نہ دکھانے اور نہ ہی کافروں سے دہنے یعنی استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے

..... تو جو ہمتیں ان پر لہا اللہ میں واقع ہوئیں انکے سبب انہوں نے



24 YOU ALSO INCLINE TO PEACE IF UNBELIEVERS ARE INCLINED

61. And if they incline to peace, incline thou also to it and trust in Allah. Lo' He is the Hearer, the Knower. 62. And if they would deceive thee, then lo' Allah is sufficient for thee. He it is Who supporteth thee with His help and with the believers.

(VIII: 61-62) P

25 A BELIEVER SHOULD NEITHER LOSE HEART NOR DESPAIR DUE TO ANY TEMPORARY REVERSAL

Faint not nor grieve for ye will overcome them if ye are (indeed) believers.

(III: 139) P

26 HONOUR THE TREATY IF IT COMES IN THE WAY OF SUPPORT TO OPPRESSED BELIEVERS

And those that have embraced the faith but have not migrated from their homes shall in no way become your responsibility until they do that. But if they seek your help in the cause of your religion, it is your duty to aid them, except against a people you have a treaty with. Allah is cognizant of all your doings.

(VIII: 13) Z

27 PURSUE THE ENEMY RELENTLESSLY

Retreat not in pursuit of the enemy, if they are suffering, lo' they will fight you if ye suffer and will fight you, Allah that for

۲۴۔ ان جنح العدو للسلام فاجنحو له

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ أَنْذَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ نَصْرَهُ وَبِالْمُؤْمِنِينَ

(۶۱-۶۲: ۸)

۲۵۔ لایہن ولا یحزن المؤمن من ہزیمۃ موقتہ

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

(۱۳۹: ۳)

۲۶۔ احترموا لمعاہدات التي عقدتم مع غیر المسلمین و ان حالت دون نصرۃ المسلمین المظلومین

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمُوجُوا مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجَرُوا وَإِنْ اسْتَصْرَوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ لَا عَلَى قَوْمِ بَيْتِكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَبَاكِرُ ۝ وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

(۱۳: ۸)

۲۷۔ لا تقهوا فی ابتغاء قوم کافرین

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا فَابْتَغُواهُمْ يَوْمَ الْمُلْحَمِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

۲۴۔ دشمن کے سنج و طرف مائل ہونے پر تم بھی مائل ہو جاؤ

اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنا چاہیں تو تم بھی صلح کرنا چاہو اور اللہ ہی تمہاری مددگار ہے۔ اگر وہ تمہیں دھونڈنے کی کوشش کریں تو اللہ ہی تمہاری مددگار ہے۔ اور اللہ ہی ہے جو تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری مدد کرنے والوں کو مدد دے گا۔

۲۵۔ ایمان والوں کو ہمت نہ ہاریں اور نہ غمگین ہوں۔ اگر تم ایمان والے ہو تو تم اعلیٰ والے ہو۔

اگر تم ایمان والے ہو تو تم اعلیٰ والے ہو۔ اگر تم ایمان والے ہو تو تم اعلیٰ والے ہو۔ اگر تم ایمان والے ہو تو تم اعلیٰ والے ہو۔

۲۶۔ معاہدات کی طرف سے کسی کو بھی مدد نہ دے دو۔

معاہدات کی طرف سے کسی کو بھی مدد نہ دے دو۔ معاہدات کی طرف سے کسی کو بھی مدد نہ دے دو۔ معاہدات کی طرف سے کسی کو بھی مدد نہ دے دو۔

۲۷۔ کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو

کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔ کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔ کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔



which they cannot hope. Allah is ever Knower, Wise.

(IV : 104) P

### 28. DO NOT FALTER OR CRY OUT FOR PEACE FROM A POSITION OF WEAKNESS

So do not falter and cry out for peace when ye (will be) the uppermost, and Allah is with you, and He will not grudge (the reward of) your actions.

(XLVII : 35) P

### 29. DISPOSAL OF BOOTY CAPTURED IN WAR

Now enjoy what ye have won, as lawful and good, and keep your duty to Allah. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

(VIII : 69) P

And know that out of all the booty that ye may acquire (in war), a fifth share is assigned to Allah, and to the Apostle, and to near relatives, orphans, the needy and the wayfarer, if ye do believe in Allah and in the revelation We sent down to Our Servant on the Day of Testing, the Day of the meeting of the two forces, for Allah hath power over all things.

(VIII : 41) Y

### 30. GIVE ASYLUM IF SOUGHT BY AN IDOLATOR

If an idolator seeks asylum with you, give him protection so that he may hear the Word of Allah, and then convey him to safety. For they are ignorant men.

(IX : 6) Z

وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَ  
كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا  
(۱۰۴ : ۴)

### ۲۸۔ لاتدعوا العدو الى السلم في حالة الضعف

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ  
الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَمْوَالِكُمْ

(۳۵ : ۴۷)

### ۲۹۔ كيفية تقسيم الانفال المغنمة في القتال

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا  
اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(۶۹ : ۸)

وَأَعْلَمُوا أَنَّ غَنِمَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ  
لِلَّهِ شِصَّةً وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى  
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى لَجْمَعِينَ  
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(۴۱ : ۸)

### ۳۰۔ ان استاجرک مشرک فاجرہ

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ  
فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ  
ثُمَّ أَبْلغَهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ  
(۶ : ۹)

اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے اور  
اللہ سب کچھ جانتا (اور) بڑی حکمت والا ہے  
(۱۰۴ : ۴)

### ۲۸۔ کمزوری کی وجہ سے دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ

تو تم بہت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ۔ اور تم تو غالب  
ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم (اور تم) نہیں لگا

(۳۵ : ۴۷)

### ۲۹۔ لڑائی میں حاصل کئے ہوئے مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے

تو جو مال غنیمت تمہیں ملے اسے کھاؤ (اور وہ تمہارے لئے حلال طیب  
(ہے) اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

(۶۹ : ۸)

اور جان رکھو کہ جو چیز تم (کفار سے) لوٹ کر لاؤ اس میں سے  
پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا اور اہل قربت کا اور  
یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر لاؤ  
اُس (نصرت) پر ایمان رکھتے ہو جو حق باطل میں، فرق کر نیکیوں  
یعنی جنگ بد میں، جس دن دونوں جہوں میں ٹھٹھیر ہوگی۔ اپنے  
بندے (محمّد) پر نازل فرمائی۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے

(۴۱ : ۸)

### ۳۰۔ مشرک پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دے دو

اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس  
کو پناہ دو۔ یہاں تک کہ کلام اللہ سننے لگے۔ پھر  
اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو اس لئے کہ یہ بے خبر  
لوگ ہیں

(۶ : ۹)



...equally equipped...  
...with the equi...

(XIII: 9-17)

### 33 BELIEVERS SHOULD NOT MAKE FRIENDS WITH UNBELIEVERS UNLESS SECURITY DEMANDS

Let not the believers take unbelievers for their friends in preference to believers. Whoso doeth that, hath no connection with Allah (as he wisheth) that ye should defend yourself against them (as ye wish) were security

(XIII: 9-17)

### 34 HOW PRAYER SHOULD BE OFFERED IN THE BATTLEFIELD

When thou (O Apostle) art in the field and standest to lead thy people in prayer, let one party of them stand on prayer with thee, and let the other arms with thee. When they turn to then let the other party take their arms, and let the first party come up to thee. Let no one let prayer be interrupted by you pray with thee, and let you take such cautions and precautions as the unbelievers take. If you were negligent of these things, your baggage to be carried by a single rush, would be no blame on you, if you have your arms because of the rain or the wind, but take care of your baggage for your own safety. For the unbelievers Allah prepared a humiliating torment.

(IV: 102-111)

بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ ○

(۹۱: ۴۹)

### ۳۳۔ لایتولی المؤمنون الکافرین ملأماً ذک غیر ضروری لمجانہ شرم

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ  
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ  
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ  
اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ  
تَقِيَةً ○

(۲۸: ۲۳)

### ۳۴۔ کیفیہ اداء الصلاة فی المعترك

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ  
فَلْتَقُمْ طَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ  
وَلْيَأْخُذُوا وَاسْلِحْتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا  
فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ  
طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا  
مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ  
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَتَوَّعُقُونَ مِنْ  
أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْعَتِكُمْ فِيمِئْتُونَ  
عَلَيْكُمْ مِثْلَهُ وَجِدَّةً وَرِجْدًا  
عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ إِذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ  
سَيْلٍ فَمَرُّوا بِهِمْ يَتَوَضَّعُونَ لَهُمْ  
حِذْرَهُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ○

۱۰۰۰۴

فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرادو اور انصاف سے کام لو  
کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے

(۹۱: ۴۹)

### ۳۳۔ مومنوں کو کافروں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے جب تک

کہ یہ شرم سے بچنے کے لئے نہ ہو  
مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے ساتھ نہ بنا لیں  
کہ دوست نہ بنائیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس  
سے اللہ کا کچھ عہد نہیں۔ ہاں اگر اس طریق  
سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا  
کرو تو مضائقہ نہیں۔

(۲۸: ۲۳)

### ۳۴۔ میدان جنگ میں نماز کیسے ادا کرنی چاہیے

اور رہے پیغمبر، جب تم ان اجماع میں ہو اور  
ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہاری  
ساتھ صلح ہو کر کھڑی رہے۔ جب وہ سجدہ کریں تو پورے  
سوجائیں پچھو دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی انکی  
بعد آئے اور ہوشیار اور صلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا  
کرتے کافر سے گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے  
بھیاریوں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر کیا رگی  
حملہ کریں۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو  
یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار  
آٹا رکھو مگر ہوشیار ضرور رہنا۔ اللہ نے  
کافروں کے لئے ذلت کا عذاب تیار  
کر رکھا ہے

۱۰۰۰۳

35 INTELLIGENCE ABOUT THE ENEMY SHOULD ONLY BE PASSED ON TO THOSE IN AUTHORITY

When there comes to them some matter touching (public) safety or fear, they divulge it (if they had only referred to the Apostle or to those charged with authority among them, the proper investigators would have tested it from them (direct). Were it not for the Grace and Mercy of Allah unto you, all but a few of you would have fallen into the clutches of Satan.

(IV: 83) Y

36. ALLAH CREATED SHELTERS GARMENTS AND COATS OF ARMOUR TO ENABLE YOU TO PROTECT YOURSELF IN WAR

Allah has given you of what He has created shelter. And He has given you refuge in the mountains. He has furnished you with garments to protect you from the heat, and with coats of armour to shield you in your wars. Thus He perfects His favours to you, so that you may submit to Him.

(XVI: 81) Z

37. ALLAH CREATED IRON FOR MANUFACTURING WEAPONS OF WAR AND OTHER USEFUL ITEMS FROM THIS EXTREMELY POWERFUL METAL

And We sent down iron in which is (material for) mighty war, as well as many benefits for mankind, that Allah may test who of you will help, unseen, Him and His Apostles, for Allah is Exalted in strength, Exalted in Might, ready to enforce His Will.

(LVII: 25) Y

۳۵۔ يجب رد الخبر عن العدو الى الحكام المسئولين

وَإِذَا جَاءَهُمْ مَرْسَلٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ فَذَاعِبُوا وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرَوَدُوهَا إِلَى الرَّسُولِ وَآلِهِ أَوْ إِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَا فَضْلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْلُغُهُمُ الشَّيْطَانُ الْأَقِيلًا ○

(۴: ۸۳)

۳۶۔ جعل الله ملاجئ ومغارات ولباسا ودروعا كي انتموا اضرار الحرب

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْهَا مَلَاجِئَ وَمَغَارَاتٍ وَلِبَاسًا وَّ دُرُوعًا وَكُلًّا ذَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ ○

(۱۶: ۸۱)

۳۷۔ خلق الله المعادن الحديدية لكي يمكن اختراع الاسلحة وحاجات الحياة الضرورية بواسطة هذا المعدن القوي للغاية

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَيُنَاجِلُ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ○

(۵۷: ۲۵)

۳۵۔ دشمن کے متعلق خبر کو اپنے ذمہ دارانہ سے پاس ہی پہنچانا چاہیے

جب ان کو امن یا خوف کا رسالہ آئے تو ان کو اپنے ذمہ داروں یا ان کے امراء کو اس بارے میں اطلاع دینی چاہیے۔ اگر ان کو اپنے ذمہ داروں سے اطلاع دینی ہو تو ان کو اپنے ذمہ داروں سے اطلاع دینی چاہیے۔

(۴: ۸۳)

۳۶۔ اللہ تعالیٰ نے پناہ گاہیں، مغارات اور لباس اور دروعا کی تخلیق کی تاکہ تم جنگ کے اضرار سے محفوظ رہ سکو

اللہ تعالیٰ نے تم کو پناہ گاہیں، مغارات اور لباس اور دروعا کی تخلیق کی تاکہ تم جنگ کے اضرار سے محفوظ رہ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پناہ گاہیں، مغارات اور لباس اور دروعا کی تخلیق کی تاکہ تم جنگ کے اضرار سے محفوظ رہ سکو۔

۳۷۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ایجاد کی تاکہ اس سے اسلحہ اور دیگر ضروری چیزیں بنائی جاسکیں

اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ایجاد کی تاکہ اس سے اسلحہ اور دیگر ضروری چیزیں بنائی جاسکیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ایجاد کی تاکہ اس سے اسلحہ اور دیگر ضروری چیزیں بنائی جاسکیں۔

(۵۷: ۲۵)

## POLITICS

## السیاسة

## سیاست

## 1. POWER, HONOUR AND DISHONOUR ARE FROM ALLAH

Say 'Lord, Sovereign of all sovereignty You bestow sovereignty on whom You will, and take it away from whom You please. You exalt whomever You will and abase whomever You please. In Your hand lies all that is good, You have power over all things'

(III: 26) Z

## 2. ALLAH APPOINTED MAN AS HIS VICEGERENT ON EARTH

He it is Who hath placed you as viceroys of the earth

(VI: 166) P

## 3. ALLAH TESTS PEOPLE BY RAISING ONE ABOVE OTHER

... and hath exalted some of you in rank above others, that He may try you by the test of that which He hath given you. Lo! Thy Lord is swift in prosecution and lo! He is Forgiving Merciful.

(VI: 166) P

## ۱- الملك والعزة والذلة في يد الله

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ طَبِيبُكَ الْخَيْرُ وَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(۲۶: ۳)

## ۲- قد جعل الله الانسان خليفته

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ

(۱۶۶: ۶)

## ۳- يرفع الله بعض الناس فوق بعض درجات ليلبواهم

وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(۱۶۶: ۶)

## ۱- بادشاہی عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے

کہو کہ اے اللہ (اے) بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ بر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے

(۲۶: ۳)

## ۲- اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے

اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا.....

(۱۶۶: ۶)

## ۳- اللہ تعالیٰ تو ایک کے دوسرے پر درجے بلند کر کے آزمائش میں ڈالتا ہے

... اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کئے تاکہ جو کچھ اُس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بیشک تمہارا پروردگار جلد عتاب دینے والا ہے اور بیشک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے

(۱۶۶: ۶)

#### 4. SOVEREIGNTY OF HEAVENS AND EARTH BELONGS TO ALLAH

Allah's is the sovereignty in the heavens and the earth. He pardons whom He will and punishes whom He pleases. Allah is Forgiving and Merciful.

(XLVIII : 14) Z

#### 5. ALLAH GIVES SOVEREIGNTY TO WHOM HE WILL

----- He said: 'Allah has chosen him to rule over you and made him grow in wisdom and in stature. Allah gives His sovereignty to whom He will. He is Munificent and All-knowing.'

(II : 247) Z

#### 6. HOLDFAST ALL TOGETHER TO THE CABLE OF ALLAH AND REMAIN UNITED

And holdfast, all of you together, to the cable of Allah, and do not separate. And remember Allah's favour unto you: how ye were enemies and He made friendship between your hearts so that ye became as brothers by His grace: and (how) ye were upon the brink of an abyss of fire, and He did save you from it -----

(III : 103) P

#### 7. MAJORITY OF MANKIND CONSISTS OF THE MISGUIDED

If you obeyed the greater part of mankind, they would lead you away from Allah's path. They follow nothing but idle fancies and preach nothing but falsehood.

(VI : 117) Z

#### ۴۔ اللہ ملک السموات والارض

وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُغْفِرُ  
لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَكَانَ  
اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

(۱۴ : ۴۸)

#### ۵۔ یوتی اللہ الملك من یشاء

قَالَ  
اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَ  
زَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ  
وَاللّٰهُ یُؤْتِی مُلْكًا مَّنْ یَّشَاءُ  
وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

(۲ : ۲۴۷)

#### ۶۔ اعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا وَلَا  
تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ  
اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلْفَ بَیْنِ  
قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا  
وَكَنتُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ  
النَّارِ فَاَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۝

(۱۰۳ : ۳)

#### ۷۔ اکثر الناس ضالون

وَإِنْ تَطَعْتَ اَكْثَرَمَنْ فِی الْاَرْضِ یضِلُّوكَ  
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنْ یَتَّبِعُوْنَ اِلَّا  
الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا یُخْرَصُوْنَ ۝

(۱۱۷ : ۶)

#### ۴۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو اللہ ہی کی ہے

اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

(۱۴ : ۴۸)

#### ۵۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہی بخشا ہے

پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اسکو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کیلئے منتخب ذمیت اُس نے اُسے عمر ہی بہت سا بخشا ہے اور تم تو اسی (بڑا عاقل ہے) اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے۔ وہ بڑا کاشف والا (اور مہربان ہے

(۲ : ۲۴۷)

#### ۶۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو

اور اتحاد قائم کرو

اور سب مل کر اللہ کی (ہدایت کی) رسی کو مضبوط پکڑے رہنا۔ اور متفرق نہ ہونا۔ اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اُس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اُس سے بچالیا۔۔۔۔

(۱۰۳ : ۳)

#### ۷۔ زمین پر اکثریت تو گمراہ لوگوں کی ہے

اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں (گمراہ ہیں) اگر تم ان کا ہاں مان لو گے تو وہ تمہیں اللہ کا راستہ بھلادیں گے یہ محض خیال کی پیچھے چلتے اور رے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں

(۱۱۷ : ۶)

### 8. ALLAH HAS PROMISED KINGDOM OF EARTH TO THE BELIEVERS AND THE RIGHTEOUS

Allah has promised those of you who believe and do good works and make them masters in the land as He had made their ancestors before them. -----

(XXIV 55) Z

### 9 OBEY ALLAH, HIS PROPHEET AND THOSE IN AUTHORITY WHO TRULY FOLLOW THEIR INJUNCTIONS

O ye who believe! Obey Allah, and obey the messenger and those of you who are in authority. -----

(IV 59) P

### 10 THE RULER WHO SHOULD NOT BE OBEYED

----- and obey not him whose heart We have made heedless of Our remembrance, who followeth his own lust and whose case hath been abandoned

(XVIII 28) P

### 11 MUTUAL CONSULTATION IS AN IMPORTANT ELEMENT OF ISLAMIC LIFE

Who obey their Lord, attend to their prayers, and conduct their affairs by mutual consent who bestow in alms a part of that which We have given them and.

(XII 38) Z

----- and consult with them upon the conduct of affairs. And when thou art resolved, then put thy trust in Allah. Lo! Allah loveth those who put their trust (in Him).

(III 159) P

۸۔ وعد الله المؤمنين وعاملی الصالحات ان يستخلفنهم فی الارض

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

(۵۵ : ۲۴)

۹۔ اطیعوا الله ورسوله وذوی

السلطة الذین یطیعون احکامهما  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

(۵۹ : ۴)

۱۰۔ بیان الحاکم الذی لا تجوز اطاعته

وَلَا تَطْعَمَنْ  
أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ  
وَكَانَ أَمْرًا فُرُطًا

(۲۸ : ۱۸)

۱۱۔ المشاورة جزء هام من اسلوب الحیاة الاسلامیة

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

(۳۸ : ۴۲)

وَسَأَوْرَهُمْ  
فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

(۱۵۹ : ۳)

۸۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو حاکم بنانے کا وعدہ فرمایا ہے۔

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا۔۔۔۔۔

(۵۵ : ۲۴)

۹۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور نیکے احکام کی پیروی کرنے والے صاحب حکومت کی اطاعت لازم ہے

مؤمنو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔۔۔۔۔

(۵۹ : ۴)

۱۰۔ کیسے حاکم کی فرمانبرداری نہیں کرنی چاہیے

۔۔۔۔۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد دہانی سے غافل کر دیا ہے وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا ہم سے بڑھ گیا ہے اس کا کہنا نہ ماننا

(۲۸ : ۱۸)

۱۱۔ مشاورت اسلامی طرز زندگی کا اہم جزو ہے

اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کاروبار کے مشورے کرتے ہیں اور جو مال بچھنے اور عطا فرماتے ہیں ان سے خوش کرتے ہیں

(۳۸ : ۴۲)

۔۔۔۔۔ اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو۔ اور جب کسی کام کا جو تم کو اللہ پر بھروسہ رکھو بیشک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے

(۱۵۹ : ۳)

### 12. PEOPLE WHO SHOULD BE CONSIDERED BETTER COUNSELLORS

There is no good in much of their secret conferences save (in) him who enjoineeth almsgiving and kindness and peace-making among the people. Whoso doeth that seeking the good pleasure of Allah, We shall bestow on him a vast reward

(IV : 114) P

### 13. GIVE DECISIONS IN ACCORDANCE WITH ALLAH'S COMMANDMENTS

And to you We have revealed the Book with the truth confirming what was revealed before it in the other Books, and standing as a guardian over it. Therefore give judgement among them in accordance with Allah's revelations and do not yield to their fancies (swerving) from the truth that has been made known to you. ----

(V : 48) Z

### 14. NO CHOICE FOR ANYONE IN COMMANDS OF ALLAH AND HIS PROPHET

It is not for true believers men or women to take their choice in their affairs and Allah and His Apostle decree otherwise. He that disobeys Allah and His Apostle strays far indeed.

(XXXIII : 36) Z

### 15. IN CASE OF DISAGREEMENTS TURN UNTO ALLAH AND THE PROPHET

----- Should you disagree about anything refer it to Allah and the Apostle, if you

### ۱۲۔ انواع الناس الذين في نجواهم خير

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا  
مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ  
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ  
ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ  
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ○

(۱۱۴ : ۴)

### ۱۳۔ احکم بما انزل اللہ من الشریعة

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا  
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا  
عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ  
مِنَ الْحَقِّ ----

(۴۸ : ۵)

### ۱۴۔ لاخیرة لاحد فی ما قضی اللہ ورسوله

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ  
مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ○

(۳۶ : ۳۳)

### ۱۵۔ رد واما تنازعتم فیہ الی اللہ والرسول

فَإِنْ  
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

### ۱۲۔ کیسے لوگوں کی مشورت بہتر سمجھی جانی چاہیے

ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں ہیں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یہ لوگوں میں صلح کرنے کو کہے۔ اور ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے

(۱۱۴ : ۴)

### ۱۳۔ تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کرو

اور ایسے فیصلے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق نہ ہوں گے۔ جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی تھیں اور ان کے سب پر شامل تھیں تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا۔ اور حق جو تمہارے پاس آچکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ....

(۴۸ : ۵)

### ۱۴۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کے مقررات کے لئے احکام میں کسی اور کو کچھ اختیار نہیں ہے

اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کریں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ نیت رکھیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گناہ ہوگی

(۳۶ : ۳۳)

### ۱۵۔ اختلافات کی صورت میں اللہ تعالیٰ اور رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو

..... اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ



truly believe in Allah and the Last Day. This will in the end be better and more just.

(IV: 59) Z

And in whatsoever ye differ, the verdict therein belongeth to Allah. Such is my Lord, in Whom I put my trust, and unto Whom I turn

(XLII: 10) P

### 16. WHEN IN POWER ENJOIN GOOD AND FORBID EVIL

Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good, enjoining what is right, and forbidding what is wrong. They are the ones to attain felicity

(III: 104) Y

Those who, if We give them power in the land, establish worship and pay the poor due and enjoin kindness and forbid iniquity. And Allah's is the sequel of events.

(XXII: 41) P

### 17. WHEN TO COOPERATE AND WHEN NOT TO COOPERATE WITH EACH OTHER

Help one another in what is good and pious, not in what is wicked and sinful. Have fear of Allah, for He is stern in retribution.

(V: 2) Z

### 18. RULE WITH JUSTICE WITHOUT YIELDING TO SELFISH DESIRES

(We said): 'Dawud, We have made you vicegerent in the land.

الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝  
(۵۹: ۴)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ  
إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ  
وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝  
(۱۰۱: ۴۲)

۱۶۔ ان تو لیتم فی الارض فامروا  
بالمعروف وانہوا عن المنکر  
ولتکن منکم امة یدعون  
الی الخیر ویامرون بالمعروف  
ونہون عن المنکر واولئک  
ہم المفلحون ۝  
(۱۰۴: ۳)

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا  
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  
بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ  
عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝  
(۲۲: ۴۱)

۱۷۔ فیم یجب التعاون وفیم لا یجب

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ  
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ  
العُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝  
(۲: ۵)

۱۸۔ إذا استخلفتم فأحسوا بالعدل  
ولا تتبعوا الهوى

یٰ داؤد انا جعلناک خلیفة فی الارض

اور اُس کے رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو۔ یہ  
بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے  
(۵۹: ۴)

اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف  
(سے ہوگا) یہی اللہ میرا پروردگار ہے میں اسی پر ہوس  
رکتا ہوں۔ اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں  
(۱۰۱: ۴۲)

۱۶۔ اقتدار ملنے پر نیکی کا حکم دو اور برائی  
سے منع کرو  
اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو  
نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور  
برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو نجات  
پانے والے ہیں  
(۱۰۴: ۳)

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں  
تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیکی کا حکم دے اور  
نیک کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا  
انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے  
(۲۲: ۴۱)

۱۷۔ کون سے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی اور  
کون سے میں نہیں کرنی چاہیے

... اور دیکھو نیکی اور پیریزگاری کے کاموں میں ایک  
دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں  
مدد نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کہ شک نہیں  
کہ اللہ کا عذاب سخت ہے  
(۲: ۵)

۱۸۔ جب حکومت ملے تو انصاف کے کام لو  
اور خواہش کی پیروی مت کرو

اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے

Rule with justice among men and do not yield to lust, lest it should turn you away from Allah's path -----

(XXXVIII : 26) Z

### 19. THROW BACK TREATY IF YOU FEAR TREACHERY FROM OTHER NATIONS

Please refer to "Defence" page. 271

(VIII : 58)

### 20. ALLAH HAS FORBIDDEN REBELLION

----- he forbids all shameful deeds, and injustice and rebellion: He instructs you, that you may receive admonition.

(XVI : 90) Y

### 21. ALLAH DISLIKES THOSE WHO SEEK MISCHIEF IN THE LAND

----- and seek not (occasions for) mischief in the land: for Allah loves not those who do mischief.

(XXVIII : 77) Y

فَأَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا  
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ -----

(۲۶ : ۳۸)

۱۹۔ ان خفتہ من قوم خیانہ فانبدوا  
الیہم علی سوا

لاحظ عنوان الدفاع عن صفحه رقم ۲۷۱

(۵۸ : ۸)

۲۰۔ نہی اللہ عن البغی والعدوان

----- وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

(۹۰ : ۱۶)

۲۱۔ ان اللہ لایحب المفسدین  
فی الارض

----- وَلَا تَبْغُوا الْفُسَادَ فِي  
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ○

(۷۷ : ۲۸)

تر لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش  
کی پیروی نہ کرنا، ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے  
بھٹکا دے گی -----

(۲۶ : ۳۸)

۱۹۔ دوسری قوموں سے کیے ہوئے معاہدے میں خیانت کا  
خوف ہو تو معاہدے کو انہی طرف پھینک دو  
اور خود ذمائیوں کے ساتھ ۲۷۱ پر

(۵۸ : ۸)

۲۰۔ اللہ تعالیٰ نے بغاوت یا سرکشی کرنے سے منع فرمایا ہے

..... اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے  
منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو

(۹۰ : ۱۶)

۲۱۔ اللہ تعالیٰ ملک میں فساد کرنے والوں کو  
ناپسند فرماتا ہے

..... اور ملک میں غالب فساد نہ ہو کیونکہ اللہ فساد کرنے  
والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے

(۷۷ : ۲۸)

## THE RISE AND FALL OF NATIONS

### 1. POSSIBILITY OF A CHANGE IN A NATION'S CONDITION

That is because Allah never changeth the grace He hath bestowed on any people until they first change that which is in their hearts, and (that is) because Allah is Hearer, Knower.

(VIII: 53) P

For each (such person) there are (angels) in succession, before and behind him: they guard him by command of Allah. Verily never will Allah change the condition of a people until they change it themselves (with their own souls). But when (once) Allah willeth a people's punishment, there can be no turning it back, nor will they find, beside Him, any to protect.

(XIII: 11) Y

### 2. RIGHTEOUSNESS IS ESSENTIAL FOR HERE AND HEREAFTER

Whosoever doth right, whether male or female, and is a believer, him verily We shall quicken with good life, and We shall pay them a recompense in proportion to the best of what they used to do.

(XVI: 97) P

## قوموں کا عروج و زوال عروج الاقوام و هبوطها

۱۔ کسی قوم کی حالت کیسے بدل سکتی ہے

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً  
اَنْعَمَ عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ  
وَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

(۵۳: ۸)

یہ اس لئے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل لیں اللہ اسے نہیں بدلاتا اور اس لئے کہ اللہ سنا جانتا ہے

(۵۳: ۸)

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ  
خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَہُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِنَّ  
اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا  
مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ  
سُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِہِ  
مِنْ وَاٰلٍ ۝

(۱۱: ۱۴)

اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو (ماصل) ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی۔ اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا

(۱۱: ۱۴)

۲۔ لایعتر المؤمن بحسن عمله آخرته  
فحسب بل دنیاہ ایضا

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ  
مُوْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَّلَنُجْزِيَنَّهُمْ  
اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

(۹۷: ۱۶)

۲۔ مومن کی نیک عمل کرنے سے آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا بھی بنتی ہے

جو شخص نیک اعمال کرے مرد و عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اسکو (دنیا میں) پاک (اور آرام کی) زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں، اُنکے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے

(۹۷: ۱۶)

### 3. FIXED TERM IS ALLOWED TO A PEOPLE TO REFORM AND AMEND

4. Never did We destroy a population that had not a term decreed and assigned before hand. 5. Neither can a people anticipate its Term nor delay it.

(XV : 45) Y

### 4. NO NATION FALLS OR LASTS BEYOND ITS APPOINTED HOUR

42. Then after them We brought forth other generations. 43. No nation can outstrip its term, nor yet postpone it.

(XXIII : 42-43) P

Say: I have no power to hurt or benefit myself, save that which Allah willeth. For every nation there is an appointed time. When their time cometh, then they cannot put it off an hour, nor hasten (it).

(X : 49) P

### 5. TREATMENT OF AN UNGRATEFUL PEOPLE

If He will, He can remove you, O people, and produce others (in your stead). Allah is Able to do that.

(IV : 133) P

See they not how many a generation We destroyed before them, whom We had established in the earth more firmly than We have established you, and We shed on them abundant showers from the sky, and made the rivers flow beneath them. Yet We destroyed them for their sins, and created after them another generation.

(VI : 6) P

۳۔ قوموں کو اپنے آپ کو سمجھنے اور سنبھلنے کیلئے

۲۔ لکل امة اجل محدود لاصلاح

اوضاعها  
وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا وَلَهَا  
كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ  
أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝

(۱۵۱ : ۴-۵)

۴۔ لا یستقدم قوم أجله ولا یستأخر

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرُونًا آخَرِينَ ۝  
مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝

(۲۳۱ : ۴۲-۴۳)

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا  
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ  
إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ  
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۝

(۱۰۱ : ۴۴)

۵۔ معاملۃ اقوام کافرة  
بأنعم الله

إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ  
بِآخَرِينَ ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ۝

(۴ : ۱۳۳)

الْمُرِيرَ وَأَكْمَأْهَلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ  
قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نَكُنْ  
لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا  
وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ  
فَأَهْلَكْنَاهُمْ يَوْمَ بَدَا لَهُمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ  
بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۝

(۶۱ : ۶)

مہلت کی حد مقرر کر دی جاتی ہے

وہم نے بتنی بستیاں ہلاک کی ہیں ان سب کیلئے ایک  
معیّن وقت (نوشتہ ہوتا رہا ہے) ① کوئی امت اپنی  
میداد مقرر سے پیچھا ہلاک ہوتی ہے اور پیچھے رہی ہے ②

(۱۵۱ : ۳-۵)

۳۔ کون قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم

ہوتی ہے اور نہ اس کے بعد ٹھہرتی ہے  
پہلے کے بعد ہم نے اور جہاں میں پیدا کیے ① کوئی امت اپنے  
وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے ②

(۲۳۱ : ۴۲-۴۳)

ہر دور میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار  
نہیں رکھتا۔ مگر جو اللہ چاہے۔ ہر ایک امت کیلئے امت کا  
یہ وقت مقرر ہے جب وہ وقت آجاتا ہے تو ایک نماز  
بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں

(۱۰۱ : ۴۴)

۴۔ کفرانِ نعمت کرنے والی قوموں سے  
کیا سلوک کیا جاتا ہے

لوگو اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ  
اگر لوگوں کو پیدا کرے اور اللہ اس بات پر قادر ہے

(۴ : ۱۳۳)

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو  
ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جمادیتے  
تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے اور ان پر آسمان رگڑا  
میں برسایا اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہ رہی  
تھیں۔ پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور  
ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں

(۶۱ : ۶)

## 6 DESTRUCTION OF VAIN GLORIOUS PEOPLE

And how many populations We destroyed, which exulted in their life (of ease and plenty)! Now those habitations of theirs, after them, are deserted, all but (miserable) few! And We are their heirs!

(XXVIII: 58) Y

## 7 EVERY INFIDEL SETTLEMENT SHALL BE CHASTISED OR DESTROYED

There is not a population but We shall destroy it before the Day of Judgement or punish it with a dreadful Penalty that is written in the (eternal) Record.

(XVII: 58) Y

## 8 NO PEOPLE CAN ESCAPE CONSEQUENCES OF MORAL DECADENCE

Are they better, or the folk of Tubba and those before them? We destroyed them, for surely they were guilty.

(XLIV: 37) P

## 9 TEST OF NATIONS THROUGH AFFLUENCE AND ADVERSITY

And We have sundered them in the earth as (separate) nations. Some of them are righteous, and some far from that. And We have tried them with good things and evil things that haply they might return.

(VII: 168) P

## ۶۔ لقد اهلكت القرى التي بطرت معيشتها

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشتَهَا  
فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ  
اِلَّا قَلِيْلًا وَاَنْتَ اَنْتَ الْوَارِثِيْنَ ۝

(۵۸: ۲۱)

## ۷۔ سيتم اهلاك كل قرية كافرة او تعذيبها

وَاِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها  
قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ اَوْ مَعَذِبُوها عَذَابًا  
شَدِيْدًا اِذَا كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

(۵۱: ۱۶)

## ۸۔ لا يمكن لأي قوم الانفلات من عواقب الهبوط الخلقى الوحيدة

اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَعِّ وَاَلَّذِيْنَ  
مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنٰهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا  
مُجْرِمِيْنَ ۝

(۳۷: ۴۴)

## ۹۔ تبلى اقوام بالخير والشر

وَقَطَّعْنٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَّمًا مِّنْهُمْ  
الصّٰلِحِيْنَ وَمِنْهُمْ ذُوْنَ ذٰلِكَ  
وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالشّٰئِئٰتِ لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُوْنَ ۝

(۱۶۸: ۷)

## ۶۔ معیشت پر اترانے والے لوگوں کی بستیاں تباہ کر دی گئیں

اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی (فواض) معیشت میں اتر رہے تھے۔ سویران کے مکانات میں جو ان کے بعد آباد نہیں ہو سکر بہت کم اور اچھے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔

(۵۸: ۲۱)

## ۷۔ کفر کرنے والوں کی ہر بستی کو ہلاک کیا یا عذاب دیا جائے گا

اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے عذب کر دیں گے۔ یہ کتاب یعنی تعزیر میں لکھا جا چکا ہے۔

(۵۱: ۱۶)

## ۸۔ اخلاقی زوال کے نتائج سے کوئی قوم نہیں بچ سکتی ہے

بھلا یہ اچھے ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں۔ ہم نے ان (سب کو) ہلاک کر دیا۔ بے شک وہ گنہگار تھے۔

(۳۷: ۴۴)

## ۹۔ قوموں کی آسائشوں اور تکلیفوں سے آزمائش کی جاتی ہے

اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا۔ بعض ان میں سے نیکو کاریں اور بعض اوطاع کے یعنی بگاڑ اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں (دونوں سے) ان کی آزمائش کرتے رہتے تاکہ (ہماری طرف) رجوع کریں۔

(۱۶۸: ۷)

### 10. SOME OF THE CAUSES OF DOWNFALL OF MUSLIMS

8. And how many a community revolted against the ordinance of its Lord and His messengers, and We called it to a stern account and punished it with dire punishment. 9. So that it tasted the ill-effects of its conduct, and the consequence of its conduct was loss.

(LXV : 8-9) P

And be not ye as those who forgot Allah, therefore He caused them to forget their souls. Such are the evil-doers.

(LIX : 19) P

Lo those who oppose Allah and His messenger, they will be among the lowest.

(LVIII : 20) P

29. Then withdraw (O Muhammad) from him who fleeth from Our remembrance and desireth but the life of the world. 30. Such is their sum of knowledge. Lo! thy Lord is best aware of him who strayeth, and He is best aware of him who goeth right.

(LIII : 29-30) P

Whatever of misfortune striketh you, it is what your right hands have earned. And He forgiveth much.

(XLII : 30) P

Is one who worships devoutly during the hours of the night prostrating himself or standing (in adoration), who takes heed of the Hereafter, and who places his hopes in the

### ۱۰۔ بعض اسباب ہبوط المسلمین

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّ بِهَا عَذَابًا ثَكْرًا ﴿٩﴾  
فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿١٠﴾

(۹۵ : ۸-۹)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

(۵۹ : ۱۹)

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرُسُلَهُ  
أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾

(۵۸ : ۲۰)

فَاعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا  
وَلَمْ يَرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾  
ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ  
هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ  
أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَىٰ ﴿٣٠﴾

(۳۰-۲۹ : ۵۳)

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّن مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ  
أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

(۳۰ : ۴۲)

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا  
وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ  
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ

### ۱۔ مسلمانوں کے نوال کی چند وجوہات

اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کی حکایت سے کفر کی توجہ نہ لے کر سخت حساب میں پڑ گئے اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو دیکھنا تھا نہ سنا ۸ سو انہوں نے اپنے ہوس و سرگرمی کا کام چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان بن گیا تھا ۹

(۹۵ : ۸-۹)

اور ان لوگوں جیسے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اُسے ایسا کر دیا کہ خود اپنے تئیں بھول گئے یہ بدکردار لوگ ہیں

(۵۹ : ۱۹)

جو لوگ اللہ اور اُس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے

(۵۸ : ۲۰)

تو جو ہوس و سرگرمی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اُس سے تم بھی منہ پھیر لو ۲۹ ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اُس کے رستے سے بھٹک گیا اور اُس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا ۳۰

(۳۰-۲۹ : ۵۳)

اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے

(۳۰ : ۴۲)

اجہد مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پڑتا ہے لکھتا اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جنہیں

Mercy of His Lord (like one who does not)?" Say "Are those equal, those who know and those who do not know?" It is those who are endued with understanding that receive admonition"

(XXXIX: 9) Y

And why should ye not fight in the cause of Allah and of those who, being weak are ill-treated (and oppressed) men, women, and children, whose cry is "Our Lord! Rescue us from this town whose people are oppressors, and raise for us from Thee one who will protect and raise for us from Thee one who will help"

(IV: 75) Y

## 11 LEARN FROM THE RELICS OF THE ARCHEOLOGICAL RUINS

9 Have they not travelled in the land and seen the nature of the consequence for those who were before them? They were stronger than these in power and they dug the earth and built upon it more than these have built. Messengers of their own came unto them with clear proofs (of Allah's Sovereignty) Surely Allah wronged them not, but they did wrong themselves. 10 Then evil was the consequence to those who dealt in evil, because they denied the revelations of Allah and made a mock of them

(XXX: 9-10) P

## 12 IT IS PEOPLE WHO WRONG THEMSELVES

Lo! Allah wrongeth not

لَا يَعْلَمُونَ لِمَا يَتَذَكَّرُوا لِيَآلِيَابِ

(۹: ۳۹)

وَمَا لَكُمْ لَأْتِفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ  
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا  
أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ  
أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا  
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

(۷۵: ۴)

## ۱۱- يجب أخذ العبرة من الآثار القديمة

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ  
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا  
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَ  
عَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوا وَهَاجَأَتْهُمْ  
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ  
وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۙ  
ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ آسَاءُ وَالسَّوْءِ  
أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۝

(۳۰: ۹-۱۰)

## ۱۲- الناس يظلمون انفسهم

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ

لکھے دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ (اور نصیحت تو وہی سنتے ہیں جو مصلحت میں)

(۹: ۳۹)

اور تم کو کیا بولے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں رڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اسے پورے گا رہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا۔ اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بناؤ اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما

(۷۵: ۴)

## ۱۱- آثار قدیمہ سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے

کیا ان لوگوں نے مکہ میں سینہیں کی دیکھ کر تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے انکا انجام کیا ہوا۔ وہ ان سے ورتوتے میں کہیں زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو جو تباہ اور اسکو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے۔ تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا۔ بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے ۙ پھر جن لوگوں نے بڑائی کی ان کا انجام بھی بڑا ہوا اس لئے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی منسی اڑاتے رہے تھے ۝

(۳۰: ۹-۱۰)

## ۱۲- لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں

اللہ تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی

mankind in aught but mankind wrong themselves

(X: 44) P

### 13. SOME OF THE CONDITIONS FOR THE RISE OF THE MUSLIMS

And follow the better (guidance) of that which is revealed unto you from your Lord before the doom cometh on you suddenly when ye know not

(XXXIX: 55) P

O ye who believe! Come, all of you, into submission (unto Him); and follow not the footsteps of the devil. Lo! he is an open enemy for you.

(II: 208) P

And holdfast, all of you together, to the cable of Allah, and do not separate. And remember Allah's favour unto you: how ye were enemies and He made friendship between your hearts so that ye became as brothers by His grace: ----

(III: 103) P

O ye who believe! If ye keep your duty to Allah, He will give you discrimination (between right and wrong) and will rid you of your evil thoughts and deeds, and will forgive you. Allah is of infinite bounty.

(VIII: 29) P

### 14. IF YOU DISOBEY ALLAH HE WILL REPLACE YOU

You are called upon to give in the cause of Allah. Some of

النَّاسِ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○

(۴۴: ۱۰)

۱۳۔ بعض شروط حصول المسلمین  
علیٰ عروجہم

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ○

(۵۵: ۳۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً مَوَالًا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ○

(۲: ۲۰۸)

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

(۱۰۳: ۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

(۲۹: ۸)

۱۴۔ ان تولیتہ من امر اللہ استخلف  
غیرکم

هَآئِنَّمْ هُوَ لَآءِئِدْعَاؤُن لِيَتَّقُوا رَبِّي

ہیت آپ پر ظہور کرتے ہیں

(۴۴: ۱۰)

۱۳۔ مسلمانوں کے عروج حاصل کرنے  
کی چند شرائط

اور اس سے پہلے تم پر نازل ہونے والے احکام اور تم کو  
جہ بھی نہ ہو اس بہایت اچھی کتاب کی تمہارے پروردگار  
کی طرف سے تم پر نازل ہونے سے پہلے ہی کرو

(۵۵: ۳۵)

مومنوں میں پورے پورے داخل ہو جاؤ  
اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ وہ تو تمہارا  
صریح دشمن ہے

(۲: ۲۰۸)

اور سب مل کر اللہ کی (مددیت کی) رسی کو مضبوط پکڑنے بناؤ  
متفرق نہ ہونا اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک  
دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت  
ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔

(۱۰۳: ۳)

مومنوں! اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لئے ام فارق پیدا  
کرے گا یعنی تم کو متفرق کرنے کا (اور تمہارے گناہوں  
سے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے

(۲۹: ۸)

۱۴۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وگردانی کرو گے تو وہ  
تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا  
دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے جتنے



you are niggardly; yet whoever is niggardly to this cause is niggardly to himself. Indeed, Allah is rich, but you are poor. If you give no heed, He will replace you by others. And these will not be like you.

(XLVII : 38) Z

### 15. INHERITORS OF THE KINGDOM OF THE EARTH

Before this We wrote in the Psalms, after the Message (given to Moses): "My servants, the righteous, shall inherit the earth."

(XXI : 105) Y

Allah hath promised such of you as believe and do good works that He will surely make them to succeed (the present rulers) in the earth even as He caused those who were before them to succeed (others); and that He will surely establish for them their religion which He hath approved for them, and will give them in exchange safety after their fear. They serve Me. They ascribe nothing as partner unto Me. Those who disbelieve henceforth, they are the miscreants.

(XXIV : 55) P

### 16. LET NOT THE POMP AND SHOW OF THE OTHER NATIONS DECEIVE YOU

196. Let not the strutting about of the unbelievers through the land deceive thee: 197. Little is it for enjoyment: their ultimate abode is Hell: what an evil bed (to lie on)!

(III : 196-197) Y

سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ○

(۳۸ : ۳۷)

۱۵- من یرث ویسلک الارض

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ○

(۱۰۵ : ۲۱)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَوَلِيْمَلِنَنَّهُمْ لِيَرْضَوْهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنكُمْ لَيَسْتَعْلِفُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ○

(۵۵ : ۲۴)

۱۶- لا یغرنکم تغلب اقوام اُخری فی البلاد

لَا يَغْرِبُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ○  
مَتَاعٌ قَلِيلٌ تَدْتُمُّ مَا وَالَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

(۱۹۷-۱۹۶ : ۳)

تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں۔ اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج۔ اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے

(۳۸ : ۳۷)

۱۵- ملک کی وراثت اور حاکمیت کن کو ملتی ہے

اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد نبیوں کو دیا تھا کہ میرے نیکو کار بندے ملک کے وارث ہوں گے

(۱۰۵ : ۲۱)

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انکو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے حکم و پابند کرے گا اور خوف کے بعد انکو امن بخشنے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے۔ اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بدکار ہیں

(۵۵ : ۲۴)

۱۶- دنیا کی دوسری قوموں کی شان و شوکت سے دھوکا نہ کھاؤ

(اے پیغمبر!) کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکا نہ دے (دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے پھر آخرت میں) تو انکا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے ○

(۱۹۶-۱۹۷ : ۳)

17. GRACE AND ABUNDANCE IS BESTOWED ON THOSE WHO FEAR ALLAH AND ACT RIGHTEOUSLY

If the people of the towns had but believed and feared Allah, We should indeed have opened out to them (all kinds) of blessings from heaven and earth: but they rejected (the truth), and We brought them to book for their misdeeds.

(VII: 96) Y

18. ALLAH WILL NOT DESTROY A NATION WITHOUT CAUSE OR WARNING

(The apostles were sent) thus, for thy Lord would not destroy for their wrong-doing men's habitations whilst their occupants were unwarned.

(VI: 132) Y

19. ALLAH HAS SENT A MESSENGER WITH HIS MESSAGE OF MONOTHEISM TO EVERY NATION OF THE WORLD

For We assuredly sent amongst every people an Apostle, (with the Command), "Serve Allah and eschew Evil":

(XVI: 36) Y

To every people (was sent) an Apostle: when their Apostle comes (before them), the matter will be judged between them with justice, and they will not be wronged.

(X: 47) Y

۱۷۔ یفتح اللہ ابواب برکاتہ علی التتین

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

(۹۶: ۷)

۱۸۔ لا یهلك اللہ قومًا بغیر انذار

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكَ مَهْلِكُ الْقُرَىٰ يٰظَلِمٌ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ۝

(۱۳۲: ۶)

۱۹۔ لقد بعث اللہ انبیاء فی کل قوم لتعریف رسالۃ التوحید

وَلَقَدْ لَعَنَّآ فِیْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

(۳۶: ۱۶)

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُوْلُهُمْ قَضٰی بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

(۲۱: ۱۰)

۱۷۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے

اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو جہاں پر آسمان اور زمین کی برکات (کے دروازے) کھول دیتے مگر انہوں نے تو مذہب کی سوان کے اعمال کی سزا میں جہنم کو پکڑ لیا

(۹۶: ۷)

۱۸۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بغیر وجہ اور خبردار کرنے کے تباہ نہیں کرے گا

یہ جو پیغمبر آتے تھے وہ کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اسلئے کہ تباہ اور دکھاوے سے بچانے کے لیے انہیں کو غلو سے باز کر دے اور وہاں رہنے والوں کو کچھ بھی نہیں

(۱۳۲: ۶)

۱۹۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام توحید پہنچانے کیلئے دنیا کی ہر قوم میں پیغمبر بھیجے ہیں

اور ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچتے رہو۔۔۔۔۔ ۲-۱-۲

(۳۶: ۱۶)

اور ہر امت کیلئے ایک پیغمبر بھیجا گیا ہے اور جب وہ رسول آئے پاس آجکتے اور حکم پہنچاتے تو ان کے بعد ان کا فیصلہ ان کی جاتی کے ان پر انہیں نہیں کیا جاتا

(۲۱: ۱۰)

20. ALL PROPHETS SENT BY  
ALLAH HAVE NOT BEEN  
MENTIONED IN QUR'AN

Of some Apostles We have  
already told the story; of others  
We have not, and to Moses  
Allah spoke direct; -----

(IV : 164) Y

۲۰۔ لقد بین اللہ فی القرآن احوال  
بعض الانبیاء

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ  
قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ  
وَكَلامَ اللّٰهِ مُوسٰى تَكْلِیْمًا ۝

(۴ : ۱۶۴)

۲۰۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں کا تذکرہ  
قرآن میں نہیں کیا گیا ہے

اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جنکے حالات ہم تم سے پیشتر بیان  
کر چکے ہیں اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان  
نہیں کئے۔ اور موسیٰ سے تو اللہ نے باتیں بھی کیں

(۴ : ۱۶۴)

## NATURAL SCIENCES

### CREATION OF THE UNIVERSE

#### 1. HOW THINGS HAPPEN

The Originator of the heavens and the earth! When He decreeth a thing, He saith unto it only: Be! and it is.

(II: 117) P

#### 2. ALLAH CREATED HEAVENS AND EARTH IN SIX DAYS

Lo! your Lord is Allah Who created the heavens and the earth in six days, then mounted He the throne. He covereth the night with the day, which is in haste to follow; -----

(VII: 54) P

He it is Who created for you all that is in the earth. Then turned He to the heaven, and fashioned it as seven heavens and He is Knower of all things

(II: 29) P

#### 3. HE RAISED HEAVENS WITHOUT PILLARS, MADE THE MOON THE EARTH'S LIGHT AND THE SUN A LAMP

Allah it is Who raised up the heavens without visible supports

## العلوم الكونية

## کائناتی علوم

### خلق الكائنات

۱۔ کیف تحدث الأشياء

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا  
قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ  
فَيَكُونُ ۝

(۱۱۷: ۲)

۲۔ خلق الله السموات والأرض  
في ستة أيام

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ  
عَلَى الْعَرْشِ عَشْرًا يُبْصِرُ مَا تَكْتُمُ  
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ  
وَمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ  
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

(۵۴: ۷)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ  
جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ  
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

(۲۹: ۲)

۳۔ خلق السموات بغير عمد وجعل القمر  
نورا والشمس ضياء

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ  
تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَ

### تخلیق کائنات

۱۔ چیزیں کیسے وقوع پذیر ہوتی ہیں  
وہی آسمانوں و زمین کا بید کرنے والا ہے۔ جب  
کوئی امر فرماتا ہے تو اس کو رشاد دے دیتا ہے  
کہ ہوج تو وہ ہوجاتا ہے

(۱۱۷: ۲)

۲۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو  
پچھ دن میں پیدا کیا

پچھ دنوں میں کہ تم پروردگار تمہی ہے جس نے آسمانوں  
و زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا بٹھا  
وہی رست کو دن کا لباس پہنتا ہے کہ وہ اس کے  
پچھے دوڑتا چھتا ہے

(۵۴: ۷)

وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارا  
سے پیدا کیا پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک  
سات آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے

(۲۹: ۲)

۳۔ ستونوں کے بغیر آسمان اور چاند کو زمین کا نور  
اور سورج کو چراغ بنایا

اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان میسا کر دیا

then mounted the Throne, and compelled the sun and the moon to be of service, each runneth unto an appointed term; He ordereth the course; -----

(XIII : 2) P

And hath made the moon a light therein and made the sun a lamp?

(LXXI : 16) P

#### 4. HE MADE THE FIRMA- MENT WITH POWER AND SPREAD OUT THE EARTH

47. With power and skill did We construct the Firmament: for it is We Who create the vastness of space. 48. And We have spread out the spacious earth: how excellently We do spread out!

(LI : 47-48) Y

#### 5. CREATION OF OCEANS SEA AND SUBTERRANEAN WATER

We sent down water from the sky in due measure and lodged it into the earth. But if We please, We can take it away.

(XXIII : 18) Z

#### CREATION OF HUMANKIND AND THE JINNS

#### 6. CREATION OF MANKIND AND JINNS

26. Verily We created man of potter's clay of black mud altered. 27. And the Jinn did We create aforetime of essential fire.

(XV : 26-27) P

سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِى  
لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ط -----

(۲ : ۱۳)

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ  
سِرَاجًا ○

(۱۶ : ۱۷)

۴۔ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ بِأَيْدٍ  
وَجَعَلَ الْأَرْضَ فَرَاشًا

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا بِأَيْدٍ قَدَانَا الْمَوْسِعُونَ ﴿۴۷﴾  
وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿۴۸﴾

(۴۸-۴۷: ۵۱)

۵۔ خَلَقَ الْبَحَارَ وَالْبَحِيرَاتِ وَالْمَاءِ  
تَحْتَ الْأَرْضِ

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ  
فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِنَّ  
لَقَدِيرُونَ ○

(۱۸ : ۲۳)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَالْجِنُّ وَالْحَيَوَانَاتِ

۶۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَالْجِنُّ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ  
مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿۲۶﴾ وَالْجِنُّ  
خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ﴿۲۷﴾

(۲۷-۲۶: ۱۵)

ہر دہائی (اپنے بنائے پھر عرش پر جا بھرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہر ایک ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے وہی (دنیا کے) کاموں کا انتظام کرتا ہے.....

(۲ : ۱۳)

اور چاند کو ان میں (زمین کا) نور بنایا ہے اور سورج کو چسراغ ٹھہرایا ہے

(۱۶ : ۱۷)

۴۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اپنے نور سے بنایا اور زمین کو فرش کے طور پر بچھایا

اور ہم نے آسمانوں کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم وسیع القدرت ہیں ﴿۴۷﴾ اور ہم نے زمین کو فرش (کے طور پر) بنایا اور ہم کہے (اپنے چھانیرے ہیں) ﴿۴۸﴾

(۴۸-۴۷: ۵۱)

۵۔ سمندر، بحیرے اور آب زیر زمین کی پیدائش

اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا پھر اس کو زمین میں ٹھہرایا اور ہم اس کے نابود کرنے پر بھی قادر ہیں

(۱۸ : ۲۳)

انسانوں، جنوں اور حیوانوں کی پیدائش

۶۔ انسان اور جنات کی پیدائش

اور ہم نے انسان کو کھنکھانے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے ﴿۲۶﴾ اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا ﴿۲۷﴾

(۲۷-۲۶: ۱۵)

7. ALLAH BREATHED HIS SPIRIT INTO MAN AT THE TIME OF CREATION

Then He fashioned him and breathed into him of His spirit; and appointed for you hearing and sight and hearts. Small thanks give ye!

(XXXII : 9) P

8. ALLAH CREATED MANKIND FROM A SINGLE PERSON

He created you (all) from a single person: then created, of like nature, his mate; and He sent down for you eight head of cattle in pairs: -----

(XXXIX : 6) Y

9. ALLAH SHAPES UP THE FOETUS IN THREE DARKNESSES (ABDOMEN, UTERUS AND MEMBRANE) WITHIN THE MOTHER'S WOMB

----- He makes you, in the wombs of your mothers, in stages, one after another, in three veils of darkness. Such is Allah, your Lord and Cherisher: to Him belongs (all) dominion. There is no god but He: then how are ye turned away (from your true Creator)?

(XXXIX : 6) Y

10. MAN IS CREATED FROM THE GUSHING FLUID ARISING BETWEEN THE LOINS AND THE RIBS

5. So let man consider from what he is created. 6. He is created from a gushing fluid. 7. That issued from between the loins and ribs.

(LXXXVI : 5-7) P

۷۔ نَفَخَ اللَّهُ مِنْ رُوحِهِ فِي الْإِنْسَانِ عِنْدَ خَلْقِهِ

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَ  
جَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ  
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ○

(۹: ۳۲)

۸۔ خَلَقَ اللَّهُ الْبَشَرَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ  
مِنْهَا ذَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ  
ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ -----

(۶: ۳۹)

۹۔ انشأ الله الجنين في بطن الأم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث (البطن والرحم والشيمة)

..... يَخْلُقَكُمْ فِي بَطْنٍ أُمَّهَاتِكُمْ  
خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ  
ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا  
هُوَ قَاتِيَ تُصَرِّفُونَ ○

(۶: ۳۹)

۱۰۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يُخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ⑤  
خُلِقَ مِنْ تَاءٍ دَافِقٍ ⑥  
يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ⑦

(۷-۵: ۸۶)

۷۔ آفرینش کے وقت اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی رُوح پھونک دی

پھر اس کو درست کیا۔ پھر اس میں اپنی (روح سے) رُوح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنانے کے لیے تمہیں بتا کر تمہیں شکر کرتے ہو

(۹: ۳۲)

۸۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو ایک فرد و امدا سے پیدا کیا

اُس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر اُس سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لئے چار پایوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے ....

(۶: ۳۹)

۹۔ اللہ تعالیٰ بچے کو ماؤں کے پیٹ میں تین اندھیروں (پیٹ، رحم اور مشیمہ) کے اندر شکلیں دیا چلا جاتا ہے

..... وہی تم کو تباری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ پروردگار ہے اسی کی بادشاہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں پھر سے جاتے ہو

(۶: ۳۹)

۱۰۔ انسان اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے

تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں سے پیدا ہوا ہے ⑤ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے ⑥ جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے ⑦

(۷-۵: ۸۶)

## 11. ALLAH HAS FULL CONTROL OVER CREATION OF MANKIND AND PLANTS

O mankind! if ye have a doubt about the Resurrection, (consider) that We created you out of dust, then out of sperm, then out of a leech like clot, then out of a morsel of flesh, partly formed and partly unformed, in order that We may manifest (Our power) to you; and We cause whom We will to rest in the wombs for an appointed term, then do We bring you out as babes, then (foster you) that ye may reach your age of full strength, and some of you are called to die, and some are sent back to the feeblest old age, so that they know nothing after having known (much). And (further), 'Have ye seen the earth barren and lifeless, but when We pour down rain on it, it is stirred (to life) it swells, and it puts forth every kind of beautiful growth (in pairs). 6 This is so, because Allah is the Reality: 7 He Who has power over all things.

(XXII: 5-6) Y

## 12. ALL LIVING CREATURES WERE BORN OF A FLUID

And Allah has created every animal from water, of them there are some that creep on their bellies, some that walk on two legs, and some that walk on four. Allah creates what He wills. For verily Allah has power over all things.

(XXIV: 45) Y

## ۱۱۔ ان اللہ قادر علی خلق الانسان والنبات

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُوقِرَ فِي الْأَرْحَامِ فَانشَاء إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُغُوهُنَّ أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٦ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٧

(۲۱-۵: ۲۲)

## ۱۲۔ خلق اللہ کل دابة من ماء واحد

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٤٥

(۲۵: ۲۴)

## ۱۱۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان اور نبات کی پیدائش پر پوری قدرت رکھتا ہے

لوگو! اگر تم کو (موت کے بعد) جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو (پہلی بار) ہی تم سے پیدا کیا تھا (یعنی ابتدا میں) مٹی سے پھر اس نطفہ بنا کر پھر اس خون کا قطرہ بنا کر پھر اس بوٹی بنا کر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی تاکہ تم پر (اپنی خالقیت) ظاہر کر دیں۔ اور ہم جسکو چاہتے ہیں ایک میساؤ مقرر تک پیٹ میں ٹھہرا رکھتے ہیں۔ پھر تمکو پھر بنا کر نکالتے ہیں۔ پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو اور بعض (قبل از پیری) مر جاتے ہیں اور بعض (طرح فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹا لے جاتے ہیں) کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں اور اسے دیکھتے تو دیکھتے ہیں (کہ ایک وقت میں) نہیں خشک رہتی ہوتی ہے پھر جب ہم اس پر سبز برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی ہے اور پھر نئے لہے و طرح کی باؤں چیزیں نکالتی ہے ۵ ان مخلوقوں کا ہرگز اللہ ہی قادر علیٰ خلق (جو) برحق ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے

(۲۱-۵: ۲۲)

## ۱۲۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا

اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے

(۲۵: ۲۴)

### 13. MEN AND ANIMALS MADE IN PAIRS FOR PROPAGATION

----- He has made for you pairs from among yourselves, and pairs among cattle: by this means does He multiply you: there is nothing whatever like unto Him, and He is the One that bears and sees (all things).

(XLII : 11) Y

### 14. EVERYTHING CREATED IN PAIRS

And of everything We have created pairs: that you may receive instruction.

(LI : 49) Y

----- and of all fruits He placed therein two spouses (male and female) -----

(XIII : 3) P

Glory to Allah, Who created in pairs all things that the earth produces, as well as their own (human) kind and (other) things of which they have no knowledge.

(XXXVI : 36) Y

### 15. ALLAH CREATED MAN AND TAUGHT HIM HOW TO SPEAK

1. (Allah) Most Gracious!  
2. It is He Who has taught the Qur'an. 3. He has created man:  
4. He has taught him speech (and intelligence).

(LV : 1-4) Y

### ۱۳۔ جعل اللہ الانسان والحيوان ازواجاً وبثهما في الأرض

..... جَعَلَ لَكُمْ  
مِّنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ  
أَزْوَاجًا يَذُرُّوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ  
شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

(۴۲ : ۱۱)

### ۱۴۔ جعل اللہ من کل شی زوجین اشین

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ۝

(۵۱ : ۴۹)

..... وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ  
جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اشْتَيْنِ .....

(۱۳ : ۳)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كَثِيرًا  
مِمَّا تَسْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ  
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝

(۳۶ : ۳۶)

### ۱۵۔ خلق اللہ انسان وعلمه البيان

الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝  
خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝  
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

(۵۵ : ۱-۴)

### ۱۳۔ انسانوں اور چوپایوں کو پھیلانے کیلئے ان کے جوڑے بنائے گئے

..... اسی نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کے جوڑے  
بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے اور اسی  
طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے۔ اس میں کوئی چیز نہیں  
اور وہ سنا دیکھتا ہے

(۴۲ : ۱۱)

### ۱۴۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی دو دو قسمیں بنائیں

اور ہر چیز کی دو قسمیں بنائیں تاکہ  
تم نصیحت پکڑو

(۵۱ : ۴۹)

..... اور ہر طرح کے میروں کی دو دو قسمیں  
بنائیں .....

(۱۳ : ۳)

وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے  
اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں  
سب کے جوڑے بنائے

(۳۶ : ۳۶)

### ۱۵۔ اللہ تعالیٰ نے بنی انسان کو پیدا کر کے اس کو بولنا سکھایا

اللہ جو نہایت مہربان ۝ اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی ۝  
اسی نے انسان کو پیدا کیا ۝ اسی نے اس کو بولنا سکھایا ۝

(۵۵ : ۱-۴)



### SIGNS OF NATURE MEANT FOR REFLECTION

#### 16. SOME OF THE SIGNS OF NATURE FOR THE PEOPLE OF UNDERSTANDING

Lo! in the creation of the heavens and the earth, and the difference of night and day, and the ships which run upon the sea with that which is of use to men, and the water which Allah sendeth down from the sky, thereby reviving the earth after its death, and dispersing all kinds of hearts therein, and (in) the ordinance of the winds, and the clouds obedient between heaven and earth: are signs (of Allah's sovereignty) for people who have sense.

(11: 164) P

#### 17. SIGNS OF NATURE FOR THE TRUE BELIEVERS

Do they not look at the birds, held poised in the midst of (the air and) the sky? Nothing holds them up but (the power of) Allah. Verily in this are signs for those who believe.

(XVI: 79) Y

It is He Who sendeth down rain from the skies: with it We produce vegetation of all kinds: From some We produce green (crops), out of which We produce grain, heaped up (at harvest); out of the date-palm and its sheaths (or spaths) (come) clusters of dates hanging low and near. And (then there are) gardens of grapes, and olives, and pomegranates, each

### آیات الٰہیہ کی نشانیوں کی

#### ۱۶۔ آیات لقوم یعقلون

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلِ  
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ  
النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ  
مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ  
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ  
وَتَصْرِيْفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ  
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ  
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○

(۱۱: ۱۶۴)

#### ۱۷۔ آیات الٰہیہ کی نشانیوں کی

الْمَيْرِ وَالْإِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ  
السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

(۱۶: ۷۹)

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا  
مِنْهُ خَضِرًا مُخْتَلِفًا مِنْهُ جَبَّامَاتٌ  
رَاكِبَاتٌ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ  
وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ  
مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ

### غور و فکر کے لئے قدرت کی نشانیوں کی

#### ۱۶۔ عقلمندوں کیلئے قدرت کی چند نشانیوں کی

بیشک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں (اور جہازوں) میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لئے رواں ہیں اور زمین میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اُس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ (یعنی خشک گئے پیچھے مر رہنے) کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں عقلمندوں کے لئے (اللہ کی قدرت کی) نشانیوں ہیں

(۱۱: ۱۶۴)

#### ۱۷۔ ایمان والوں کیلئے قدرت کی نشانیوں کی

کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے رہتے ہیں (اُن سے کہتے ہیں) انکو اللہ ہی تعالیٰ رکھتا ہے۔ ایمان والوں کیلئے اس میں (بہت سی) نشانیوں ہیں

(۱۶: ۷۹)

اور وہی تو ہے جو آسمان سے مینہ برساتا ہے۔ پھر ہم (جو مینہ برساتے ہیں) اس سے ہر طرح روئیدگی اُگاتے ہیں۔ پھر اس سے سبز سبز کوئی نہیں نکالتے ہیں ان کو پلوں میں سے ایک دوسرے کیساتھ جوڑے جوڑے ٹٹانے نکالتے ہیں۔ اور کچھ کے گلابے میں سے نکلتے ہیں گچھے اور انکوڑوں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ملتے ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پلوں پر اور جب پھلتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر

similar (in kind) yet different in variety. When they begin to bear fruit, feast your eye with the fruit and the ripeness thereof. Behold! in these things there are signs for people who believe.

(VI : 100) Y

Lo! Allah (it is) Who split-teth the grain of corn and the datestone (for sprouting). He bringeth forth the living from the dead, and is the bringer-forth of the dead from the living. Such is Allah. How then are ye perverted?

(VI : 96) P

### 18. THERE IS A LESSON FOR REFLECTION EVEN IN CATTLE

And lo! in the cattle there is a lesson for you. We give you to drink of that which is in their bellies, from betwixt the refuse and the blood, pure milk palatable to the drinkers.

(XVI : 66) P

### 19. ALLAH'S SIGNS FOR PEOPLE OF UNDERSTANDING

And in the land, there are adjoining plots: gardens of vines and corn and palm-trees, the single and the clustered. They are watered with one water. Yet We make some excel others in taste. Surely in this there are signs for men of understanding.

(XIII : 4) Z

And of His signs is that He gave you wives from among yourselves, that you might live in tranquillity with them, and put love and kindness in your hearts. Surely there are signs in this for thinking men.

(XXX : 21) Z

أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يُؤْمِنُونَ ○

(۱۰۰ : ۶)

إِنَّ اللَّهَ فَتَنُ الْحَبَّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ  
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ  
مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ○

(۹۶ : ۶)

### ۱۸۔ وَاِنَّ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنذِرُوا  
مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ  
لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ○

(۶۶ : ۶)

### ۱۹۔ اِنَّهَا لَآيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مِّنْجَبَلٍ وَجَنَّةٍ  
مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعَةٌ وَنَخِيلٌ وَسَوَّانٌ  
وَعَايِرٌ مِّنْهُنَّ لِيُفْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفُصِّلُ  
بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ  
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○

(۴ : ۱۳)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ  
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

(۲۱ : ۳۰)

کرو۔ ان میں ان لوگوں کے لئے ہر بیان لائے ہیں قدرت  
اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں

(۱۰۰ : ۶)

بیشک اللہ ہی نے درگھن کو پھرنے سے لذت دینا چاہا ہے  
وہی جاندار کو جان سے نکالتا ہے اور وہی جان کا جاندار سے  
نکالتے اور یہی تو اللہ ہے پھر تم کہاں بگئے چہتے ہو؟

(۹۶ : ۶)

### ۱۸۔ چار پالیوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے

اور تمہارے لئے چار پالیوں میں مقام عبرت و غور ہے  
کہ ان کے پیٹوں میں جو گوہر و زور ہے اس سے ہم کو  
خالص خوراک پڑتی ہے۔ جو پیٹے دونوں کیلئے خوشگوار ہے

(۶۶ : ۶)

### ۱۹۔ سمجھنے والوں کے لئے نشانیاں

اور زمین میں کئی طرح کے قطعہات ہیں۔ ایک دوسرے سے ملے ہوئے  
اور انکو کھانے کا یا کھیتی اور کھجور کے درخت۔ بعض کی بہت سی نہیں  
ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتیں (باجوئی) پانی سب کو ایک ہی  
مستابہ اور ہر بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے  
ہیں اور اس میں سمجھنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں

(۴ : ۱۳)

اور اسی کے نشانات (اور صفات) ہیں جسے کلاس نے تمہارے لئے  
تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ انکی طرف مائل ہو کر آرام حاصل  
کراؤ اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں  
ان کے لئے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں

(۲۱ : ۳۰)

## 20. SIGNS OF ALLAH FOR THINKERS (HONEY A CURE FOR MANY DISEASES)

68 And thy Lord taught the bee to build its cells in hills, on trees, and (in men's) habitations: 69 Then to eat of all the produce (of the earth), and find with skill the spacious paths of its Lord: there issues from within their bodies a drink of varying colours, wherein is healing for men: Verily in this is a sign for those who give thought

(XVI: 68-69) Y

## 21. ALLAH'S SIGNS FOR PEOPLE WHO HAVE VISION

43 Seest thou not that Allah makes the clouds move gently, then joins them together, then makes them into a heap? then wilt thou see rain issue forth from their midst. And He sends down from the sky mountain masses (of clouds) wherein is hail. He strikes therewith whom He pleases. The vivid flash of His lightning well-nigh blinds the sight. 44 It is Allah Who alternates the night and the day: verily in these things is an instructive example for those who have vision.

(XXIV: 43-44) Y

And two seas are not alike: this, fresh, sweet, good to drink, this (other) bitter, salt. And from them both ye eat fresh meat and derive the ornament that ye wear. And thou seest the ship clearing them with its prow that ye may seek of His bounty: and that haply you may give thanks.

(XXXV: 12) P

## ۲۰۔ آیت لقوم یفکرون (العسل فیہ شفاء لعدة امراض)

وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِیْ مِنْ الْجِبَالِ بُیُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا یَعْرِشُونَ ﴿۶۸﴾ ثُمَّ کُلِّیْ مِنْ کُلِّ الشَّمْرٰتِ فَاَسْلُکِیْ سُبُلَ رَبِّکِ ذٰلِکَ یَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُ فِیْهِ شِفَاۗءٌ لِّلنَّاسِ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَآیٰةً لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۶۹﴾

(۶۹-۶۸: ۱۶)

## ۲۱۔ آیات الکون لقوم یبصرون

الَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یُرِیْ سَحَابًا ثُمَّ یُؤَیِّفُ بَیْنَهُ ثُمَّ یَجْعَلُهُ رُکَامًا فَتَرٰی الْوُدُقَ یَخْرُجُ مِنْ خَلِّیْهِ وَیُنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِیْهَا مِنْ بَرَدٍ فِیصِیْبُ بِهٖ مَنْ یَّشَآءُ وَیَصْرِفُهٗ عَنْ مَنْ یَّشَآءُ ۗ یَکَادُ سَنَا بَرْقِهٖ یَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿۴۳﴾ یَقْلِبُ اللّٰهُ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَعِبْرَةً لِّاُولِی الْاَبْصَارِ ﴿۴۴﴾

(۴۴-۴۳: ۲۴)

وَمَا یَسْتَوِی الْبَحْرَیْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآءٌ شَرَابًا وَهٰذَا مِلْحٌ اَجَابٌ وَمِنْ کُلِّ تَاکُلُوْنَ حَمَاطًا رَّیًّا وَتَسْتَخْرِجُوْنَ حَلِیَّةً تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرٰی الْفُلْکَ فِیْهِ مَوَآخِرٌ لِّتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِہٖ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ ﴿۱۲﴾

(۱۲: ۳۵)

## ۲۰۔ سوچنے والوں کے لئے نشانی (شہد۔ لوگوں کے کئی امراض کی شفا)

اور تمہارے پروردگار نے شہد کی کھمبوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتوں میں جہ لوگ بنتے ہیں گھرنی ۶۸ اور ہر قسم کے میوے کھا۔ اور اپنے بڑے دکار کے صاف رستوں پر چلی جا۔ اسکے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس میں لوگوں (کے کئی امراض) کی شفا ہے۔ بیشک سوچنے والوں کیلئے اس میں ہی نشانی ہے ۶۹

(۶۹-۶۸: ۱۶)

## ۲۱۔ اہل بصارت کیلئے قدرت کی نشانیاں

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے پھر انکو آپس میں ملا دیتا ہے پھر انکو تہہ بہ تہہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اہل میں سے مینہ نکل (کر برس) رہا ہے۔ اور آسمان میں جو (دلوں کے) پہاڑ ہیں ان سے اونے نزل کر رہا ہے تو جس پر چاہتا ہے اسکو برس دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے۔ اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو (خیرہ کر کے بینائی کو) اچکے لئے جاتی ہے ۴۳ اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے۔ اہل بصارت کے لئے اس میں بڑی عبرت ہے ۴۴

(۴۴-۴۳: ۲۴)

اور دونوں دریا (مل کر) یکساں نہیں ہو جاتے یہ تو میٹھا ہے پیاس بھائی والا جس کا پانی خوشگوار ہے اور یہ کھاری ہے کڑوا۔ اور سب تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو پینے ہو اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ (پانی کو) چھڑاتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے (معاش) تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو

(۱۲: ۳۵)

## 22. ANOTHER PROOF OF ALLAH'S MIGHT

"The same Who produces for you fire out of the green tree, when behold! ye kindle therewith (your own fires)."

(XXXVI: 80) Y

## 23. ALLAH TURNED THE TRANSGRESSORS INTO MONKEYS TO MAKE IT A LESSON FOR THE LATER GENERATIONS

65. And well ye knew those amongst you who transgressed in the matter of the Sabbath: We said to them: Be ye apes, despised and rejected. 66. So We made it an example to their own time, and to their posterity, and a lesson to those who fear Allah.

(II: 65-66) Y

## ALLAH'S ATTRIBUTES OF CREATION AND REPRODUCTION

## 24. ALLAH HAS SUBJECTED ALL THE THINGS IN THE HEAVENS AND ON THE EARTH TO THE USE OF MAN KIND

Do ye not see that Allah has subjected to your (use) all things in the heavens and on earth, and has made His bounties flow to you in exceeding measure both seen and unseen? .....

(XXXI: 20) Y

## ۲۲- آیہ آخری لقدرة الله

يَذِي جَعَدَ لَكُمْ مِنْ شَجَرٍ لَآخْضِرٍ  
نَارًا فَرَدَّ أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ۝

(۸۰: ۳۶)

## ۲۳- جعل الله الضالين قرداً لعبرة الأجيال القادمة

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ  
فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً  
خَاسِيَةً ۝  
فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا  
وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

۶۵-۶۶: ۲

## صفات الله التكوينية والإبداعية

۲۴- سخر الله للإنسان ما في السموات  
وما في الأرض جميعاً منه

الَّذِينَ تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ  
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً  
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۝

(۲۰: ۳۱)

## ۲۲- اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک دلیل

۲۰۔ وہی جس نے تمہارے لئے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم  
اس آگ سے اپنے آپ کو لگاتے ہو

(۸۰: ۳۶)

## ۲۳- اللہ تعالیٰ نے مذاب و لوگوں کو بند بنا دیا تاکہ انہیں انہیں سے عبرت حاصل کریں

۲۰۔ تم ان لوگوں کو نوب بناتے ہو جو تمہیں سے منگنے کے  
دن کی محسوس ہونے میں تہمتیں لگاتے تھے تو تم نے ان سے  
مذاب بنائے اور بند بنا دیا ۲۰۔ اور اس لئے کہ اس وقت  
ان لوگوں سے تمہیں اور جن کے بعد آئیں گے تھے عبرت  
اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے ۲۰

۶۵-۶۶: ۲

## اللہ تعالیٰ کی صفت خلق و پیدائش

۲۴۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے  
سب کو بن کر نوح انسان کے قابو میں کر دیا

یہ تمہیں نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں  
ہے سب کو تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور  
تمہاری اپنی نفع دہی اور باہمی نعمتیں پوری کر دی ہیں

(۲۰: ۳۱)

25. ALLAH HAS MADE EVERYTHING IN HEAVENS AND EARTH SUBSERVIENT TO MAN

And He has subjected to you, as from Him, all that is in the heavens and on earth: behold, in that are signs indeed for those who reflect.

(XLV : 13) Y

26. ALLAH HAS MADE OCEANS SUBSERVIENT TO MAN

And He it is Who hath constrained the sea to be of service that ye eat fresh meat from thence, and bring forth from thence ornaments which ye wear. And thou seest the ships ploughing it that ye (mankind) may seek of His bounty and that haply ye may give thanks.

(XVI : 14) P

27. ALLAH HAS ALLOWED MAN TO PENETRATE WITH HIS DEVELOPED POWER INTO OUTER SPACE UPTO HIS SANCTIONED LIMITS

O ye assembly of jinns and men! If it be ye can pass beyond the zones of the heavens and the earth, pass ye! Not without authority shall ye be able to pass!

(LV : 33) Y

28. AFTER PASSING BY AND SEEING THE VARIOUS MANIFESTATIONS OF THE EARTH AND THE HEAVENS THE MAJORITY OF MANKIND PAY NO HEED TO THEM

105. Many are the marvels of the heavens and the earth;

۲۵ - سخر الله للإنسان كل ما في الكون

وَسَخَّرَ لَكُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

(۱۳ : ۴۵)

۲۶ - سخر الله للإنسان البحار

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا نَأْكُلُ مِنْهُ حِمًّا طَرِيًّا وَنَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

(۱۴ : ۱۶)

۲۷ - لقد اذن الله للإنسان ان ينفذ بسلطان العلم والمعرفة من اقطار السموات والارض

يَمْعَشَرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا وَلَا تَنْفُذُوا إِلَّا بِسُلْطَانٍ ○

(۳۳ : ۵۵)

۲۸ - لا يتفكر اكثر الناس في مظاهر الكون رغم مرورهم عليها الذي هو امر مقضي

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

۲۵ - الله تعالى نے آسمانوں اور زمین میں سب کو انسان کے کام میں لگا دیا ہے

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے (کلم) سے تمہارے کام میں لگا دیا جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لئے اس میں (قدرت اللہ کی) نشانیاں ہیں

(۱۳ : ۴۵)

۲۶ - الله تعالى نے دریا (سمندر) کو انسان کے قابو میں کر دیا

اور وہی ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھلو اور اس سے نیور (موتی وغیرہ) نکالو جسے تم پہننے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو بھاڑتی چلی جاتی ہیں اور اس لیے بھی (دریا کو تمہارے اختیار میں کیا) کہ تم اللہ کے فضل سے (سماں) تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو

(۱۴ : ۱۶)

۲۷ - الله تعالى نے انسان کو اُسکی حاصل کردہ طاقت کے ذریعے بیرونی خلا میں اپنی رضامندی کی حد تک نکل جانے کی اجازت دی ہوئی ہے

اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زمین کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں

(۳۳ : ۵۵)

۲۸ - زمین اور آسمانوں کے جملہ مظاہر پر سے گزرنے کے باوجود انسانوں کی اکثریت ان پر غور و فکر نہیں کرتی

اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر

yet they pass them by and pay no heed to them. 106. The greater part of them believe in Allah only if they associate others with Him.

(XII : 105-106) Z

### 29. ALLAH PUT CONSTELLATIONS IN THE HEAVENS AND ADORNED THEM FOR THE ONLOOKERS

We have put constellations in the heavens and made them look nice to the beholders.

(XV : 16) Z

### 30. GUARDING OF HEAVENS

17. And guarded them from every accursed devil. 18. But he who listens by stealth is pursued by a visible flame.

(XV : 17-18) Z

### 31. HE MADE THE SUN A LAMP AND THE MOON A LIGHT AND FIXED THE PHASES OF THE MOON TO FACILITATE COUNTING OF YEARS

It is He Who made the sun to be a shining glory and the moon to be a light (of beauty), and measured out stages for her: that ye might know the number of years and the count (of time). Nowise did Allah create this but in truth and righteousness -----

(X : 5) Y

They ask thee concerning the new moons. Say: they are but signs to mark fixed period of time in (the affairs of) men and for Pilgrimage -----

(II : 189) Y

يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٥﴾  
وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٦﴾

(۱۰۶-۱۰۵: ۱۲)

۲۹۔ جعل اللہ فی السماء بروجاً وزینتها  
للناظرین

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا  
لِلنَّاطِرِينَ ﴿١٦﴾

(۱۵: ۱۶)

۳۰۔ حفظ السموات

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾  
إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ  
شَهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾

(۱۵-۱۷: ۱۸)

۳۱۔ جعل اللہ الشمس ضياءً والقمر  
نورا وقدرة منازل لتعلموا  
عدد السنين والحساب

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ  
نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ  
السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ  
إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

(۱۰: ۵)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ  
مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ

(۱۸۹: ۲)

ان کا گزرتا رہتا ہے اور وہ اعلیٰ طرف (اصلاً) توجہ نہیں کرتے ﴿۱۵﴾ اور اکثر لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں تو اس طرح کہ شرک بھی کرتے ہیں ﴿۱۶﴾

(۱۰۶-۱۰۵: ۱۲)

۲۹۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بروج بنائے اور اُس کو دیکھنے والوں کے لئے سجایا

اور ہم بھی نے آسمان میں بروج بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے اُس کو سجایا

(۱۵: ۱۶)

۳۰۔ آسمانوں کی حفاظت

اور ہر شیطان رندہ درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا ﴿۱۷﴾ مگر کوئی چوری سے سنا چاہے تو چمکتا ہوا نگر اُس کے پیچھے پکتا ہے ﴿۱۸﴾

(۱۵-۱۶: ۱۸)

۳۱۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ برسوں کا شمار ہو سکے

وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرویں (سب کچھ) اللہ نے تیر سے پیدا کیا ہے ....

(۱۰: ۵)

(۱۸۹: ۲)

(۱۸۹: ۲)

32. IN THE SIGHT OF ALLAH THERE ARE TWELVE MONTHS IN A YEAR

To! the number of the months with Allah is twelve months by Allah's ordinance in the day that He created the Heavens and the earth -----

(IX : 36) P

33. TO REGULATE BALANCE AND SPEED OF EARTH ALLAH PLACED MOUNTAINS AND MADE WIDE RAVINES

And We have placed in the earth firm hills lest it quake with them, and We have placed therein ravines as roads that haply they may find their way.

(XXI : 31) P

34. HE FIXED THE SUN'S PATH AND THE MOON'S PHASES AND ALL WILL KEEP REVOLVING ON THEIR ORBITS FOR AN APPOINTED TERM

And He it is Who created the night and the day, and the sun and the moon. They float each in an orbit.

(XXI : 33) P

38. And the sun runneth on unto a resting-place for him. That is the measuring of the Mighty, the Wise. 39. And for the moon We have appointed mansions till she return like an old shrivelled palm-leaf. 40. It is not for the sun to overtake the moon, nor doth the night outstrip the day. They float each in an orbit.

(XXXVI : 38-40) P

۳۲- ان عداة الاشهر اثنا عشر عند الله

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا  
فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

(۹ : ۳۶)

۳۳- جعل الله في الارض رواسى  
كيلا تبيد بسكانها

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ  
وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

(۲۱ : ۳۱)

۳۴- جعل الله للشمس مستقرا  
وقدر القمر منازل وكل في فلك  
يسبحون

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ  
وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

(۲۱ : ۳۳)

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ  
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ  
وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ  
كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ  
لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ  
وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ  
يَسْبَحُونَ

(۳۶ : ۳۸-۴۰)

۳۲- اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے بارہ مہینے ہیں

اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں بارہ ہیں یعنی اس سورہہ کے آئینے آسمانوں  
زین کو پیدا کیا۔ کتاب اللہ میں (ہر سال کے) بارہ مہینے (کھینچے) ہیں۔

(۹ : ۳۶)

۳۳- زمین کی کفار اور توازن میں انضباط پیدا کرنے  
کیلئے اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ اور ان میں  
رستوں کے لئے گھاٹیاں بنا دیں

اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں (کے بوجھ) سے ہلنے  
(اور جھکنے) نہ لگے اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں

(۳۱ : ۲۱)

۳۴- اللہ تعالیٰ نے سورج کا راستہ اور چاند کی  
منزلیں مقرر کر دیں اور سب اپنے اپنے  
دائرے میں وقت مقرر تک تیرتے رہیں گے

اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا اور سب اپنی  
سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں (مقرر) چلتے ہیں گویا تیرتے رہے ہیں

(۳۳ : ۲۱)

اور سورج اپنے مقصد سے چلتا رہتا ہے (مقرر) غائب اور دانا  
کا (مقرر) کیا ہوا اندازہ ہے (۳۶) اور چاند کی جہت میں نے منزلیں مقرر  
کر دیں بیان تک کہ (کھینچنے) کھینچنے کی پراپی شائش کی طرح ہو  
جاتا ہے (۳۹) نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے  
اور نہ رات ہی دن سے پہلے آسکتی ہے اور سب اپنے اپنے  
دائرے میں تیر رہے ہیں (۴۰)

(۳۶ : ۳۸-۴۰)

He created the heavens and the earth in truth. He causes the night to overlap the day and the day to overlap the night. He made the sun and the moon obedient to Him, each running for an appointed term. He is the Mighty, the Forgiving One.

(XXXIX : 5) Z

### 35. ALLAH HAS INEXHAUSTIBLE TREASURES OF EVERYTHING

21. And there is not a thing but its (sources and) treasures (inexhaustible) are with Us; but We only send down thereof in due and ascertainable measures. 22. And We send the fecundating winds, then cause the rain to descend from the sky, therewith providing you with water (in abundance), though ye are not the guardians of its stores.

(XV : 21-22) Y

### 36. HE SENDS RAIN AND LIGHTNING THROUGH THE CLOUDS AND HAIL FROM THE MOUNTAINS WHENEVER HE PLEASES

Do you not see how Allah drives the clouds, then gathers them and piles them up in masses which pour down torrents of rain? From heaven's mountains He sends down hail, pelting with it whom He will and turning it away whom He pleases. The flash of His lightning almost snatches off men's sight.

(XXIV : 43) Z

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَبْرِؤُ  
الْبَلَّ عَلَى النَّهَارِ وَيَكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى  
الْبَلِّ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِى  
أَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝

(۵ : ۳۹)

۳۵۔ ومن كل شیء عند الله خزائنه

وَرِنُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ  
وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝۲۱  
وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ  
السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ ۗ وَمَا أَنْتُمْ  
لَهُ بِخَازِنِينَ ۝۲۲

(۱۵ : ۲۱-۲۲)

۳۶۔ ينزل الله من السحاب المطر والبرق  
ومن الجبال البرد حيث يشاء

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي سَحَابٍ مُمِثِّلاً  
بَيْنَهُ نُحُورُهُ كَمَا تَرَى الْوَدْقَ  
يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ  
مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ  
مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَن يَشَاءُ ۗ  
يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۝

(۲۴ : ۴۳)

اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدریک کے ساتھ پیدا کیا ہے اور رات کو رات کو بے پروا اور دن کو دن کو رات پر لپٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں رکھا ہے۔ سب ایک وقت سے لے کر ایک وقت تک چلتے رہیں گے دیکھو وہی غالب اور بے نخبے والا ہے

(۵ : ۳۹)

۳۵۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں

ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہر ان کو بقدر مناسب اتارتے رہتے ہیں ۲۱ اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں (جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی (ہوتی ہیں) اور ہم ہی آسمان سے مینہ برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم کو اس کا خزانہ نہیں رکھتے ۲۲

(۱۵ : ۲۱-۲۲)

۳۶۔ اللہ تعالیٰ بادلوں سے مینہ اور بجلی اور پہاڑوں سے جہاں بھی چاہتا ہے اولے نازل کرتا ہے

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے پھر ان کو آپس میں پلاتا ہے پھر (کو تدریک کرتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں مینہ نکل کر برس رہا ہے اور آسمان میں جو بادلوں پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے تو جس پر چاہتا ہے اس کو برساتتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بٹا رکھتا ہے۔ اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بیانی کر، اچکے لے جاتی ہے

(۲۴ : ۴۳)



37. HE HAS MARKED OUT RIVERS AND PATHS AND LANDMARKS FOR COMMUNICATION

15. And He hath cast into the earth firm hills that it quake not with you, and streams and roads that ye may find a way. 16. And landmarks (too) and by the stars they find a way.

(XVI: 15-16) P

38 HE MADE STARS TO TELL THE WAY IN THE DARKNESS ON LAND AND SEA

It is He Who maketh the stars (as beacons) for you that ye may guide yourselves, with their help, through the dark spaces of land and sea -----

(VI: 98) Y

39 ALLAH CREATED CATTLE FOR MANKIND TO USE THEM FOR FOOD AND TRANSPORT

79. It is Allah Who made cattle for you, that ye may use some for riding and some for food. 80. And these are (other) advantages in them for you (besides), that ye may through them attain to any need (there may be) in your hearts; and on them and on ships ye are carried.

(XL: 79-80) Y

Of the cattle are some for burden and some for meat -----

(VI: 143) Y

۳۷ - جعل الله في الارض انهارا  
وسبلا وعلمت وفي السماء  
نجوما

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ  
وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾  
وَعَلَّمَتُ بِاللُّجُمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

(16: 15-16)

۳۸ - جعل الله النجوم للاهتداء في  
ظلمت البر والبحر

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا  
بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ .....

(98: 6)

۳۹ - خلق الله للإنسان الأنعام منها  
يأكل ومنها يركب عليها

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا  
مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾  
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا  
حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى  
الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾

(40: 79-80)

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ ...

(143: 6)

۳۷ - اللہ تعالیٰ نے ایک مقام سے دوسرے مقام تک  
بنائے کیلئے نہریں، رستے، زمینی نشانات  
اور ستارے بنا دیئے

اور اسی زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیئے تاکہ تم کو لیکر کہیں جگہ نہ جائے اور  
نہریں اور رستے بنا دیئے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو  
اور (ستاروں میں) نشانات بنا دیئے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں ﴿۱۵﴾

(16: 15-16)

۳۸ - اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو جگلوں اور دریاؤں  
(سمندرؤں) کی تاریکیوں میں راستے معلوم کرنے کیلئے بنایا

اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنائے تاکہ جگلوں  
اور دریاؤں کے اندر میں ان سے رستے معلوم کرو ....

(98: 6)

۳۹ - اللہ تعالیٰ نے انسانوں کیلئے چار پائے پیدا کیے  
تاکہ وہ بعض کو کھائیں اور بعض پر سواری کریں

اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے چار پائے بنائے تاکہ ان میں  
سے بعض پر سواری ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو ﴿۷۹﴾ اور تمہارے  
لئے ان میں راہ بھی (فائدہ سے ہیں اور اس لئے بھی کہ کہیں جانے  
کی تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ  
جاؤ۔ اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو ﴿۸۰﴾

(40: 79-80)

اور چار پائے میں بعض کھانے والے (جیسے بکریاں) اور کچھ سواری کے لئے (جیسے گھوڑے) ہیں

(143: 6)

40. ALLAH MADE OLIVE TREE TO SERVE AS FOOD AND OIL

And a tree that springeth forth from Mount Sinai that groweth oil and relish for the eaters.

(XXIII : 20) P

41. ALLAH ORDAINED THE NIGHT FOR REST AND SUN AND THE MOON FOR RECKONING

He kindles the light of dawn. He has ordained the night for rest and the sun and the moon for reckoning. Such is the ordinance of Allah, the Mighty, the Knowing.

(VI : 97) Z

42. ALL THIS IS ALLAH'S CREATION. WHERE ARE THE CREATURES OF THOSE THEY ASSOCIATE WITH HIM

Such is the Creation of Allah: Now show Me what is there that others besides Him have created: nay, but the Transgressors are in manifest error.

(XXXI : 11) Y

43. NONE EXCEPT ALLAH CAN ORIGINATE AND REPEAT CREATION

Say: "Of your 'partners', can any originate creation and repeat it?" Say: "It is Allah Who originates creation and repeats it: then how are ye deluded away (from the truth)?"

(X : 34) Y

۴۰۔ انبت اللہ شجر الزیتون صبغا ودھنا

وَشَجْرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِلآكِلِينَ ○

(۲۳ : ۲۰)

۴۱۔ جعل اللہ اللیل سکناً والشمس والقمر لمعرفة عدد السنین والحساب

فَالرُّقُ الْأَصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ○

(۹۷ : ۹۷)

۴۲۔ هذا خلق الله فماذا خلق غيره

هَذَا خَلَقَ اللَّهُ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○

(۱۱ : ۲۱)

۴۳۔ هل من خالق يبدأ الخلق ثم يعيده

قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكَاكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ○

(۳۴ : ۱۰)

۴۰۔ اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کو روغن و سالن کے لئے اگایا

وہ درخت بھی ایسی ہی ہے جیسا کہ سینا پہاڑ سے اگائی گئی ہے۔ زیتون کے درخت سے روغن و سالن کے لئے ہوتے ہیں۔

(۲۳ : ۲۰)

۴۱۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو ذرا لے کر شمار بنایا

یہی رات کے ٹھہرنے سے صبح کی روشنی پیدا کرتا ہے اور سورج نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو ذرا لے کر شمار بنایا۔ یہ اللہ کے ہونے کے لئے ہے۔

(۹۷ : ۹۷)

۴۲۔ یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق اب اس کے سوا جو ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے

یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اب تم مجھ کو دکھاؤ کہ اس کے سوا جو ہیں انہوں نے کیا کیا چیزیں پیدا کیں بلکہ یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔

(۱۱ : ۲۱)

۴۳۔ بھلا کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو ابتداء پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے

ان سے پوچھو کہ جس اللہ کے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداء پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرتا ہے تو تم کہاں کے جا رہے ہو؟

(۳۴ : ۱۰)

#### 44. ALLAH'S FAVOURS ARE COUNTLESS

If ye would count up the favours of Allah, never would ye be able to number them: for Allah is Oft Forgiving, Most Merciful.

(XVI: 18) Y

#### 45. NO ONE CAN UNDERSTAND HOW THE WHOLE CREATION CELEBRATES ALLAH'S PRAISES

The seven heavens, the earth, and all who dwell in them praise Him. All creatures celebrate His praise. Yet you cannot understand their praises. Bountiful is He and Forgiving.

(XVII: 44) Z

#### 46. PLANTS AND TREES ALSO BOW DOWN TO ALLAH IN ADORATION

And the herbs and the trees both (alike) bow in adoration.

(LV: 6) Y

#### 47. THE ANGELS REGULATE THE AFFAIRS OF THE WORLD IN ACCORDANCE WITH ALLAH'S WILL

1. By those (angels) who violently snatch away (men's souls), 2. And those who gently draw them out; 3. By those who glide along (at Allah's bidding) 4. And those who speed headlong; 5. By those who regulate the affair.

(LXXIX: 1-5) Z

#### ۴۴۔ وان تعدوا نعمة الله لن تحصوها

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا  
إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(۱۶ : ۱۸)

#### ۴۵۔ تسبیح الکلون پر متہ لله وراء

عقل الإنسان وفہمہ

نَسَبَهُ لِهَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ  
وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا  
يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ  
تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

(۱۷ : ۴۴)

#### ۴۶۔ النجم والشجر يسجدان لله

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝

(۶ : ۵۵)

#### ۴۷۔ السلا ملة مدبرات امر السماء

والارض باذن الله

وَالنَّزِعَاتِ غُرُقًا ۝  
وَالشَّاطِطِ نَشَاطًا ۝  
وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ۝  
فَالسَّيِّئَاتِ سَبَقًا ۝  
فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۝

(۷۹ : ۱-۵)

#### ۴۴۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی ناممکن ہے

اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو۔ بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

(۱۶ : ۱۸)

#### ۴۵۔ تمام کائنات کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا

انسان کی عقل و فہم سے باہر ہے

ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور (مخلوقات میں سے) کوئی چیز نہیں مگر اسکی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ لیکن تم انکی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بیشک وہ بڑا بار داد اور غفار ہے

(۱۷ : ۴۴)

#### ۴۶۔ بوٹیاں اور درخت بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں

اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں

(۶ : ۵۵)

#### ۴۷۔ فرشتے ہی دنیا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے

حکم کے مطابق چلا رہے ہیں

ان (فرشتوں) کی قسم جو ڈوب کر کھینچ دیتے ہیں ۱ اور انکی جو آسمان سے کھول دیتے ہیں ۲ اور انکی جو تیرتے چرتے ہیں ۳ پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں ۴ پھر (دنیا کے) کاموں کا انتظام کرتے ہیں ۵

(۷۹ : ۱-۵)

48. ALLAH CREATED IRON SO THAT WEAPONS OF WAR AND ARTICLES OF DAILY USE ARE MANUFACTURED FROM THIS EXTREMELY POWERFUL METAL

----- And We sent down iron, in which is (material for) mighty war, as well as many benefits for mankind, that Allah may test who it is that will help, unseen, Him and His apostles; for Allah is Full of Strength, exalted in Might (and able to enforce His will).

(LVII : 25) Y

49. ALLAH CREATES SUCH THINGS ALSO OF WHICH MAN HAS NO KNOWLEDGE

And (He has created) horses, mules, and donkeys, for you to ride and use for show; And He has created (other) things of which you have no knowledge.

(XVI : 8) Y

50. EXTENT OF THE WORDS OF ALLAH

And if all the trees in the earth were pen, and the sea, with seven more seas to help it, (were ink), the words of Allah could not be exhausted. Lo! Allah is Mighty Wise.

(XXXI : 27) P

۴۸۔ بخلق الله معادن الحديد التي يمكن اختراع الأسلحة وحاجات الحياة الأخرى بواسطة المعدن القوي للغاية المستخرج منها

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ بَاطِنٌ لِّسَيِّئَاتِهِ وَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

(۲۵: ۵۷)

۴۹۔ بخلق الله للإنسان أشياء لا يعلمها

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

(۸: ۱۶)

۵۰۔ ماذا سعة كلام الله

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

(۲۷: ۳۱)

۴۸۔ اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا تاکہ اس انہماکی طاقتور دھات سے اسلحہ جنگ اور دوسری ضروریات زندگی بنائی جاسکیں

..... ذرا سوچیں اسلحہ جنگ کے علاوہ کچھ بھی شدید اور وزن کیے جانے والے ہیں اور اس کے جوڑوں کو دیکھیں اور اس کے پوزوں کی مدد سے میں ان کو معلوم کرے۔ بیشک اللہ قوی اور غالب ہے

(۲۰: ۵۰)

۴۹۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی انسان کو خبر نہیں ہے

درستی گھوڑے اور خیر اور گیسے پیدا کئے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لئے سونق و زینت (جہیز) میں اور وہ (اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں

(۸: ۱۶)

۵۰۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی وسعت کیا ہے

اور اگر لوہے ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں (سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد سات سمندر اور زہا سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں (یعنی اس کی صفیں) ختم نہ ہوں بیشک اللہ غالب اور حکمت والا ہے

(۲۴: ۳۱)

## THE DOOMS-DAY

## القیامۃ

## قیامت

### 1. CREATION OF UNIVERSE FOR A FIXED TERM

Have they not considered that Allah did not create the heavens and the earth and all that lies between them except in truth, and for an appointed term? Yet most men deny that they will ever meet their Lord

(XXX : 8) Z

### 2. DOOMS-DAY IS ESSENTIAL FOR JUDGEMENT OF GOOD AND EVIL DEEDS

3. Those who disbelieve say: The Hour will never come unto us. Say: Nay, by my Lord, but it is coming unto you .....  
4. That He may reward those who believe and do good works. For them is pardon and a rich provision .....  
5. But those who strive against our revelations, challenging (us), there will be a painful doom of wrath.

(XXXIV : 3-5) P

### 3. ONLY ALLAH KNOWS THE TIME OF ITS OCCURRENCE

They ask you about the Hour (of Doom) and when it is to come. Say: 'None knows except my Lord. He alone will

### ۱۔ خلق الکلون لاجل مسمی

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ۝

(۸۱:۳۰)

### ۲۔ اقامۃ القیامۃ ضروریۃ للمجازاۃ علی المحسات والمعاقبۃ علی السیات

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْآتَيْنَا السَّاعَةَ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَأَتِيَنَّكُمْ ۗ .....  
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝  
وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ۝

(۵۰:۳۴)

### ۳۔ وعند الله علم الساعة

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِمُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّئُهَا

### ۱۔ کائنات مقررہ وقت کیلئے پیدا کی گئی ہے

کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا۔ کہ اللہ نے سماؤں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لئے پیدا کیا ہے اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قابل ہی نہیں

(۸۱:۳۰)

### ۲۔ نیکی کا انعام اور بدی کی سزا دینے کیلئے قیامت کا لانا ضروری ہے

اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئیگی۔ کہہ دیجئے کہ نہیں (آئے گی) یہی ہے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آکر رہے گی.....  
اس لئے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے انکو بدلہ دے۔ یہی ہیں جن کے لئے بخشش اور عترت کی روزی ہے..... اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی کہ ہمیں ہرا دیں ان کیلئے سخت دردینے والے عذاب کی سزا ہے.....

(۵۰:۳۴)

### ۳۔ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے

دیکھ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے

reveal it at the appointed time. A fateful hour it shall be, both in the heavens and on earth. It will come suddenly' -----

(VII : 187) Z

#### 4. THE DAY OF JUDGEMENT MAY BE AT HAND

----- Say: 'The knowledge of it is with Allah alone. Who knows? It may well be that it is near at hand'.

(XXXIII : 63) Z

#### 5. TIMINGS OF UNIVERSAL PLANNING ARE BEYOND HUMAN UNDERSTANDING

They bid you hasten the punishment. Allah will not break His promise. Each day with your Lord is like a thousand years in your reckoning.

(XXII : 47) Z

The angels and the Spirit ascend unto Him in a Day, the measure whereof is (as) fifty thousands years.

(LXX : 4) Y

#### 6. DOOMS-DAY IS KEPT HIDDEN SO THAT ACTIONS ARE FAIRLY REWARDED

The Hour of Doom is sure to come. But I choose to keep it hidden, so that every soul may be rewarded for its labours.

(XX : 15) Z

#### 7. THE DOOMS-DAY WILL BE A TERRIBLE EVENT

O mankind! Fear your Lord. Lo! the earthquake of the Hour (of Doom) is a tremendous thing.

(XXII : 1) P

لَوْ قَتَلْنَا الْأَهْوَاءَ ثَقَلْتُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَ  
الْأَرْضِ لَأَتَيْنَكُمُ إِلَّا بَعَثَةً

(۱۸۷: ۷)

۴۔ لعل الساعة تكون قريبة

----- قُلْ إِنَّمَا

عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ  
السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

(۶۳: ۶۳)

۵۔ ان حساب اوقات تدبیر الامر

الکونی وراء عقل الانسان وفهمه  
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ  
اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ  
كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

(۴۷: ۴۴)

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ  
كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

(۴: ۷۰)

۶۔ لقد أخفى امر الساعة ليعجزى

كل امرئ بالحق

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا الْعَاجِزِيُّ  
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى

(۱۵: ۲۰)

۷۔ إن زلزلة الساعة أمر عظيم

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ  
السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

(۱: ۲۲)

وہی آئے آئے وقت پر ظہور کرے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک  
بھاری بات ہوگی اور ناگہان تم پر آجائے گی.....

(۱۸۷: ۷)

۴۔ شاید قیامت قریب ہی آگئی ہو

..... کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم  
ہے شاید قیامت قریب ہی آگئی ہو

(۶۳: ۶۳)

۵۔ کائناتی منصوبہ بندی کے اوقات کا حساب

انسان کی عقل و فہم سے باہر ہے  
اور لوگ تم سے عذاب کیلئے جلدی کر رہے ہیں اور اللہ اپنا  
وعدہ ہرگز خدفا نہیں کریگا۔ اور بیشک تمہارے پروردگار کے  
نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی نوے ہزار برس کے برابر ہے

(۴۷: ۴۴)

جس کی طرف روح (الایمن) اور فرشتے چڑھتے ہیں (اوپر)  
اُس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ پچاس ہزار برس کا ہوگا

(۴: ۷۰)

۶۔ قیامت کو خفیہ رکھا تاکہ عمل کا

صحیح بدلہ دیا جائے

قیامت یقیناً آئی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس (کے وقت) کو  
پریشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے

(۱۵: ۲۰)

۷۔ قیامت ایک عظیم حادثہ ہے جو بڑا سخت اور تلخ ہوگا

لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک  
حادثہ عظیم ہے

(۱: ۲۲)

The Hour of Doom is their appointed time. And that Hour will be most grievous and bitter

(LIV : 46) Z

### 8. NON-BELIEVERS IN RESURRECTION WILL BE THE LOSERS ON THE DAY OF JUDGEMENT

3. Does man think We shall never put his bones together again? 4. Indeed, We can remould his very fingers!

(LXXV : 3-4) Z

They indeed are losers who deny their meeting with Allah until, when the hour cometh on them suddenly, they cry: 'Alas for us, that we neglected it!' They bear upon their backs their burdens. Ah, evil is that which they bear!

(VI : 31) P

49. 'What!' they also say. 'When we are turned to bones and dust, shall we be restored as a new creation?' 50. Say: 'You shall, whether you turn to stone or iron, 51. or any other substance which you may think to be unlikely to be given life'. They will ask: 'Who will restore us?' Say: 'He that created you first' -----

(XVII : 49-51) Z

### 9. SOME SIGNS HERALDING DOOMS-DAY

95. But there is a ban on any population which We have destroyed: that they shall not return, 96. Until the Gog and Magog (people) are let through (their barrier), and they swiftly

بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَى  
وَأَمْرٌ ۝

(۴۶: ۵۴)

### ۸- سیکون الکافرون خاسرین یوم القیامة

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعُ عِظَامَهُ  
بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نَسْوِيَّ بَنَانَهُ ۝

(۷۵: ۳-۴)

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ  
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا  
يَحْسِرْنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ  
يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ  
الْأَسَاءَ مَا يَزُرُونَ ۝

(۶: ۳۱)

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاءًا إِنَّا  
لَسَبْعُونَ زُنَّ خَلْقًا جَدِيدًا ۝  
قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝  
أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ  
فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي  
فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۝

(۱۷: ۴۹-۵۱)

### ۹- بعض اشراط القیامة قبل مجیئها

وَحَرَمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ  
لَا يَرْجِعُونَ ۝  
حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَا حُجُوجٌ وَمَا حُجُوجٌ

ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت  
بڑی سخت اور بہت تلخ ہے

(۴۶: ۵۴)

۸- انسانوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان نہ رکھنے  
والے قیامت کے روز گھائے میں نہیں گے

کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اسکی (بکھری ہوئی) ہڈیاں اکٹھی نہیں  
کریں گے؟ (اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اسکی پر پودر کر دیں)

(۷۵: ۳-۴)

جن لوگوں نے اللہ کے دُور کھڑے ہونے کو بھڑک بھڑک  
گھائے میں آگے۔ یہاں تک کہ جہان پر قیامت ناگہاں  
آمو جو ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ (ہائے) اُس تصویر پر فرسوس جو ہم نے  
قیامت کے بارے میں کی۔ اور وہ اپنے اعمال کے (جو چاہیے) بیٹوں پر لٹا  
ہوئے ہوئے دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے

(۶: ۳۱)

اور کہتے ہیں کہ جب ہم (مگر کو سید) ہڈیاں اور چوڑے چوڑے ہڈیاں  
تو کیا از سر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ (کہہ دو کہ) (خوام) پتھر ہو جاؤ  
یا لہڑا ۝ یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک (پتھر اور لوہے  
سے بھی) بڑی (سخت) ہو جھٹ کیں گے کہ (بھلا) ہمیں دوبارہ  
کون جلسے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار  
پیدا کیا..... ۝

(۱۷: ۴۹-۵۱)

### ۹- قیامت آنے سے پہلے کی کچھ نشانیاں

اور ہم (مگر کو سید) کو (مگر کو سید) ناکر کچھ میں لکھے (باشدوں کے لئے)  
یہ بات ناکر کچھ (دنیائیں) پر نوٹ کر آئیں ۝ یہاں تک کہ  
جب یاجوج ماجوج کھلیے جائیں گے اور وہ (غایت کثرت کی وجہ سے)

swarm from every hill. 97. Then will the True Promise draw nigh (of-fulfilment): -----

(XXI : 95-97) Y

### 10. THE DOOMS-DAY

49. They wait but one blast, which will overtake them whilst they are disputing. 50. They will make no will, nor shall they return (to their kinsfolk).

(XXXVI : 49-50) Z

When the Trumpet sounds a single blast;

(LXIX : 13) Z

4. A day wherein mankind will be as thickly scattered moths. 5. And the mountains will become as carded wool.

(CI : 4-5) P

7. But when the sight of mortals is confunded. 8. And the moon eclipsed; 9. When sun and moon are brought together -----

(LXXV : 7-9) Z

8. The day when the sky will become as molten copper 9. And the hills become as flakes of wool,

(LXX : 8-9) P

14. And the earth with the mountains shall be lifted up and crushed with one crash, 16. And the heaven will split asunder, for that day it will be frail. 17. And the angels will be on the sides thereof, and eight will uphold the Throne of their Lord that day, above them.

(LXIX : 14, 16, 17) P

وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿۹۷﴾

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ----- ﴿۹۸﴾

(۹۷-۹۵: ۲۱)

### ۱۰۔ یوم القیامۃ

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ

وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿۴۹﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿۵۰﴾

(۵۰-۴۹: ۳۶)

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿۱۳﴾

(۱۳: ۶۹)

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوتِ ﴿۴﴾

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿۵﴾

(۵-۴: ۱۱۰)

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصُرُ ﴿۷﴾

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿۸﴾

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿۹﴾

(۹-۷: ۷۵)

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿۸﴾

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿۹﴾

(۹-۸: ۷۰)

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا

دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿۱۴﴾

وَأَشَقَّتِ السَّمَاءُ فَبِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿۱۶﴾

وَالْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ

رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ ﴿۱۷﴾

(۱۷-۱۶: ۶۹)

برینہ کی (سب سے پہلے اور سب سے اعلیٰ) آواز ہونے کے (۹۷) اور (۹۸)

جمع و ہفت کا، چھ و عدد نزدیک آپس پہنچا ہوگا۔ (۹۸)

(۹۷-۹۵: ۲۱) ۶-۳-۲

### ۱۰۔ قیامت کا دن

یہ تو ایک پھٹنے کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں

کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو اس کے (۴۹) چھ تو وصیت کر لیں گے

اور اپنے گھروں میں واپس جاسیں گے (۵۰)

(۵۰-۴۹: ۳۶)

توجہ سوری میں ایک اور پھونکا مار دی جائے گی

(۱۳: ۶۹)

روایت ہے کہ جس دن لوگ ایسے ہی جھپٹے ہوئے ہوں گے اور

پہاڑی ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنسی ہوئی رنگ کی اون (۵)

(۵-۴: ۱۱۰)

جب آسمان چمکنا جائے (۷) اور چاند گہنا جائے (۸) اور

سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں (۹)

(۹-۷: ۷۵)

جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا (۸)

اور پہاڑ ایسے جیسے دھنسی ہوئی رنگین اون (۹)

(۹-۸: ۷۰)

اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھائے جائیں گے۔ پھر ایک بار گی

توڑ پھوڑ کر برابر کر دیئے جائیں گے (۱۴) اور آسمان پھٹ

جائے گا تو وہ اس دن کو دور ہوگا (۱۶) اور فرشتے اس کے

کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو

اس روز اٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے (۱۷)

(۱۷-۱۶: ۶۹)



1. When the heaven is cleft asunder, 2. When the plants are dispersed, 3. When the seas are poured forth, 4. And the sepulchres are overturned,

(LXXXII : 1-4) P

1. When the sun is folded up; 2. When the stars fall down. 3. And the mountains are blown away; 4. When the camels big with their young are left untended. 5. And the wild beasts are brought together; 6. When the seas are burning. 11. And heaven is stripped bare, 12. When Hell burns fiercely; 13. And Paradise is brought near:

(LXXXI : 1-6, 11-13) Z

## 11. RESURRECTION OF MANKIND AFTER DEATH

The Trumpet shall be sounded and all who are in heavens and earth shall fall down fainting, except those that shall be spared by Allah. Then the Trumpet will sound again and they shall rise and gaze around them.

(XXXIX : 68) Z

12. ON RESURRECTION MAN WOULD THINK HE HAD STAYED IN THIS WORLD FOR A FEW HOURS AND HE WOULD ALSO RECOGNIZE HIS FELLOWS

The day (will come) when He will gather them again, as though they had stayed (in this world) but an hour of the day. They will recognize one another. Lost are those that disbelieve in meeting their Lord and do not follow the right path.

(X : 45) Z

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ①  
وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ②  
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ③  
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ④

(۸۲: ۱-۴)

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ①  
وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ②  
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ③  
وَإِذَا الْعُشُورُ عُطِّلَتْ ④  
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُضِرَتْ ⑤  
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ⑥  
وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ⑦  
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ⑧  
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ⑨

(۸۱: ۱۱-۱۳)

۱۱- احياء الناس بعد الموت

عند مجي القيامة

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ  
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ  
ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ  
يَنْظُرُونَ ○

(۳۹: ۶۸)

۱۲- يظن الإنسان عند احيائه انه

مكث في الدنيا ساعة ويعرف

بعض الناس بعضا

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا  
سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ  
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ  
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ○

(۱۰: ۴۵)

جب آسمان پھٹ جائے گا ① اور جب تارے پھڑ پھڑیں گے ② اور جب دریا بہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے ③ اور جب قبریں کھڑکی جائیں گی ④

(۸۲: ۱-۴)

جب سورج پیٹ لیا جائے گا ① اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے ② اور جب پہاڑ پلٹے جائیں گے ③ اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی ④ اور جب وحشی جانور جمع کئے جائیں گے ⑤ اور جب دریا آگ ہو جائیں گے ⑥ اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی ⑦ اور جب دوزخ دکی آگ بھڑکائی جائے گی ⑧ اور بہشت جب قریب لائی جائے گی ⑨

(۸۱: ۱۱-۱۳)

۱۱- قیامت کے آنے پر انسانوں کا مرنے

کے بعد زندہ کیا جانا

اور جب صور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بیہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ پھر دوسری دُف پھونکا جائیگا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے

(۳۹: ۶۸)

۱۲- انسان دوبارہ زندہ ہونے پر خیال کریگا کہ

وہ دنیا میں تو گھڑی بھر ہی رہا تھا اور

وہ ایک دوسرے کو شناخت بھی کریگا

اور جس دن اللہ اکھٹو جمع کریگا (تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریگا کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن زیادہ ہے ہی نہیں تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریگا جن لوگوں نے اللہ کے دُور مانے ہوئے کو بھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہِ یاب نہ ہوئے

(۱۰: ۴۵)

13. EVERYBODY WILL BE PRESENTED TO ALLAH ACCOMPANIED BY HIS DRIVING ANGELS

21. And there will come forth every soul: with each will be an (angel) to drive, and an (angel) to bear witness. 23. And his companion will say: "Here is (his Record) ready with me!"

(L : 21, 23) Y

14. EVERYBODY WILL BE CONFRONTED WITH HIS RECORD OF ACTIONS

13. The works of each man We have bound about his neck. On the Day of Resurrection, We shall confront him with a book spread wide open, 14. (Saying): 'Read your book. Enough for you this day that your own soul should call you to account'.

(XVII : 13-14) Z

The book will be set down (before them), and you shall see the sinners dismayed at that which is inscribed in it. They shall say: 'Woe to us! What can this book mean? It omits nothing small or great: all are noted down!' -----

(XVIII : 49) Z

28. You shall see all the nations on their knees. Each nation shall be summoned to its book (and a voice will say to them): 'you shall this day be rewarded for your deeds. 29. This Record of Ours speaks with truth against you. We have recorded all your actions'.

(XLV : 28-29) Z

۱۳- امتثال الانسان امام المحكمة  
الالهية مع ملكين: سائق وشهيد

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ  
شَهِيدٌ ﴿۲۱﴾  
وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ﴿۲۳﴾

(۲۱: ۲۳: ۵۰)

۱۴- يوتى كل انسان كتابه

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعًا فِي  
عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا  
يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴿۱۳﴾  
اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ  
عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿۱۴﴾

(۱۴-۱۳: ۱۷)

وَوَضَعَ الْكُتُبَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ  
مُسْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوبِلْتَنَا  
مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً  
وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا -----

(۴۹: ۱۸)

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ  
تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْزَرُونَ مَا لَكُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿۲۸﴾

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا  
كُنَّا نَسْتَسْمِعُ مَا لَكُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۹﴾

(۲۹-۲۸: ۴۵)

۱۳- ہر انسان اپنے دونوں فرشتوں کے ساتھ  
عدالت الہی میں پیش ہوگا

اور ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے آئیں گے۔ ایک (فرشتہ) اس کے ساتھ چلانے والا  
ہوگا اور ایک (اس کے عملوں کی گواہی دینے والا) اور اس کا  
بمنشین (فرشتہ) کہے گا کہ یہ (اعمال نامہ) میرے پاس تازہ ہے ﴿۲۱﴾

(۲۱: ۲۳: ۵۰)

۱۴- ہر ایک کو اس کی اپنی اپنی کتاب عمل  
دکھائی جائے گی

اور ہر انسان کے اعمال کو درجہ صورت کتاب اس  
کے گھٹے میں لٹکا دیا ہے۔ اور قیامت کے روز  
وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ  
گھڑا ہوا دیکھے گا ﴿۱۳﴾ (کہا جائیگا کہ) اپنی کتاب پڑھو۔  
تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے ﴿۱۴﴾

(۱۴-۱۳: ۱۷)

اور (عملوں کی) کتاب (کھول کر) رکھی جائیگی تو تم گنہگاروں کو دیکھو گے  
کہ جو کچھ اس میں (لکھا) ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ اور کہیں  
بائے شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے  
نہ بڑی کو (کوئی بات بھی نہیں) غمرا سے لکھ رکھتا ہے۔۔۔۔

(۴۹: ۱۸)

اور تم ہر ایک ذائقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا۔  
(اور) ہر ایک جماعت اپنی کتاب (اعمال کی طرف بلانی جائیگی۔  
جو کچھ کرتے رہے جو آج تم کو اسکا بدلہ دیا جائیگا ﴿۲۸﴾ یہ ہماری کتاب  
تمہارے پاس ہے میں سچ سچ بیان کروں گی۔ جو کچھ تم کیا  
کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے ﴿۲۹﴾

(۲۹-۲۸: ۴۵)

### 15. THE SINNERS WILL LONG FOR A SECOND CHANCE

Would that you could see the wrongdoers when they hang their heads before their Lord! They will say: 'Lord, we now see and hear. Send us back and we will never do wrong again. We are firm believers'.

(XXXII: 12) Z

Or, when it sees the punishment should say: 'Could I but live again, I would lead a righteous life'.

(XXXIX: 58) Z

### 16. AWARD SHALL BE GIVEN WITH FULL JUSTICE

On that day no soul shall suffer the least injustice. You shall be rewarded according only to your deeds.

(XXXVI: 54) Z

### 17. WHO SHALL BE PERMITTED TO INTERCEDE

They will have no power of intercession, save him who hath made a covenant with his Lord.

(XIX: 87) P

Numerous are the angels in the heavens; yet their intercession shall avail nothing until Allah gives leave to whom He accepts and chooses.

(LIII: 26) Z

### ۱۵۔ سیتنی المجرمون الاثون منح فرصة اخرى

وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا ابْصُرْنَا وَسْمِعْنَا  
فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوقِنُونَ ۝

(۱۲: ۳۲)

اَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ  
لِي كَرَّةً فَارْتَدُّ لِمَنْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

(۵۸: ۳۹)

### ۱۶۔ سبجازی کل واحد یوم القیامة بالعدل والقسط

فَالْيَوْمَ لَا تظلم نفس شیئاً وَلَا تُجْزَوْنَ  
اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

(۵۴: ۳۶)

### ۱۷۔ من یوزن له بالشفاعة

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ  
عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝

(۸۷: ۱۹)

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِي  
شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً اِلَّا مِّنْ بَعْدِ اَنْ يَّأْذَنَ  
اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضٰى ۝

(۲۶: ۵۳)

### ۱۵۔ گنہگار ایک اور موقع لینے کی خواہش کریں گے

اود تم تعجب کروں جب دیکھو کہ گنہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکا کر ہرنگے  
(اور کہیں گے کہ ہاں ہاں پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو تمکو (دیکھ) دیکھ  
وہاں بھیجے کہ نیک عمل کریں بیشک ہم یقین کرنے والے ہیں

(۱۲: ۳۲)

یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھ پر ایک دفعہ  
وہاں میں جانا ہوتو میں نیکو کاروں میں ہوجاؤں

(۵۸: ۳۹)

### ۱۶۔ قیامت کے دن ہر ایک کو انصاف کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا

اُس روز کسی شخص پر کچھ غم نہیں کیا جائے گا اور تم کو  
بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے

(۵۴: ۳۶)

### ۱۷۔ سفارش کا اختیار کن کو ہوگا

و تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس  
نے اللہ سے اقرار لیا ہو

(۸۷: ۱۹)

اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش  
کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کیلئے  
چاہے اجازت بخشے اور (سفارش) پسند کرے

(۲۶: ۵۳)

### 18. MANKIND WILL BE DIVIDED INTO VARIOUS GROUPS

7. You shall be divided into three multitudes: 8. Those on the right – (happy) shall be those to the right; 9. Those on the left – (wretched) shall be those on the left; 10. And those to the fore shall be foremost.

(LVI : 7-10) Z

### 19. THE PARADISE IN WHICH 'FOREMOST' WILL BE GIVEN ENTRY (1st CATEGORY)

10. And those to the fore shall be foremost. 11. Such are they that shall be brought near to their Lord. 12. In the gardens of delight: 13. A whole multitude from the men of old, 14. But only a few from the later generations. 15. (They shall recline) on jewelled couches. 16. Face to face, 17. And there shall wait on them immortal youths. 18. With bowls and evers and a cup of purest drink 19. That will neither pain their heads nor take away their reason; 20. With fruits of their own choice. 21. And flesh of fowls that they desire. 22. And there shall be houris with large lustrous eyes, 23. Chaste as hidden pearls: 24. A reward for their deeds. 25. There they shall hear no idle talk, no sinful speech, 26. But only the greeting, 'Peace! Peace!'

(LVI : 10-26) Z

### ۱۸۔ سیکون الناس ازواجاً متعددة

بعد وقوع القيامة

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝  
فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝  
وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝  
وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۝

(۱۰-۷۱ : ۵۶)

### ۱۹۔ بیان روضۃ الجنۃ التي سيدخلها

السابقون (الفئة الاولى)

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۝  
أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۝  
فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۝ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوْلِيَانِ ۝  
وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۝  
عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۝  
مُّتَكِّئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۝  
يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۝  
بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ۝  
لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفَوْنَ ۝  
وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۝  
وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۝ وَخَوْرَعِينَ ۝  
كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۝  
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝  
لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهِمُ  
الْأَقْبَالُ سَلَامًا ۝

(۲۶-۱۰ : ۵۶)

۱۸۔ وقوع قیامت کے بعد انسان کئی گروہوں میں منقسم کر دیئے جائیں گے

۱۔ وہ لوگ تین قسم ہو جاؤ گے ۲۔ تو رہنے والے (سچے) اور بائیں ہاتھ والے (افسوس) ہوں گے ۳۔ اور بائیں ہاتھ والے (افسوس) ہوں گے ۴۔ اور بائیں ہاتھ والے (افسوس) ہوں گے ۵۔ اور بائیں ہاتھ والے (افسوس) ہوں گے ۶۔ اور بائیں ہاتھ والے (افسوس) ہوں گے

(۱۰-۷۱ : ۵۶)

۱۹۔ آگے بڑھنے والے جنت کے کونے باغ میں داخل کئے جائیں گے (پہلی قسم)

۱۰۔ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں (ان کا کیا کہنا) وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں ۱۱۔ وہی (اللہ کے) مقرب ہیں ۱۲۔ نعمت کی بیشتر میں وہ بہت سے تو کچھ لوگوں میں سے ہونگے ۱۳۔ اور تھوڑے پھولوں میں سے ۱۴۔ اس میں (یا قوت وغیرہ سے) جڑے ہوئے تختوں پر ۱۵۔ آنے والے سائے چھکے لگائے ہوئے ۱۶۔ نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس چھریں گے ۱۷۔ یعنی آبخورے اور آنا ہے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر ۱۸۔ اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہونگی ۱۹۔ اور جو جس طرح کے ان کو پسند ہیں ۲۰۔ اور پرنڈوں کا گوشت جس قسم کا انکا چاہے ۲۱۔ اور بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ۲۲۔ جیسے (حفاظت سے) تہہ کے ہونے والے ۲۳۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے ۲۴۔ وہاں نہ یہودہ بات سنیں گے نہ گالی گلوچ ۲۵۔ ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا ۲۶۔

(۲۶-۱۰ : ۵۶)

20. THE PARADISE TO WHICH PEOPLE OF THE RIGHT HAND WILL BE ADMITTED (2nd CATEGORY)

27. And those on the right hand; what of those on the right hand? 28. Among thornless lote-trees. 29. And clustered plantains, 30. And spreading shade, 31. And water gushing, 32. And fruit in plenty 33. Neither out of reach nor yet forbidden, 34. And raised couches; 35. Lo! We have created them a (new) creation, 36. And made them virgins, 37. Lovely, friends, 38. For those on the right hand; 39. A multitude of those of old, 40. And a multitude of those of later time.

(LVI: 27-40) P

21. WHERE THOSE OF THE LEFT HAND WILL DWELL (3rd CATEGORY)

41. And those on the left hand What of those on the left hand? 42. In scorching wind and scalding water. 43. And shadow of black smoke, 44. Neither cool nor refreshing. 51. Then lo! you, the erring, the deniers, 52. Ye verily will eat of a tree called Zaqqum 53. And will fill your bellies therewith; 54. And thereon you will drink of boiling water, 55. Drinking even as the camel drinketh. 56. This will be their welcome on the Day of judgement. 57. We created you. Will ye then admit the truth?

(LVI: 41-44, 51-57) P

۲۰۔ روضۃ الجنة التي سيدخلها

اصحاب اليمين (الفئة الثانية)

وَاصْخَبُ الْيَمِينِ ۙ مَا اصْخَبُ الْيَمِينِ ۙ  
فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۙ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۙ  
وَظِلِّ مَّمْدُودٍ ۙ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۙ  
وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۙ لَا مَقْطُوعَةٍ ۙ  
وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۙ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۙ  
إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً ۙ  
فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۙ عُرُبًا أَتْرَابًا ۙ  
لِاصْخَبِ الْيَمِينِ ۙ  
ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۙ  
وَأُثْلَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۙ

(۵۶: ۲۷-۴۰)

۲۰۔ دائیں ہاتھ والے جنت کے کونے باغ میں داخل کئے جائیں گے (دوسری قسم)

اور داہنے ہاتھ والے (سبحان اللہ) داہنے ہاتھ والے کیا (ہی عیش میں) ہیں (یعنی) بے خار کی بیڑوں اور تہہ تہ کیوں اور لہ لہے سیلوں اور پانی کے جھرنوں اور میوہ ہلے کثیرہ (کے باغوں) میں جو نہ بھی ختم ہوں اور زمان سے کوئی روکے اور اونچے اونچے فرشوں میں ہم نے ان (موزوں) کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا (اور شوہروں کی) پیساریاں اور ہم عمر (یعنی) داہنے ہاتھ والوں کے لئے (یہ) بہت سے تراگے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پھلوں میں سے

(۵۶: ۲۷-۴۰)

۲۱۔ ایں یکن اصحاب الشمال (الفئة الثالثة)

وَاصْخَبُ الشِّمَالِ ۙ مَا اصْخَبُ الشِّمَالِ ۙ  
فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ۙ  
وَظِلِّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ۙ  
لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۙ  
ثُمَّ إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْيَاقُوتَ الْمَكِيدُونَ ۙ  
لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّومٍ ۙ  
فَمَا لِيُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۙ  
فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ۙ  
فَشَارِبُونَ شَرِبَ الْهَيْمِ ۙ  
هَذَا نَزَّلْنَاهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۙ  
نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ۙ

(۵۶: ۴۱-۵۱، ۵۷)

۲۱۔ بائیں ہاتھ والے کہاں ہوں گے (تیسری قسم)

اور بائیں ہاتھ والے (افسوس) بائیں ہاتھ والے کیا (دی عذاب میں) ہیں (یعنی) دوزخ کی پٹ اور کھرتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں (جو زخند ہے) زخند (پھر تم اسے جھٹلانے والے گمراہ ہو) تمہارے درخت کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھر گے اور اس پر کھوتا ہوا پانی پیو گے اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں جو اکنے دن یہ ان کی میثاق ہوگی ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم (دوبارہ اٹھنے کو) کیوں سچ نہیں سمجھتے؟

(۵۶: ۴۱-۵۱، ۵۷)

22. SOME PEOPLE WILL BE ON THE HEIGHTS BETWEEN PARADISE AND HELL (4th CATEGORY)

Between them is a veil. And on the Heights are men who know them all by their marks. And they call unto the dwellers of the Garden: Peace be unto you! They enter it not although they hope (to enter).

(VII : 46) P

23. DESCRIPTION OF PARADISE

Be quick in the race for forgiveness from your Lord, and for a Garden whose width is that (of the whole) of the heavens and of the earth, prepared for the righteous. -

(III : 133) Y

46. But for him who feareth the standing before his Lord, there are two gardens. 48. Of spreading branches. 50. Wherein are two fountains flowing. 52. Wherein is every kind of fruit in pairs. 54. Reclining upon couches lined with silk brocade, the fruit of both gardens near to hand. 56. Therein are those of modest gaze, whom neither man nor jinn will have touched before them. 58. (In beauty) like the jacinth and the coral stone.

(LV : 46, 48, 50, 52, 54, 56 & 58) P

51. As to the Righteous (they will be) in a position of Security, 52. Among Gardens and Springs; 53. Dressed in fine silk and in rich brocade, they will face each other;

(XLIV : 51 - 53) Y

۲۲-سیکون عند مجمع الفردوس والجحیم اصحاب الاعراف (الفئة الرابعة)

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَعَلَّكُمْ يَرْحَمُونَ

(۷۶ : ۴۶)

۲۳- بیان الفردوس

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

(۱۳۳ : ۳)

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فِيهَا مَا عَيْنَانِ تَجْرِيْنَ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ أَكْهَتْهُ زَوْجَانِ مُتَّكِلِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَّاتُ الْجَنَّةِ دَانٍ فِيهِنَّ قُصُورٌ الطَّرْفُ لَمْ يَطْمِئَسْنَ بِهَا قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ

(۵۵ : ۴۶، ۴۸، ۵۰، ۵۲، ۵۴، ۵۶، ۵۸)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ

(۵۱ : ۵۱-۵۲)

۲۲-بہشت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد پر اصحاب الاعراب ہوں گے (چوتھی قسم)

دو طرف یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان (عراق) ایک ایسی سرحد ہے جہاں پر وہ لوگ ہوں گے جو سوائے بہشت کے کسی اور جہاں کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یہ لوگ بہشت میں داخل ہونے کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخشے اور انہیں بہشت میں داخل کرے۔

(۴۶ : ۴۶)

۲۳- بہشت کا بیان

اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف پہنچنے کے لئے تیار رہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

(۱۳۳ : ۳)

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے غمگین ہوئے ہوئے ہے اور اس کیسے دوستانہ ہے ان دونوں میں بہت سی شانیں یعنی نعمتوں کے میوؤں کے درخت ہیں ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں ان میں سب میوے دو قسم کے ہیں اور جنت اپنے پھولوں پر جن کے استراحت کے ہیں اور گھاس اور دھنوں وغیراں کے میوے قریب مجھلا ہے ہیں ان میں نئی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے کسی انسان نے نہ دیکھا اور کسی جن نے گویا وہ یا قوت اور مرجان ہیں

(۵۵ : ۴۶، ۴۸، ۵۰، ۵۲، ۵۴، ۵۶، ۵۸)

بیشک ہر میزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے یعنی باغوں اور چشموں میں حریر کا باریک اور دیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے

(۵۱ : ۵۱-۵۲)

62. And beside them are two other gardens, 64. Dark green with foliage. 66. Wherein are two abundant springs. 68. Wherein is fruit, the date-palm and pomegranate. 76. Reclining on green cushions and fair carpets.

(LV : 62, 64, 66, 68, 76) P

22. And We provide them with fruit and meat such as they desire. 23. There they Pass from hand to hand a cup wherein is neither vanity nor cause of sin.

(LII : 22-23) P

5. Lo! the righteous shall drink of a cup whereof the mixture is of water of Kafur: 6. A spring wherefrom the slaves of Allah drink, making it gush forth abundantly.

(LXXVI : 5-6) P

13. Reclining there upon soft couches, they shall feel neither the scorching heat nor the biting cold. 14. Trees will spread their shade around them, and fruits will hang in clusters over them. 15. They shall be served with silver dishes, and beakers as large as goblets; 16. Silver goblets which they themselves shall measure: 17. And they shall be given to drink from cups brimful with ginger - 18. Flavoured water from a Fount called Salsabil. 19. They shall be attended by youths never aging, who, to the beholder's eyes, will seem like sprinkled pearls. 20. When you gaze upon that scene you will behold blessings and a glorious kingdom. 21. They shall be arrayed in garments of fine green silk and rich brocade,

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ ﴿٦٢﴾ مَدَاهَا مَتْنٌ ﴿٦٣﴾  
فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَيْنِ ﴿٦٤﴾  
فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٥﴾  
مُتَّكِعِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ  
حَسَانٍ ﴿٦٦﴾

(۷۶، ۶۸، ۶۶، ۶۴، ۶۲، ۵۵)

وَأَمَّا دُونَهُمَا بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا  
يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾  
يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا  
تَأْتِيمٌ ﴿٢٣﴾

(۲۳-۲۲ : ۵۲)

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ  
مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾  
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا  
تَفْجِيرًا ﴿٦﴾

(۶-۵ : ۷۶)

مُتَّكِعِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ  
فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾ وَدَانِيَةً  
عَلَيْهِمْ ظِلَالُهُا وَذَلَّتْ تُطُوفُهَا تَدْلِيلًا ﴿١٤﴾  
وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَّةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ  
أَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٥﴾  
قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾  
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَتْ مِزَاجُهَا  
زَنْجَبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسْقَى سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾  
وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا  
رَأَوْهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثورًا ﴿١٩﴾  
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمْرًا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا  
كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ﴿٢١﴾

اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں ﴿۶۲﴾ دلوں  
خوب گہرے سبز ﴿۶۳﴾ ان میں دو چٹے ابل رہے ہیں ﴿۶۴﴾  
ان میں میوے اور گجریں اور انار ہیں ﴿۶۵﴾ سبز  
قالینوں اور نفیس مسدوں پر تکیہ لگائے بیٹھے  
ہوں گے ﴿۶۶﴾

(۷۶، ۶۸، ۶۶، ۶۴، ۶۲، ۵۵)

اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو انکا جی چاہے گا ہم انکو عطا کریں  
گے ﴿۲۲﴾ وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب بھپٹا یا کیٹے  
جس کے پینے سے نہ زبان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات ﴿۲۳﴾

(۲۳-۲۲ : ۵۲)

جو نیکو کاریں وہ ایسی شراب نوش جان کیے جس میں کافور کی  
آمیزش ہوگی ﴿۵﴾ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے  
پئیں گے اور اس میں سے (چھوٹی چھوٹی) نہریں نکالیں گے ﴿۶﴾

(۶-۵ : ۷۶)

ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں نہ صوب  
کی حدت) دیکھیں گے نہ سردی کی شدت ﴿۱۳﴾ ان سے  
(شہاد شائیں اور) انکے سائے قریب ہونے اور میوے کے کچے  
بچکے ہوئے لنگ رہے ہونے ﴿۱۴﴾ (خدا) چاندی کے باسن لے  
پڑائے اور گد پڑے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس ﴿۱۵﴾ اور  
شیشے ہی چاندی کے جو ٹیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں ﴿۱۶﴾  
اور وہاں ان کو ایسی شراب دی (پلائی جائے گی جس میں سونہ  
کی آمیزش ہوگی) ﴿۱۷﴾ یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جسکا نام سلسبیل  
ہے ﴿۱۸﴾ اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ  
ایک ہی حالت پر آئیے۔ جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ  
بچھے ہوئے ہیں ﴿۱۹﴾ اور بہشت میں (جہاں) اکھٹا ڈالنے کی  
صفت اور عظیم (اشنان) سلطنت بچھے گئے ﴿۲۰﴾ ان کے بدنوں پر

and adorned with bracelets of silver. Their Lord will give them a pure beverage to drink.

(LXXVI: 13-21) Z

#### 24. ADMISSION INTO PARADISE

73. And those who fear their Lord shall be led in companies to Paradise. When they draw near, its gates will be opened, and its keepers will say to them: 'Peace be to you: you have been good men. Enter Paradise and dwell in it for ever, 74. They will say: Praise be to Allah who has made good to us His promise -----'

(XXXIX: 73-74) Z

Their prayer therein will be: Glory be to Thee, O Allah! and their greeting therein will be: Peace. And the conclusion of their prayer will be: praise be to Allah, Lord of the Worlds.

(X: 10) P

#### 25. DESCRIPTION OF HELL

It has seven gates, and through each gate (goes) a portion of them.

(XV: 44) Z

Had it been Our will, We could have guided every soul. But My word shall be fulfilled: 'I will fill the pit of Hell with jinn and men all together'.

(XXXII: 13) Z

But if you fail, as you are sure to fail, then guard yourself against the fire whose fuel is men and stones, prepared for the unbelievers.

(II: 24) Z

وَحُلُومًا مَّسْكُومًا وَسَقِيمًا  
رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿۲۱﴾

(۶۱-۱۳: ۷۹)

#### ۲۴- الدخول في الفردوس

وَسَيُتَقَاتَبُونَ فِي الْأَجْنَّةِ  
زَمْرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ وَهَّاءُ  
وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ  
فَادْخُلُواهَا خَالِدِينَ ﴿۴۳﴾

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي  
صَدَقْنَا وَعَدَّهُ ﴿۴۴﴾

(۷۴-۷۳: ۲۹)

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ  
فِيهَا سَلَامٌ وَأَخْرَجَهُمْ مِنَ  
الْحَمْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾

(۱۰: ۱۰)

#### ۲۵- بیان جہنم

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ  
بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿۱۵﴾

(۴۴: ۱۵)

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ  
لَّكِنَ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ  
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۳۲﴾

(۱۳: ۳۲)

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا  
النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ  
الْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۲۴﴾

(۲۴: ۲۴)

دینے سے اور جس پر سزا ہوگی اور انہیں چاندی کے کفن پہنا جائیگی  
اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلے گا ﴿۲۱﴾

(۶۱-۱۳: ۷۹)

#### ۲۴- بہشت میں داخلہ

دو جنوں نے پڑاؤ سے اُترتے ہیں نگوڑہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف  
لے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب سکے پاس پہنچ جائیں اور  
ان سے دروازے کھول دیئے جاتے تو اسے دروازے سے کہیں کہیں کہہ کر  
بہشت چھوڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ داخل ہو جائیں ﴿۴۳﴾ وہ کہیں گے کہ  
سبحان اللہ جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا... ﴿۴۴﴾

(۷۴-۷۳: ۲۹)

جب وہ ان میں (ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو) بے ساختہ  
کہیں گے سبحان اللہ اور آپس میں انکی دعا سداً علیکم ہوگی اور انکا  
آخری قول یہ رہے گا کہ فضلے رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔

(۱۰: ۱۰)

#### ۲۵- جہنم یا دوزخ کا بیان

اس کے سات دروازے ہیں۔ ہر ایک دروازے کے لئے ان  
میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں

(۴۴: ۱۵)

اگر ہم چاہتے تو ہم ہر ایک کو ہدایت دے دیتے لیکن  
میری طرف سے یہ بات قرار پائی ہے کہ میں دوزخ کو  
کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا

(۱۳: ۳۲)

لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس  
آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہونگے۔ اور  
جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے

(۲۴: ۲۴)



43. Lo! the tree of Zaqqum:  
44. The food of the sinner!  
45. Like molten brass it seetheth in the bellies. 46. As the seething of boiling water. 47. (And it will be said): Take him and drag him into the midst of Hell, 48. Then pour upon his head the torment of boiling water. 49. (Saying): Taste! Lo! thou wast forsooth the mighty, the noble! 50. Lo! this is that where of ye used to doubt.

(XLIV : 43-50) P

16. Hell lies before him and he is given stinking water to drink. 17. He takes it in portions, but he cannot swallow it. Death will come to him from every quarter, yet he shall not die. A dreadful torment is before him.

(XIV : 16-17) Z

28. Naught doth it permit to endure, and man doth it leave alone! 29. Darkening and changing the colour of man! 30. Over it are Nineteen. 31. And We have set none but angels as guardians of the Fire, .....

(LXXIV : 28-31) Y

## 26. ADMISSION INTO HELL

7. Lo! those who expect not the meeting with us but desire the life of the world and feel secure therein and those who are neglectful of Our revelations. 8. Their home will be the Fire because of what they used to earn.

(X : 7-8)

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ ۝  
طَعَامًا لِّلَّذِينَ ۝  
كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۝  
كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ۝  
خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝  
ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۝  
ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۝  
إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ۝

(۵۰-۴۳: ۴۴)

مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ ۝  
صَدِيدٍ ۝  
يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ۝  
الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۝  
وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝

(۱۷-۱۶: ۱۴)

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۝  
لَوَاحِةٌ لِّلْبَشْرِ ۝  
عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشْرَ ۝  
وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۝

(۳۱-۲۸: ۲۷)

## ۲۶- دخول الکفار فی جہنم

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا ۝  
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأْنَنُوا إِلَيْهَا وَالَّذِينَ ۝  
هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَفُلُونَ ۝  
أُولَٰئِكَ مَا أَوْهَمَ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

(۸-۷: ۱۰)

بلاشبہ تصور کا درخت ۝ گنہگار کا کھانا ہے ۝ جیسے گھسلا ہوا تانبہ۔ پیڑوں میں (اس طرح) کھولے گا ۝ جس طرح گرم پانی کھولتا ہے ۝ (حکم دیا جائیگا کہ) اسکو کڑوا اور کھینچے ہوئے دوزخ کے بچوں پنج لے جاؤ ۝ پھر اسکے سر پر کھولتا ہوا پانی اٹیل دو (کہ عذاب پر) عذاب (ہو) ۝ (اب) مزہ کھو تو بڑی عورت والا (اؤ) سڑا رہے ۝ یہ وہی (دوزخ) ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ ۝

(۵۰-۴۳: ۴۴)

اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اُسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا ۝ وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پئے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا۔ اور ہر طرف سے اُسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا۔ اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا ۝

(۱۷-۱۶: ۱۴)

(وہ آگ ہے کہ) نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوٹے گی ۝ اور بہن کو مجلس کر سیاہ کرے گی ۝ اُس پر تیس واروہ ہیں ۝ اور ہم نے دوزخ کے واروہ فرشتے بنائے ہیں۔۔۔۔۔ ۝

(۳۱-۲۸: ۲۷)

## ۲۶- کافروں کا جہنم میں داخلہ

جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں ۝ اُن کا ٹھکانا ان (اعمال) کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے ۝

(۸-۷: ۱۰)

71. In companies the unbelievers shall be led to Hell. When they draw near, its gates will be opened and its keepers will say to them: 'Did there not come to you apostles of your own who proclaimed to you the revelations of your Lord and forewarned you of this day?' 'Yes', they will answer. And thus the punishment which the unbelievers have been promised shall be fulfilled. 72. It will be said to them: 'Enter the gates of Hell and stay therein forever'. Evil is the dwelling place of the arrogant.

(XXXIX : 71-72) Z

### 27. THEN HELL WILL BE ASKED IF IT WAS FULL

One Day We will ask Hell, "Art thou filled to the full?" It will say, "Are there any more (to come)?"

(L : 30) Y

وَسَيَقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ  
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهَا فَتَحَتْ أَبْوَابَهَا وَ  
قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ  
مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَ  
يُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ  
وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝  
قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا  
فَبئسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۝

(۷۲-۷۱: ۳۹)

### ۲۷۔ تم یسئل جہنم هل امتلئت

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَنَقُولُ  
هَلْ مِن مَّزِيدٍ ۝

(۳۰-۵۰)

اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیے یہاں تک کہ  
جب اس کے پاس پہنچ جائیے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے  
تو اس کے دروازے سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہاری قوم  
پہنچ نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ  
کرتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈرتے تھے۔ کہیں گے  
کہ ہاں نہیں بلکہ کافروں کے حق میں عذاب کا ٹھکانہ تھی اور تمہارا  
کہا جائے گا کہ روزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ ہمیشہ اس میں  
رہو گے۔ تمہارے کرنے والوں کا برا ٹھکانا ہے ۝

(۷۲-۷۱: ۳۹)

### ۲۷۔ پھر روزخ سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی

اُس دن ہم روزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ  
کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے؟

(۳۰: ۵۰)

## SELF-ANALYSIS

(A method)

FOR A MUSLIM MALE  
AND FEMALE

SPIRITUAL ANALYSIS

- You believe firmly and sincerely in the Qur'an and you also believe that Allah has created mankind and aims to worship Him.
- You read the Qur'an regularly and try your best to understand it.
- Fully believing in *Kalima Tauhid*, you accept Prophet Muhammad (PBUH) as the Last Prophet and try to follow him.
- You are regular in your Prayers and Fasting and you make sure that members of your household also observe them regularly.
- When you can afford to do so, you offer sacrifice, give Tithes, pay *Zakat* (Mandatory Alms) and plan to perform *Hajj* (pilgrimage).
- You worship Allah as though you are seeing Him in front of you and if that is not possible then at least you are aware that He is watching you.

## التحليل الذاتي

(طريقة)

للمسلم والمسلمة

(التحليل الروحي)

- هل أنت تؤمن بالقرآن إيماناً صادقاً كاملاً راسخاً وبأن الله خلق الجن والإنس لعبادته -
- هل أنت تدرس القرآن بالالتزام وتحاول فهمه محاولة كاملة -
- هل أنت تؤمن بكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء موقناً بالكلمة الطيبة -
- هل أنت تصلي وتصوم بالالتزام وتأمر أهلك بذلك -
- هل أنت تتمثل بالأوامر الخاصة بالتضحية والعشر والزكاة والحج عند الاستطاعة -
- هل أنت تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك -

## اپنا تجزیہ

(ایک طریقہ)

مسلمان مرد اور عورت کے لئے

روحانی تجزیہ

- آپ کا قرآن پر صدق دل سے مکمل اور پختہ ایمان ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا -
- آپ قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے کرتے ہیں اور اس کو پوری کوشش کے ساتھ سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں -
- آپ کلمہ طیبہ پر مکمل یقین رکھتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر آخر الزماں مانتے ہیں -
- آپ نماز و روزہ کا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں اور اپنے گھروالوں کو بھی ان کی پابندی کی تلقین کرتے ہیں -
- آپ صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں شہ بانی، عشر، زکوٰۃ اور حج کا اہتمام کرتے ہیں -
- آپ عبادت اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں گویا آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں -

- You try to 'remember' Allah's Holy Name while engaged in worldly preoccupations so that He always remains in your heart.
- You invoke Praises and Salutations on the Holy Prophet regularly and frequently by reciting "Salat-o-Salam" on him.
- You love the Holy Prophet more dearly than your own life.
- You are always offering thanks to Allah for His Munificence and asking for His Forgiveness.
- Instead of speculating about the nature of Almighty Allah, you ponder over His Attributes.
- You listen to the Qur'an with rapt attention while it is recited and you touch the Holy Book in a state of purity only.
- You are constantly aware that Allah is watching your thoughts and deeds.
- You try to remember Death as much as possible.
- You know that compared to eternal life, your life in this world is like a drop in the ocean.
- You are a firm believer in the fact that by vouchsafing different organs of the body, Allah has enabled you to choose between the paths of good and evil.

- هل أنت تذكّر الله في نفسك بحيث أنك مشغول في أمور الدنيا وفي قلبك هم الله.
- هل أنت تصلي على محمد عليه السلام كثيراً وبالالتزام.
- هل تعتبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك من صميم القلب.
- هل تشكر الله دائماً مستغفراً إياه.
- هل أنت تتفكر في صفات الله دون ذاته.
- هل تصغي إلى القرآن بصمت وانتباه عند تلاوته ولا تمسه إلا إذا كنت مطهراً.
- هل تحاول التذكار دائماً أن الله يعلم ويرى كل ما تفكر وتعمل.
- هل تحاول ذكر الموت ذكراً كثيراً - (أكثر فأكثر).
- هل تعرف أن مدة الحياة الدنيوية مثل الصفر بالمقارنة مع الحياة الآخروية الأبدية.
- هل أنت توقن بأن الله قد هدانا سبيل الخير والشربعد ما وهبنا الأعضاء المختلفة.

- آپ اللہ تعالیٰ کے نام کا دل ہی دل میں ذکر کرنے کی کوشش اس طرح کرتے ہیں کہ آپ دنیا کا کاروبار بھی کرتے رہیں اور دل میں اللہ کا خیال بھی رہتے۔
- آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسلام کثرت اور باقاعدگی سے بھیجتے رہتے ہیں۔
- آپ صدق دل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔
- آپ اللہ تعالیٰ کا باقاعدگی سے شکر ادا کرتے ہوئے ہمیشہ اس کی مغفرت کے طلبگار رہتے ہیں۔
- آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور کرنے کی بجائے اُس کی صفات پر غور و خوض کرتے ہیں۔
- قرآن کو سُننے کے موقع پر آپ اس کو خاموشی اور توجہ سے سُننے اور پاکیزگی کی حالت میں ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔
- آپ بروقت یرد حیاں میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر خیال اور کام کو جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔
- آپ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
- آپ سمجھتے ہیں کہ دنیوی زندگی کا عرصہ ابدی زندگی کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔
- آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف اعضاء دے کر خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیئے ہیں۔

- You are conscious that the day is coming when you will be held answerable to the Almighty for your deeds and what the various parts of your body, the tongue, the eyes, the ears, and the hands have been doing in the World
- During the course of a problem, you look upon the tranquillity caused in your heart as a 'noble' deed, and consider wavering and doubt as an "evil" deed
- You discard what is doubtful and adopt such a thing which is free from doubt
- You are aware that if there is a gain it is from Allah, but for loss it is due to your own misdeeds.
- You do not allow Devil (*Satan*) to place fear of poverty as a hurdle in the way of Charity.
- To escape the snare of Devil (*Satan*), you recite "I take refuge with Allah from the accursed *Satan*" regularly.
- You give Charity for Allah's pleasure and give the best in His way.
- You do not show off while spending.
- You are aware that Heaven lies under the mother's feet.
- Believing in and endeavoring for martyrdom to be highly meritorious, you yearn for fighting in the way of Allah (*jihad*).

• هل عندك شعور بأنك ستقوم يوماً ما  
أمام الله مستولاً عن أعضائك و  
أعضائك كاللسان والأذن والعين  
واليد وغيرها.

• هل أنت تعتبر الطمأنينة عند أية  
مشكلة فعلاً حسناً وتعتبر الشك  
والتذبذب فعلاً قبيحاً.

• هل أنت تترك ما يريبك إلى  
ما لا يريبك

• هل أنت تعتقد أن ما يصيبك  
من حسنة فمن الله وما يصيبك  
من سيئة فمن نفسك.

• هل أنت لا تذر الشيطان يصدك عن  
إعطاء الصدقات ويخوفك من الفقر.  
• هل أنت تقرأ أعوذ بالله  
من الشيطان الرجيم بالالتزام  
اجتناباً من محادثة الشيطان.

• هل أنت تعطي الصدقات لرضا الله  
وتنفق مما تحب.  
• هل أنت لا تنفق مالاً  
رئاء الناس.

• هل أنت تعتقد أن الجنة  
تحت أقدام الأمهات.

• هل في قلبك حماس الجهاد  
تقديراً للشهادة.

• آپ کو یہ احساس رہتا ہے کہ آخر ایک دن آپ  
کو دربارِ الہی میں پیش ہو کر اپنے اعمال اور  
اعضاء مثلاً زبان، کان، آنکھ اور ہاتھ وغیرہ  
کا حساب دینا ہوگا۔

• کسی الجھن کی صورت میں آپ دل میں طمأنیت پیدا  
ہونے پر نیکی اور نفس کے اُدھیر بن میں پڑنے کو  
بری تصور کرتے ہیں۔

• آپ شک والی چیز ہو تو اُس کو چھوڑ  
دیتے ہیں۔ اور صاف اور واضح چیز کو اختیار کرتے ہیں۔  
• آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فائدہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف  
سے ملتا ہے اور نقصان آپ کی اپنی شامتِ اعمال  
سے ہوتا ہے۔

• آپ شیطان کو عزت کا خوف کھڑا کر کے  
خیرات میں رکاوٹ بننے نہیں دیتے۔  
• آپ شیطان کے فریب سے بچنے کے لئے  
أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم کا باقاعدہ  
استعمال کرتے رہتے ہیں۔

• آپ خیرات اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے  
اور اللہ کی راہ میں دل پسند مال دیتے ہیں۔  
• آپ مال کو دکھاوے کے طور پر خرچ  
نہیں کرتے۔

• آپ سمجھتے ہیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے  
جنت ہے۔

• آپ شہادت کی عظمت کی نسبت سے اپنے  
دل میں جذبہٴ جہاد رکھتے ہیں۔

- You subordinate your emotions to your intellect.

### PERSONAL APPRAISAL

- You give due importance to "Intention" and guard its purity.
- You are convinced that successful life can be led without falsehood, therefore one should always speak the truth.
- You start everything "in the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful" Whom you trust always for whatever you do.
- You prefer the educated to the un-educated and try honestly to acquire knowledge.
- You keep your promises and try to remain punctual.
- You do not say things which you do not practise yourself.
- You believe that you will get reward in proportion to your effort.
- You do not accept anything without ascertaining the truth.
- You try to forgive people, especially while you are in anger.
- You do not speak ill of others except when you have been wronged.
- While planning to do something you always say: "If it pleases Allah."

• هل أنت تجعل العقل تابعاً للقلب  
ولا تجعل القلب تابعاً للعقل -

### التقييم الذاتي

- هل أنت تهتم بالنية و  
إصلاحها -
- هل توقن بأنه لا يمكن قضاء الحياة  
الناجحة إلا بدون الكذب -
- هل تقوم بكل عمل متوكلاً على قول  
"إن شاء الله" وتبدأ كل اسم الله  
الرحمن الرحيم -
- هل تبذل جهداً صادقاً في تحصيل العلم  
وتعتبر الذين يعلمون خيراً من الذين  
لا يعلمون -
- هل توفى بالعقد/الوعد وتلتزم  
بالمواعيد -
- هل تجتنب أن تقول ما لا تفعل
- هل تعتقد أنه سوف لا يكون لك  
إلا ما تسعى -
- هل تجتنب قطع أمر بدون تبين -
- هل تأخذ العفو عن تقصيرات الآخرين  
في حالة الغيظ -
- هل لا تجهر بالسوء إلا إذا ظلمت  
من الآخرين -
- هل تقول "إن شاء الله" عند إرادتك  
القيام بأي عمل -

• آپ اپنی عقل کو دل کے تابع رکھتے ہیں  
نکہ دل کو عقل کے تابع -

### شخصی تجزیہ

- آپ نیت کو پوری اہمیت دیتے اور اس  
کی نگہبانی کرتے ہیں -
- آپ یقین رکھتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر بھی  
کامیاب زندگی بسر کی جاسکتی ہے -
- آپ ہر کام نشاء اللہ کے بھروسہ پر کرتے ہیں  
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی  
شروع کرتے ہیں -
- آپ علم حاصل کرنے کی سچی کوشش  
کرتے ہیں اور علم والے کو بے علم والے سے  
بہتر سمجھتے ہیں -
- آپ عہدہ وعدہ کو ایفاء اور وقت کی  
پابندی کرتے ہیں -
- آپ ایسی بات نہیں کہتے جو خود نہیں کرتے -
- آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہی ملے گا جس کی  
آپ کوشش کرتے ہیں -
- آپ بر بات کا یقین بغیر تحقیق کے نہیں کرتے -
- آپ غصہ کی حالت میں بھی دوسروں کے  
قصور معاف کر دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں -
- آپ دوسروں کو برا صرف اسی حالت میں ہی  
کہتے ہیں جبکہ اُس سے آپ پر ظلم ہوا ہو -
- آپ کسی کام کا ارادہ کرنے کی نسبت انشاء اللہ  
ضرور کہہ لیتے ہیں -

- You avoid suspecting people's motives, prying in their affairs and backbiting.
- You say nothing of which you have no knowledge.
- You are not haughty in your behaviour and are moderate in your dealings with others.
- You are straightforward in speech.
- You are temperate in wealth and contented in poverty.
- You realize that amassing gold and silver will entail painful chastisement.
- You are gentle in the use of power.
- You are patient in misery.
- You are neither niggardly nor extravagant.
- You eat when you are hungry, and, while there is still some appetite, you stop eating.
- You are very particular about the cleanliness of your dress and person.
- On doing good you feel pleasure; but on doing evil you are repentant.
- While eating out of lawful foods or wearing permitted garments you are neither extravagant nor vain.

- هل تجتنب سوء الظن والقبس والغيبة۔
- هل لا تقول ما ليس لك به علم۔
- هل تجتنب الفخر والاختيال في سلوك وتسلط مسلك الاعتدال في الحديث۔
- وهل تقول قولاً سديداً۔
- هل تملك بمبدأ الاعتدال في حالة الغنى واليسر وبمبدأ القناعة في حالة الفقر والعسر۔
- هل تشعر بأن جمع الذهب والفضة يجتر عذاباً أليماً۔
- هل أنت حسن الخلق وحليم عند استعمال القوة۔
- هل أنت صابر عند المصائب۔
- هل أنت غير بخيل وغير مبذر۔
- هل أنت لا تأكل إلا إذا جعت، ومترك الأكل عند قليل من الشهية۔
- هل تهتم بالطهارة والنظافة في أمر البدن واللباس۔
- هل تحس بالندم على ارتكاب الشر وتحس بالمسرة على فعل الخير۔
- هل تجتنب الإسراف أو التكبر عند الأكل والملبس حسب الرغبة من الطيبات۔

- آپ بدگمانی، جستس اور فہبت سے پرہیز کرتے ہیں۔
- آپ ایسی بات نہیں کہتے جس کا آپ کو علم نہ ہو۔
- آپ اپنے رویے میں عذور سے اجتناب کرتے اور بول چال میں اعتدال سے کام لیتے ہیں۔
- آپ سیدھی بات کہہ دیتے ہیں۔
- آپ دولت مندی کی حالت میں اعتدال برتتے ہیں اور عزیبی میں قانع رہتے ہیں۔
- آپ کو احساس ہے کہ سونا چاندی جمع کرنا عذاب الیم کا باعث ہوگا۔
- آپ طاقت کے استعمال میں نرم خور اور حلیم ہیں۔
- آپ مصیبت کے وقت صابر رہتے ہیں۔
- آپ نہ تو کنبوس ہیں اور نہ ہی فضول خرچ۔
- آپ کھانا اُس وقت کھاتے ہیں جب بھوک لگے اور ابھی بھوک کچھ باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔
- آپ جسم اور لباس کے معاملہ میں صفائی اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔
- آپ کو بُرائی پر ندامت اور اچائی پر مسرت محسوس ہوتی ہے۔
- آپ حلال چیزوں میں سے حسب منشاء کھاتے اور پہنتے وقت اسراف یا تکبر سے کام نہیں لیتے۔

- You are grateful to Allah when prosperous, and turn to Him for help when in need or trouble.

• هل تشكر الله على حصول الرزق  
او الرخاء ولا تطلب الفضل إلا منه  
في حالة العسر۔

• آپ رزق یا راحت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر  
بجالاتے ہیں اور تکلیف یا تنگی میں اسی سے  
فضل مانگتے ہیں۔

### SOCIAL APPRAISAL

- You do not make Un-believers your friends.
- You ask for permission and salute the inmates before entering other people's houses.
- You do not indulge in adultery, drinking and gambling.
- You eschew lewdness, indecency and slander.
- You eat only lawful food.
- You answer harsh words with politeness.
- You treat people with kindness.
- You are not jealous of other peoples' superiority or prosperity.
- You earn your livelihood by lawful means and advise others to do likewise.
- You settle business matters by writing them down and get it witnessed by two men or one man and two women.
- Considering usury as unlawful, you do not get involved into it.
- In pursuit of earning a living, you eschew inordinate love of wealth.

### التحليل الاجتماعي

- هل أنت لا تتولى الكفار۔
- هل أنت لا تدخل بيوت الآخرين  
بغير إذنهم وسلامك عليهم۔
- هل أنت لا ترتكب الزنا وشرب الخمر  
واليسر۔
- هل أنت تجتنب الفاحشة  
والبهتان۔
- هل أنت لا تأكل من الرزق إلا الحلال۔
- هل تدفع السيئة بالحسنة۔
- هل تتعامل مع الناس بالمحبة۔
- هل أنت لا تحسد الآخرين على  
فضيلتهم ورغد عيشهم۔
- هل تكتسب الرزق الحلال و  
تنصح الآخرين بالكسابة۔
- هل تبرم الأمور التجارية بعد كتابتها  
مُشهداً عليها رجلين أو رجلاً  
وامرأتين۔
- هل تعتبر أكل الربا حراماً  
وتجتنبه۔
- هل أنت لا تتورط في حب المال  
رغبة في الكسابة۔

### سماجی تجزیہ

- آپ کافروں سے دوستی نہیں کرتے۔
- آپ دوسرے لوگوں کے گھروں میں اجازت  
لئے اور سلام کئے بغیر داخل نہیں ہوتے۔
- آپ زنا، شراب خوری اور جڑا بازی میں  
ملوث نہیں ہوتے۔
- آپ بدکاری، فحاشی اور بہتان تراشی سے  
اجتناب کرتے ہیں۔
- آپ صرف وہی خوراک کھاتے ہیں جو حلال ہو۔
- آپ سخت کلامی کا جواب اچھے طریقے سے دیتے ہیں۔
- آپ لوگوں سے محبت سے پیش آتے ہیں۔
- آپ دوسروں کی فضیلت یا کشادگی حالت پر  
حسد نہیں کرتے۔
- آپ خود رزق حلال کھاتے ہیں اور دوسروں  
کو بھی رزق حلال ہی کمانے کی تلقین کرتے ہیں۔
- آپ کاروباری معاملات کو باقاعدہ لکھ کر طے کر  
لیتے ہیں اور ان پر دو مردوں یا ایک مرد اور  
دو عورتوں کی گواہی لے لیتے ہیں۔
- آپ سود خوری کو حرام سمجھتے ہوئے اس  
سے اجتناب کرتے ہیں۔
- آپ دولت کمانے کی خواہش میں دولت  
سے محبت کرنا شروع نہیں کر دیتے۔



- As a seller, you do not dispose of defective goods without informing the buyer of their shortcoming.
- You do not put a worker on a job without fixing his remuneration. And you pay wages to him before his perspiration dries up unless mutually agreed to otherwise.
- You never betray any trust.
- You decide every matter justly even if it may adversely affect you.
- You bear true witness and do not advocate the cause of cheats and criminals.
- You take due care in matters of measurements and weight, etc.
- You are honest and straightforward in your dealings.
- Wherever possible, you enjoin good and forbid evil.
- You choose for others whatever you like for yourself.
- Neither do you deceive nor do you let others deceive you.
- You counter excesses of others in the appropriate manner.
- You do not exceed limits while avenging oppression.
- You pass by frivolities with dignity.
- Before making or accepting a recommendation, you make sure that it will not hurt the rights of anybody.

• هل أنت لا تبیع اشیاء ذات عیب -

• هل أنت لا تسأجر عاملاً (أجیراً) بدون قطع حقه و هل تعطیه حقه قبل أن یجف عرقه مادام لایتم تقریر طریقه آخری بینکما -

• هل أنت لا تخون فی أمانة ما -

• هل تفصل فی کل أمر بالقسط والعدل ولو کان علی نفسك -

• هل أنت تشهد بشهادة الصدق ولا تكون للخائنین خصیماً -

• هل تراعی الاحتیاط الکامل فی أمر الکیل والمیزان -

• هل أنت صادق وأمین -

• هل تأمر بالمعروف و تنهى عن المنکر ما استطعت -

• هل تحب لنفسك ما تحب لغيرك -

• هل أنت لا تخادع أحداً ولا تخدع منه -

• هل تعابل الاعتداء بما یناسبه -

• هل أنت لا تعدي فی الرد علی الاعتداء -

• هل تسرب للغو کرهیمًا -

• هل تتأكد عند الشفاعة أو الموافقة من أنه لا یظلم أحد -

• آپ نقص والی اشیاء کو اس کا نقص بتائے بغیر فروخت نہیں کرتے -

• آپ مزدور کو مزدوری طے کئے بغیر کام پر نہیں لگاتے اور اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دیتے ہیں جب تک کہ کوئی دوسرا طریقہ آپس میں طے نہ کیا ہوا ہو -

• آپ کسی قسم کی امانت میں خیانت نہیں کرتے -

• آپ ہر بات کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرتے ہیں چاہے اس کی زد خود آپ پر ہی کیوں نہ پڑے -

• آپ سچی گواہی دیتے ہیں اور دغا بازوں اور مرتکب جرائم کی وکالت نہیں کرتے -

• آپ ناپ تول کے معاملے میں پوری پوری احتیاط کرتے ہیں -

• آپ راست باز اور معاملے کے کھرے ہیں -

• آپ جہاں بھی ممکن ہو بھلائی کا حکم دیتے اور بُرائی سے روکتے ہیں -

• آپ دوسروں کے لئے وہی پسند کرتے ہیں جو کہ آپ کو اپنے لئے پسند ہو -

• آپ نہ تو کسی کو دھوکا دیتے ہیں اور نہ ہی دوسروں سے دھوکا کھاتے ہیں -

• آپ زیادتی کا مقابلہ مناسب طریقے ہی سے کرتے ہیں -

• آپ ظلم کا بدلہ لیتے وقت زیادتی نہیں کرتے -

• آپ لغو باتوں کو قمار کے ساتھ نظر انداز کر دیتے ہیں -

• آپ سفارش کرتے یا مانتے وقت اطمینان کر لیتے ہیں کہ کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی -

- You avoid passing on anything based on hearsay and rumour without properly investigating it.
- You are not jealous of others' superiority.
- You treat your parents with respect and your children with affection and you give all of them share in your wealth accordingly.
- You believe that all men are equal and you treat them as such.
- You live peaceably with your neighbours and are not niggardly in lending articles of ordinary use to others.
- You treat your relatives well; and try to arrange board and lodging for the orphan, the prisoner, the wayfarer, the poor, the needy and the indigent, as far as possible.

#### FOR A MUSLIM MALE

- As an eligible marriageable male, after your glance has fallen on a strange girl or woman, you do not give her a second look, believing that it would be deliberate and not counted as innocent.
- As an eligible marriageable male you always try to avoid looking at a female's attractions.
- As an eligible male, you avoid meeting a member of the opposite sex in privacy, believing that *Satan* is present between the two of you at such moments.

- هل أنت تحترس عن اذاعة الشائعات -
- هل أنت لاتحسد الآخرين على فضلهم -
- هل تعامل والديك باحسان و اولادك بشفقة وتعطي كل منهما نصيباً مفروضاً -
- هل أنت تعتبر الناس متساوين وتعاملهم على هذا الاحساس -
- هل تتعايش مع الجار تعايشاً سلمياً هل أنت لاتمنع الماعون من الناس -
- هل تحسن إلى الأقارب وتهتم بإطعام اليتيم والأسير والمسافر والمسكين والفقير والمحتاج و إسكانهم حسب المقدور -

#### للمسلم

- هل أنت تنظر كرجل غير محرم إلى امرأة أو فتاة أجنبية عمداً مرة أخرى بعد ما تقع عليها نظرتك الأولى سهواً حيث أنك لا تعتبر برئياً في ذلك لكونك ذا اختيار فيه -
- هل تجتنب دائماً كرجل غير محرم النظر إلى زينة النساء -
- هل تجتنب الخلوة كرجل غير محرم مع امرأة أو فتاة خشية وجود الشيطان بينكما -

- آپ ہر سنی سنانی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں -
- آپ دوسروں کی فضیلت پر حسد نہیں کرتے -
- آپ اپنے والدین سے نیک سلوک اور اولاد سے شفقت سے پیش آتے اور ان سب کو اپنے مال میں سے جائز حصہ دیتے ہیں -
- آپ تمام انسانوں کو برابر سمجھتے ہیں اور ان سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں -
- آپ پڑوسی کے ساتھ امن و امان سے رہتے ہیں اور لوگوں کو عام استعمال کی چیزیں دینے میں بخل سے کام نہیں لیتے -
- آپ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں اور یتیم، قیدی، مسافر، مسکین، غریب و نادار اور ضرورتمند کے قیام و طعام کا حتی المقدور بندوبست کرتے ہیں -

#### مسلمان مرد کے لئے

- نامحرم مرد کی حیثیت سے اجنبی عورت یا لڑکی پر بے ساختہ نظر پڑ جانے کے بعد آپ دوبارہ اداؤہ اس کی طرف نظر اس لئے نہیں کرتے کہ یہ آپ کے اختیار میں ہونے کی وجہ سے معصومیت قرار نہیں دی جائے گی -
- نامحرم مرد کی حیثیت سے آپ عورتوں کی زیبائش کا نظارہ کرنے سے ہمیشہ بچنے کی ہی کوشش کرتے ہیں -
- آپ نامحرم مرد کی حیثیت سے کسی عورت یا لڑکی سے تنہائی میں ملنے سے اس لئے بچتے ہیں کہ ایسے لمحات میں دونوں کے درمیان شیطان موجود ہوتا ہے -

- You admit as much right of your wife on you as you claim on her.
- You believe that Allah has made man supporter of woman, to guard and protect her, supply all her needs and run the household properly.
- You are always affectionate and patient with your wife.
- You ignore and overlook your wife's mistakes and shortcomings.
- You regard your wife's likes and dislikes like your own.
- You make due arrangement for the payment of your wife's dowry in accordance with the marriage contract.
- You arrange for the upbringing and education of your children in the best possible manner and make sure that their Islamic teachings are not neglected.
- You enjoin on your children to earn their living by lawful means only.
- You conduct yourself in a manner that your wife considers you to be the best man or at least a good man.
- In case of disagreement with your wife, you seek guidance from the Exalted Qur'an.

- آپ سمجھتے ہیں کہ بیوی کا آپ پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ آپ کا اُس پر ہے۔
- آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا کفیل مقرر کیا ہے تاکہ مرد خاندانی نظام میں معاملات کو درست چلائے اس کی حفاظت و نگہبانی کرے اور مجملہ ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار بنے۔
- آپ بیوی سے ہمیشہ محبت اور صبر و تحمل سے پیش آتے ہیں۔
- آپ بیوی کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو درگزر یا معاف کر دیتے ہیں۔
- آپ بیوی کی پسند اور خواہشات کا اتنا ہی خیال رکھتے ہیں جتنا کہ آپ اپنی پسند اور خواہشات کا خیال رکھتے ہیں۔
- آپ نکاح کی شرائط کے مطابق حق مہر کی ادائیگی کا اہتمام کر لیتے ہیں۔
- آپ اپنی اولاد کی پرورش اور تعلیم احسن طریقے پر کرتے ہیں اور بچپن ہی سے اُن کے لئے اسلامی تعلیمات کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں۔
- آپ اپنی اولاد کو رزقِ حلال ہی کمانے کی تلقین کرتے ہیں۔
- آپ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کو بہترین یا کم از کم ایک بہتر انسان تصور کرتی ہے۔
- آپ بیوی سے نا اتفاقی کی صورت میں قرآنِ کریم سے ہی ہدایت حاصل کرتے ہیں۔
- هل تعرف أن لزوجتك عليك حقاً و لك على زوجتك حق۔
- هل تعرف أن الله قد جعل الرجل كفيلاً للمرأة كي يدير الرجل أمور النظام العائلي وإدارة مصيحة ويقوم برعاية المرأة ووقايتها ومسئولية توفير جميع حاجاتها۔
- هل تعامل زوجتك بالمحبة والصبر والأناة۔
- هل تعفون عن أخطاء زوجتك وتقصيراتها۔
- هل تهتم برغبات زوجتك ومرضاتها كما تهتم برغباتك ومرضاتك۔
- هل ترتب أداء حق المهر وفق شروط النكاح۔
- هل تقوم برعاية أولادك وتربيتهم بطريق أحسن وتوفر لهم التعليم الإسلامي منذ الصغر۔
- هل تنصح أولادك باكتساب الرزق الحلال۔
- هل تحاول دائماً أن تتصورك زوجتك أفضل إنسان أو على الأقل إنساناً أفضل۔
- هل تهتدي بالقرآن عند الشقاق بينك وبين زوجتك۔

- You may not marry more than one woman unless you are sure that you can deal equitably in every respect with all wives.

### FOR A MUSLIM FEMALE

- After your first glance has fallen on an eligible marriageable man or youth by chance, you do not give him a second look, believing that it would be deliberate and not counted as innocent.
- As an eligible female you avoid meeting a member of the opposite sex in privacy, believing that *Satan* is present between the two of you at such moments.
- In your home you cover yourself in such a manner so as not to display your embellishment to anyone except those relations who have been so defined by Allah in Surah 'Al-Noor' Verse 31.
- You guard your modesty as a special gift from Allah.
- You believe that Allah has made man incharge of woman, to support and protect her, supply all her needs and run the household properly.
- You admit as much right of your husband on you as you claim on him.

• هل أنت لا تتلخ أكثر من امرأة إلا  
إذا كنت متأكدا أنك تعامل كلهن  
معاملة المساواة -

### للمسلمة

- هل أنت لا تنظرين إلى رجل  
أو شباب غير محرم عمداً بعد أن تقع  
عليه نظرتك الأولى سهواً حيث أنك  
لا تعتبرين بريئة في ذلك لكون  
الثانية باختيارك -
- هل تجتنبين المخلاص إلى رجل  
غير محرم خشية وجود الشيطان  
بينكما -
- هل تدنين جلبابك عليك  
في البيت ولا تبدين زينتك  
لأحد إلا من تم تحديده من  
الأقارب (المحارم) من الله  
في سورة النور (الآية رقم ۳۱) -
- هل تحافظين على شيمه الحياء معتبرة  
إياها نعمة خاصة من الله عليك -
- هل أنت توثقين بحكم الله انه قد جعل الرجل  
كفيلاً للمرأة كي يقوم الرجل برعاية المرأة  
وقايتها ومسئولية توفير جميع حاجاتها  
وإدارة الأمور العائلية بطريقة صحيحة -
- هل تعترفين أن لك على زوجك ما  
لزوجك عليك من حق -

• آپ ایک عورت سے زیادہ صرف اسی صورت  
میں نکاح کرتے ہیں جبکہ آپ کو یقین ہو کہ آپ  
سب کے ساتھ یکساں سلوک کر سکیں گے۔

### مسلمان عورت کے لئے

- نامحرم اجنبی مرد یا نوجوان پر بے ساختہ نظر پڑ  
جانے کے بعد آپ دوبارہ ارادۃ اس کی طرف  
نظر اس لئے نہیں کرتیں کہ یہ آپ کے اختیار  
میں ہونے کی وجہ سے معصومیت قرار نہیں دی  
جائے گی۔
- آپ کسی نامحرم مرد سے تنہائی میں ملنے سے اس  
لئے بچتی ہیں کہ ایسے لمحات میں دونوں کے درمیان  
شیطان موجود ہوتا ہے۔
- گھر میں آپ اپنے سینوں پر اور عینی وڑھے رکھتی  
ہیں اور کسی قسم کی زیبائش کا انہارڈ آن کریم کی  
سورۃ النور آیت شماره ۳۱ میں اللہ تعالیٰ کی طرف  
سے مقرر کردہ رشتہ داروں (محارم) کے سوا کسی اور  
کے سامنے نہیں کرتیں۔
- آپ شرم و حیا کی اللہ تعالیٰ کا آپ پر خصوصی انعام  
سمجھ کر حفاظت کرتی ہیں۔
- آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر یقین رکھتی ہیں کہ اُس نے  
مرد کو عورت کا کفیل بنایا ہے تاکہ مرد عورت کی حفاظت  
نگہبانی کرے اور اس کی جملہ ضروریات مہیا کرنے کا  
ذمہ دار بنے اور خاندانی معاملات کو درست چلائے۔
- آپ سمجھتی ہیں کہ خاوند کا آپ پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ  
آپ کا اپنے خاوند پر ہے۔

- You are always affectionate and obedient to your husband.
- You ignore and overlook your husband's mistakes and shortcomings.
- You regard your husband's likes and desires like your own.
- You nurse your babies by breast feeding for two years unless physically impossible and bring them up in such a manner that your children grow up to be good and capable Muslims.
- You treat your step-children, if any, like your own children.
- Seeing you is always a source of pleasure for your husband.
- When going outdoors you always use an outer covering around you to cover your beauty and adornments.
- You limit your household expenditure to your husband's lawful income.

### CONCLUSION

- If you want to know how much Allah is pleased with you, one of the methods to find out the answer would be, as to how happy you are with Him.

- هل تعاملين زوجك معاملة المحبة والإطاعة۔
- هل تصفحين عن أخطاء زوجك وتقصيراته صفاً جميلاً۔
- هل تهتمين برغبة زوجك وهوايته إهتمامك برغبتك وهوايتك۔
- هل تقومين بعناية أولادك مرضعةً إياهم أثناء السنتين الأوليين (ان لم يكن هناك عذد بدني) كي ينشؤوا ذكياً وصالماً۔
- هل تعتبرين أولادك كأولادك إياك۔
- هل يشعر زوجك بالفرح كلما يراك۔
- هل تستعملين الملباب تغطية لزينتك عند الخروج من البيت استعمالاً دائماً۔
- هل تحاولين ضبط المصاريف المنزلية طبق الدخل الشرعي للزوج۔

### الخلاصة

- إن إردت أن تعرف مدى كون الله راضياً عنك فإن إحدى الطرق لمعرفة ذلك ستكون معرفة مدى كونك راضياً عنه۔

- آپ خاوند سے ہمیشہ محبت اور فرمانبرداری سے پیش آتی ہیں۔
- آپ اپنے خاوند کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو بہترین طریقے سے درگزر کرتی ہیں۔
- آپ خاوند کی پسند اور خواہشات کا اتنا ہی خیال رکھتی ہیں جتنا کہ آپ اپنی پسند اور خواہشات کا۔
- آپ اپنے بچوں کی پرورش کے ابتدائی دو سال (جب تک کہ کوئی جسمانی مجبوری نہ ہو) پناؤ دودھ پلا کر اس طرح کرتی ہیں کہ وہ نیک اور بہنہار بنیں۔
- آپ کی اگر کوئی سوتیلی اولاد ہو تو آپ ان کو اپنی اولاد کی طرح ہی سمجھتی ہیں۔
- جب بھی آپ کا خاوند آپ کو دیکھے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔
- آپ گھروں سے باہر نکلنے وقت اپنی زینت و آرائش کو ڈھانپنے کے لئے چادر کا باقاعدہ استعمال کرتی ہیں۔
- آپ اپنے خاوند کی جائز آمدنی کے مطابق ہی گھر کے اخراجات کو پابند کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔

### الخلاصة

- اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے کتنا راضی ہے تو اس کا جواب پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوگا کہ آپ خود کس قدر اللہ تعالیٰ سے خوش ہیں۔

## INDEX

## A

- Adultery – punishments for, 253  
 Allah's Attributes of Creation and  
 Reproduction, 303  
 Allah – Oneness of, 90  
 Allah – remembrance of, 119  
 Allah – Worship of, 104  
 Alms – mandatory, 113  
 Alms – voluntary, 195  
 Amends and recompense, 261  
 Allah likes – people whom, 139  
 Allah dislikes – people whom, 141

## B

- Behaviour – good, 232  
 Behaviour – personal, 232  
 Believers – who are the, 144  
 Bequest, 202

## C

- Cardinal crimes – punishments for, 257  
 Creation of Humankind and *Jinns*, 296  
 Creation and Reproduction – Allah's  
 Attributes, 303  
 Creation of the Universe, 295

## D

- Dealings with non-muslims, 220  
 Dealings with orphans, 243  
 Dealings with others, 245  
 Dealings with parents, 239  
 Dealings with relatives, 242  
 Dealings with wife, 241  
 Defence, 268  
 Dissensions between husband and wife, 170  
 Divorce (*Talaq*), 174  
 Dooms-day, 312  
 Dower money (*Mehr*), 172

## E

- Economic Provisions, 184  
 Economy, 184  
 Evidence and equity, 249  
 Evils – moral, 234  
 Evils – socials, 215

## F

- Facts of Life, 151  
 Fall of Nations – Rise and, 286  
 Fasting, 111  
 Fornication – punishments for, 253

## G

- Good behaviour, 232

## H

- Hajj* (Major and Minor) 115  
 Holy War and migration, 262  
 Homicide – retribution for, 257  
 Humankind – creation of, 296  
 Husband and wife – dissensions between, 170

## I

- Iddat* – prescribed period for women, 178  
 Inheritance, 203  
 Injunctions on veiling, 181  
 Introduction to the Qur'an, 76  
 Islam – Religion of, 133

## J

- Jinns* – creation of, 296  
 Justice – and Law, 249

## L

Law and Justice, 249  
 Laws - Matrimonial, 163  
 Lawful and unlawful, 227  
 Life - facts of, 151  
 Life - social, 207

## M

Mandatory Alms, 113  
 Marriage, 165  
 Matrimonial Laws, 163  
 Migration - holy war and, 262  
 Miscellaneous, 179  
 Monotheism, 190  
 Moral evils, 234  
 Mores - social, 207  
 Muhammad (P.B.U.H) - Prophethood, 95  
 Muslim - male and female, 163

## N

Nations - Rise and fall, 286  
 Natural Sciences, 295  
 Nature's Signs - meant for reflection, 300  
 Non-muslims - dealings with, 220

## O

Obligations - Public, 237

## P

People whom Allah dislikes, 141  
 People whom Allah likes, 139  
 Personal behaviour, 232  
 Pilgrimage (Major and Minor), 115  
 Politics, 280  
 Prayer, 104  
 Prescribed period for women (*Iddat*), 178  
 Prophethood - Muhammad (P.B.U.H.), 95  
 Public Obligations, 237  
 Punishments for fornication, adultery and slander, 253  
 Punishments for other cardinal crimes, 257

## Q

Qur'an - Introduction to the, 76

## R

Recompense - and amends, 261  
 Relations - social, 211  
 Religion of Islam, 133  
 Retribution for homicide and other cardinal crimes, 257  
 Remembrance of Allah, 119  
 Repentance, 123  
 Rise and Fall of Nations, 286

## S

*Sadqaat* - voluntary alms, 195  
 Sciences - Natural, 295  
 Self-Analysis - Muslim male and female, 326,  
 Muslim male, 333 and Muslim female, 335  
 Signs of Nature meant for reflection, 300  
 Slander - punishments for, 253  
 Social evils, 215  
 Social life, 207  
 Social mores, 207  
 Social relations, 211  
 Supplications, 127

## U

Universe - creation of, 295  
 Unlawful - lawful and, 227

## V

Veiling - injunctions on, 181  
 Voluntary alms, 195

## W

War - Holy, 262  
 Who are the Believers, 144  
 Wife and husband - dissensions between, 170  
 Worship of Allah, 104

## Z

*Zakat* and *Ushr*, 113  
*Zikr* - remembrance 119

# فهرس

ل

المحدود والشرعية - القصاص ، ۲۵۷  
 حسن الخلق ، ۲۳۲  
 حقائق الحياة ، ۱۵۱  
 حقوق العباد ، ۲۳۷  
 الحلال والمحرام ، ۲۲۷  
 الحياة الاجتماعية ، ۲۰۷  
 الحيوانات . خلق ، ۲۹۶

خ

خلق الانس والجن والحيوانات ، ۲۹۶  
 خلق الكائنات ، ۲۹۵  
 الخلق - حسن ، ۲۳۲

د

الدعاء ، ۱۲۷  
 الدفاع ، ۲۶۲  
 الديات والكفارات ، ۲۶۱  
 دين الإسلام ، ۱۳۳

ذ

ذكر الله سبحانه وتعالى ، ۱۱۹

ر

رسالة - مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، ۹۵

ز

الزكاة والعشر ، ۱۱۳  
 الزنا والقذف ، ۲۵۲

الاجتماعية - الحياة ، ۲۰۷  
 الاجتماعية - السيئات ، ۲۱۵  
 الاجتماعية - العلاقات ، ۲۱۱  
 أحكام العجائب ، ۱۸۱  
 أحكام الوصية والوراثة ، ۲۰۲  
 الاختلاف بين المرأة وزوجها ، ۱۷۰  
 الاخلاق السيئة ، ۲۳۴  
 آداب المجلس ، ۲۰۷  
 الإسلام - دين ، ۱۳۳  
 الإسلام ، ۱۳۳  
 الإقتصاديات ، ۱۸۴  
 الاقوام وهبوتها - عروج ، ۲۸۶  
 آيات الكون تستدعي التأمل ، ۳۰۰

ت

التعليل الذاتي (طريقة) ، ۳۲۶  
 تعريف القرآن ، ۷۶  
 التوبة ، ۱۴۳  
 التوحيد ، ۹۰

ج

الجن - خلقهم ، ۲۹۶  
 الجهاد والهجرة ، ۲۶۲

ح

العجائب احكام ، ۱۸۱  
 الهجرة - الجهاد ، ۲۶۲  
 الحج والعمرة ، ۱۱۵



## ك

الكائنات - خلق ، ٢٩٥  
الكفارات - الدييات ، ٢٦١

## ق

القانون والعدالة ، ٢٤٩  
القرآن - تعريف ، ٧٦  
القذف - الزنا ، ٢٥٣  
القصاص والمحدود والشرعية ، ٢٥٧  
القوانين الزوجية وأحكام المحجاب ، ١٦٣  
القيامة ، ٣١٢

## م

المتفرقات ، ١٧٩  
مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - الرسالة ، ٩٥  
المجلس - آداب ، ٢٠٧  
لمسلم ، ٢٢٢  
لمسلمة ، ٢٢٥  
السلام والمسلمة ، ١٠٣  
للمسلم وللمسلمة ، ٢٢٦  
المعاشرة ، ٢٢٢  
المعيشة ، ١٨٤  
من المؤمنون ، ١٤٤  
من يحبهم الله ، ١٣٩  
من لا يحبهم الله ، ١٤١  
المهر ، ١٧٢  
المرأة ونزوحها الاختلاف بين ، ١٧٠

## ن

النكاح ، ١٦٥

## و

الوصية الوراثة - أحكام ، ٢٠٢

الزواجية - القوانين ، ١٦٣

## س

السيئات الاجتماعية ، ٢١٥  
السياسة ، ٢٨٠  
السيئة - الاخلاق ، ٢٣٤

## ش

الشهادة والعدل ، ٢٤٩

## ص

الصدقات ، ١٩٥  
صفات الله التكوينية والإبداعية ، ٣٠٣  
الصلوة ، ١٠٤  
الصوم ، ١١١

## ط

الطلاق ، ١٧٤

## ع

عبادة الله ، ١٠٤  
العدالة - والقانون ، ٢٤٩  
عدة المرأة ، ١٧٨  
العدل - الشهادة ، ٢٤٩  
عروج الأقوام وهبوطها ، ٢٨٦  
العشر - والزكوة ، ١١٣  
العلاقات الاجتماعية ، ٢١١  
العلاقات بغير المسلمين ، ٢٢٠  
العلوم الكونية ، ٢٩٥  
العمرة - الحج ، ١١٥

## غ

غير المسلمين - العلاقات ، ٢٢٠

## ف

فهرس ، ٢٢٩

# فہرست

تعلقات — غیر مسلم کے ساتھ ، ۲۲۰

ج

جہاد و ہجرت ، ۲۶۲

ح

حج و عمرہ ، ۱۱۵

حدود — قصاص شرعیہ ، ۲۵۷

حسن اخلاق ، ۲۳۲

حقائق زندگی ، ۱۵۱

حلال و حرام ، ۲۲۷

حق مہر ، ۱۷۲

حقوق العباد ، ۲۳۷

د

دُعا ، ۱۲۷

دفاع ، ۲۶۸

دیات و کفارات ، ۲۶۱

دین اسلام ، ۱۳۳

ذ

ذکر — اللہ تعالیٰ کا ، ۱۱۹

ر

رسالت — محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ، ۹۵

روزہ ، ۱۱۱

ز

زکوٰۃ و عشر ، ۱۱۳

زنا اور قذف ، ۲۵۳

زندگی — حقائق ، ۱۵۱

ا

اپنا تجزیہ مسلمان مرد و عورت کے لئے ، ۳۲۶ مسلمان مرد  
کے لئے ، ۳۳۳ مسلمان عورت کے لئے ، ۳۳۵

احکام پردہ ، ۱۸۱

احکام وصیت و وراثت ، ۲۰۲

اخلاقی برائیاں ، ۲۳۳

اخلاق — حسن ، ۲۳۲

آداب مجلس ، ۲۰۷

اسلام — دین ، ۱۳۳

انسانوں اور جنوں کی پیدائش ، ۲۹۶

اللہ تعالیٰ کا ذکر ، ۱۱۹

اللہ تعالیٰ بن کو پسند فرماتا ہے ، ۱۳۹

اللہ تعالیٰ بن کو ناپسند فرماتا ہے ، ۱۴۱

اللہ تعالیٰ کی صفت خلق و پیدائش ، ۳۰۳

ب

برائیاں — سماجی

برائیاں — اخلاقی

پ

پردہ کے احکام ، ۱۸۱

پیدائش — انسانوں اور جنوں کی ، ۲۹۶

ت

تجزیہ — اپنا ، ۳۲۶

تخلیق کائنات ، ۲۹۵

تعارف قرآن ، ۷۶

توبہ ، ۱۲۳

توحید ، ۱۹۰

تعلقات — سماجی ، ۲۱۱

کائناتی علوم ، ۲۹۵

ف

فہرست ، ۳۴۱

ق

قانون و عدالت ، ۲۴۹

قدرت کی نشانیاں - غور و فکر کے لئے ، ۳۰۰

قدآن - تعارف ، ۷۶

قصاص و حدود شرعیہ ، ۲۵۷

قوموں کا عروج و زوال ، ۲۸۶

قیامت ، ۳۱۲

م

متفرق ، ۱۷۹

محمد ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) - رسالت ، ۹۵

مسلم مرد و عورت ، ۱۶۳

معاشرت ، ۲۳۲

معاشیات ، ۱۸۳

معیشت ، ۱۸۳

مومن کون ہیں ، ۱۳۳

میاں بیوی کے درمیان نااتفاق ، ۱۷۰

ن

نااتفاق - میاں بیوی کے درمیان ، ۱۷۰

نکاح ، ۱۶۵

نماز ، ۱۰۳

و

وصیت و وراثت - احکام ، ۲۰۲

ہ

ہجرت

زندگی - سماجی ، ۲۰۷

س

سماجی برائیاں ، ۲۱۵

سماجی تعلقات ، ۲۱۱

سماجی زندگی ، ۲۰۷

سیاست ، ۲۸۰

ش

شہادت و عدل ، ۲۴۹

ص

صدقات ، ۱۹۵

صفت خلق و پیدائش - اللہ تعالیٰ کی ، ۳۰۳

ط

طلاق ، ۱۷۳

ع

عبادات ، ۱۰۳

عدالت - قانون و ، ۲۴۹

عدت - عورت کے لئے ، ۱۷۸

عدل و شہادت ، ۲۴۹

عشر - زکوٰۃ ، ۱۱۳

عمرہ - حج ، ۱۱۵

عورت - مسلم مرد اور ، ۱۶۳

عائلی قوانین ، ۱۶۳

غ

غور و فکر کے لئے قدرت کی نشانیاں ، ۳۰۰

غیر مسلم کے ساتھ تعلقات ، ۲۲۰

ک

کفارات - دیات ، ۲۶۱





